



إِنَّ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي أَبْيَانٍ أَنْخَافُهُنَّ عَلَيْنَا

کفر والحادی کی نظر تحقیق

# اکٹھاراً المُلْحَدِینَ

تصنیف

العاصِم حضرت علامہ مولانا محمد اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

مولانا محمد ادريس میر ٹھی

مکتبہ عرفاء

# أَكْفَارُ الْمُلْكَهِينَ



ان الذين يلحدون في ايتنا لا يخفون علينا (القرآن)

کفرو الحاد کی بے نظیر تحقیق

# اکفار الممکرین

تصنیف:

امام العصر، محدث جلیل حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مترجم:  
مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ عمر فاروق

4 شاہ فیض لکال ونیک راجی

Tel: 021-34594144 Cell: 0334-3432345

نَامِ كِتاب ..... آنفار الْمُلْكَهِينَ  
 مَؤْلِف ..... حَضْرَتْ مَالَمَهُ مُحَمَّدُ نُورُ شَاهُ شَمِيرِي  
 اَشَاعَتْ اَوْلَى ..... جُون 2010ء  
 تَعْدَاد ..... 1100  
 طَابِع ..... الْقَادِرِ بَنْجَكْ پَسِ کراچی  
 نَاسِخَر ..... فَيَاضِ اَحْمَد 021-34594144  
 مَكْتَبَهُ عَمْرُو فَاقِ ..... شَاهِ فَيَاضِ 4/491

### ملنے کے پتے

داڑا لاشاعت، اردو بازار کراچی  
 اسلامی کتب خانہ، علامہ بنوری ناؤں کراچی  
 قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی  
 ادارۃ الأنور، علامہ بنوری ناؤں کراچی  
 مکتبہ رشیدیہ، سرک روڈ کوئٹہ  
 کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اوپسندی  
 مکتبہ العکاری، جامعہ امدادیہ ستیاد روڈ فیصل آباد  
 مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور  
 مکتبہ سید احمد شہیند، اردو بازار لاہور  
 مکتبہ علمیہ، جی نی روڈ اکونہ خنک ضلع نوشهہ  
 وحیدی کتب خانہ، محاذگی قصر خان بازار پشاور

## فہرست عنوانات

## ترجمہ اکفار لمحدین

| عنوان  | صفحہ |
|--|------|
| تقریبی.....  | ۲۱   |
| تعارف.....   | ۳۲   |
| عرض مترجم.....   | ۳۱   |
| خطبہ مسنونہ عربی اور اس کا ترجمہ.....  | ۳۶   |
| مقدمة.....   | ۴۷   |
| وجہ تایف وجہ تسمیہ، مأخذ.....  | ۴۸   |
| ضروریات دین (اجمالی بیان).....   | ۴۹   |
| ختم نبوت کی شہادت فوت شدہ انسانوں کی جانب سے.....  | ۵۰   |
| ضروریات دین کی وجہ تسمیہ.....  | ۵۱   |
| ضروریات دین کا مصدق (اجمال).....   | ۵۲   |
| ضروریات دین پر عمل کرنے، یا نظری ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے سے انسان کا فرنپیش ہوتا..... | ۵۳   |
| مہمن کے لئے تمام ادیکام شریعت کی پابندی ہے مدد برنا ضروری ہے.....  | ۵۴   |
| حقیقت ایمان (اجمال).....   | ۵۵   |
| یقینیات کی طرح ثقیلیات پر بھی ایمان اتنا ضروری ہے.....   | ۵۶   |
| ایمان سے اکابر اور رقص ہونے یا نہ ہونے کے اختلاف کی تحقیقت.....  | ۵۷   |
| شیعین عزیز ہم ماعین رکوڑے متعلق اتفاق رائے اور تمام سماجہ ہیئیت کا اجماع.....                              | ۵۸   |
| پورے دین پر ایمان اتنا ضروری ہے اس کا ثبوت.....  | ۵۹   |
| تو اتر اور اس کی پندرہ تسمیہ.....  | ۶۰   |
| (۱) تو اتر سنہ.....  | ۶۱   |
| حدیث ختم نبوت از روئے سند "متواتر" ہے.....   | ۶۲   |

## عنوان

| صفحہ نمبر |  |
|-----------|--|
| ۵۲        | (۲) تواتر طبقہ.....  |
| ۵۳        | (۳) تواتر عمل یا توارث!  |
| ۵۴        | تواتر سے متعلق فائدہ نمبرا، نمبر ۲، نمبر ۳                                       |
| ۵۵        | ضروریاتِ دین میں سے کسی متواتر امر "مسنون" کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے |
| ۵۵        | ضروریاتِ دین میں "تاویل" کرنا بھی کفر ہے (اجمایی بیان).....                      |
| ۵۵        | علماء احناف کے نزدیک تو کسی بھی "قطعی" امر کا انکار کفر ہے.....                  |
| ۵۶        | ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تاویل کفر ہے.....                               |
| ۵۶        | ختم نبوت کا اعلان بر سر منبر.....  |
| ۵۷        | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے اُترنا "متواتر" ہے.....         |
| ۵۷        | پنجاب کا ایک اور ملحد اور دعویٰ نبوت و عیسویت.....                               |
| ۵۷        | اس ملحد کی حقیقت.....  |
| ۵۸        | مرزا کے زندقة والحاد کے اصلی بانی اور موجود؟.....                                |
| ۵۹        | امام مالک پرسی پر بہتان.....   |
| ۵۹        | خلاصہ کلام.....  |
| ۵۹        | اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منکر کا فرنہیں ہوتا.....                             |
| ۶۰        | مرزا جیسے جھوٹے مدعاں نبوت کا انجام.....   |
| ۶۰        | مرزا غلام احمد کے بعد مرزا نیوں میں پھوٹ اور "لاہوری، قادریانی" کی تقسیم.....    |
| ۶۰        | ایک دھوکہ.....   |
| ۶۱        | <u>مرزا غلام احمد کی تکفیر کے وجود</u>   |
| ۶۱        | پہلی وجہ! دعویٰ نبوت.....  |
| ۶۱        | ملحدوں کے قول و فعل میں تاویلیں کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں.....    |
| ۶۲        | دوسری وجہ! انکارِ نزول عیسیٰ علیہ السلام.....                                    |
| ۶۲        | تیسرا وجہ! تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام.....   |
| ۶۲        | مرزا نیوں کا حکم (اجمال)   |
| ۶۳        | غلط تاویل کا شریعت میں کوئی اختبار نہیں (احادیث سے ثبوت).....                    |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۶۳        | تاویل کہاں معتبر ہے (احادیث سے ثبوت)   |
| ۶۴        | خلاصہ (از مترجم)   |
| ۶۵        | زند یقین، بُلْدِین و باطنیہ کی تعریف اور تینوں کا حکم                                  |
| ۶۵        | کافروں کی قسمیں اور نام (از شرح مقاصد)   |
| ۶۶        | زند یقین کی تعریف اور باطنی کی تحقیق (از مصنف)   |
| ۶۶        | زند یقین اور باطنیوں کا حکم (از مصنف)  |
| ۶۸        | جن اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جاتا، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟                             |
| ۶۸        | علماء اہل سنت کے اقوال (از شرح مقاصد)  |
| ۶۸        | معزلہ کے اقوال (از مصنف)   |
| ۶۹        | اممہ اہل سنت کی دلیل (از مصنف)   |
| ۷۰        | ضروریاتِ دین اور متفق علیہ عقائد کے منکر اہل قبلہ متفقہ طور پر کافر ہیں                |
| ۷۰        | ”لَا نَكْفُرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ“ کس کا مسئلہ ہے؟                                      |
| ۷۱        | اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ (ملاعنی قارئی کی تحقیق)  |
| ۷۱        | غایی بہر صورت کافر ہے (مصنف تحقیق شرح حسامی کی تحقیق)                                  |
| ۷۲        | موجب کفر عقائد و اعمال اور اہل قبلہ کو کافر کرنے کا مطلب                               |
| ۷۲        | ضروریاتِ دین کا منکر کافر اور واجب القتل ہے  |
| ۷۲        | اجماع صحابہ جدت قطعی ہے اور اس کا انکار کافر ہے  |
| ۷۲        | کفر یہ عقائد و اعمال (محقق ابن امیر الحاج اور شیخ سکلی کی تحقیق)                       |
| ۷۵        | دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی شیخ کنی کے مراد ف اور موجب کفر ہے |
| ۷۵        | مسئلہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی تحقیق   |
| ۷۶        | ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا تعلق حکمرانوں سے ہے (حضرت مصنف کی تحقیق)                      |
| ۷۷        | کفر صریح میں کوئی تاویل مسوب عنیں ہوتی (حضرت مصنف کی تحقیق)                            |
| ۷۷        | کون سی تاویل باطل اور غیر مسوب ہے (حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق)                         |
| ۷۸        | خبر واحد کی مخالفت کی بناء پر بھی تکفیر جائز ہے (حافظ ابن حجر)                         |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۷۸        | اہل قبلہ اگر صریح کفر کے مرتكب ہوں تو ان کو کافر کہا جائے گا اگر چہ وہ قبلہ سے مخرف نہ ہوں اور اگر چہ وہ اسلام سے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں (حدیث صحیح سے ثبوت) ....  |
| ۸۰        | امام ابو عینیہ بنیسیہ نے کسی گناہ کی بنابر اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا ہے.....  |
| ۸۱        | ملحدوں اور زندیقوں کا دجل و فریب (حضرت مصنف کی تحقیق).....   |
| ۸۲        | خلاصہ (از مترجم حاشیہ میں) .....<br>حافظ ابن حجر بنیسیہ کی کتاب "فتح الباری شرح بخاری" کے اقتباسات جو اہل انکار اور تسامع پسند علماء کے شکوک و شبہات کے ازالہ اور ملحدوں کے دندان شکن جوابات پر مشتمل ہیں ....<br>کسی بھی فرض شرعی کا انکار، انتہام محبت کے بعد منکر کے کفر اور اس سے باز نہ آنے پر قبال کا موجب ہے..... |
| ۸۳        | ضروریات: یہ میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی.....   |
| ۸۴        | خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کافر ہیں.....  |
| ۸۵        | خوارج کے کفر کے دلائل.....   |
| ۸۶        | شیخ سبل بنیسیہ کا استدلال اور مخالفین کے شبہات کا جواب.....  |
| ۸۷        | اہل قبلہ قصد وارادہ کے بغیر بھی کفر یہ عقائد و اعمال کی بنابر اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں....  |
| ۸۸        | قرآن کی مراد کے خلاف باطل تاویلیں اور حرام کو حلال قرار دینے والے کافر ہیں.....  |
| ۸۹        | امت کو عمرہ یا صاحبہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں.....  |
| ۹۰        | خوارج کے متعلق علمائے کلام کی احتیاط کوشی.....<br>مخالفین کے دلائل.....  |
| ۹۱        | حضرت علی بن ابی ذئب کی روایت.....  |
| ۹۱        | محمد شیع کی جانب سے (اس روایت کا) جواب.....  |
| ۹۲        | خوارج کو کافر کہنے اور نہ کہنے کا فرق.....   |
| ۹۳        | ۱: احادیث خوارج سے مستبط فوائد و احکام.....  |
| ۹۳        | ایک پیشین گوئی اور اس کا ہو ہو وقوع.....   |
| ۹۳        | ۲: اکفار مشرکین کی بسبت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے.....  |
| ۹۴        | ۳: جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے.....  |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۹۲        | ۳: دینداری میں غلو خطرناک ہے.....  |
| ۹۳        | ۵: امام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے، اس سے جنگ کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔  |
| ۹۴        | ۶: بلا قصد بھی مسلمان دین سے خارج (اور کافر ہو جاتا) ہے.....   |
| ۹۵        | ۷: خارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے.....   |
| ۹۶        | ۸: حضرت عمر <small>رض</small> کی منقبت.....  |
| ۹۷        | ۹: کسی کے دین و ایمان کی تصدیق مخصوص اس کے ظاہر کو دیکھ کر دینی چاہئے.....   |
| ۹۸        | ۱۰: ایمان و اسلام کے شرعاً معتبر ہونے کے لئے "ما جاء به النبی علیہ السلام" پر ایمان لانا اور اس کی پابندی کا اقرار کرنا ضروری ہے.....  |
| ۹۹        | ۱۱: خوارج کے بارے میں امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تحقیق.....   |
| ۱۰۰       | ۱۲: اجماع امت کا مخالف کافر اور دین سے خارج ہے.....  |
| ۱۰۱       | ۱۳: حافظ ابن حجر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذکورہ بالاقتباسات جو امور متعلق ہوتے ہیں ان کا بیان اور مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی ان پر تشبیہ اور دوسرے مأخذ سے مزید تائید.....   |
| ۱۰۲       | ۱۴: اول: خوارج و ملحدین کی تکفیر کے بارے میں امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی رائے.....   |
| ۱۰۳       | ۱۵: ثانی: کسی بھی قطعی امر کا انکار کفر ہے، اگرچہ منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جانتا ہو.....   |
| ۱۰۴       | ۱۶: ثالث: کسی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کافر ہونے کے لئے تبدیل مذہب کا قصد ضروری نہیں.....   |
| ۱۰۵       | ۱۷: رابع و خامس: تکفیر خوارج سے متعلق حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فیصلہ اور خوارج کا مصدق.....  |
| ۱۰۶       | ۱۸: سادس: خوارج کی طرح اس زمانہ کے ملحدین کی تکفیر بھی غیر مسلموں کی بہبودت زیادہ ضروری ہے.....  |
| ۱۰۷       | ۱۹: ضروریات دین میں تاویل مسموع نہیں.....  |
| ۱۰۸       | ۲۰: توبہ کرنا اجبراً کراہ مذموم نہیں ہے.....   |
| ۱۰۹       | <u>کفریہ عقائد رکھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہ ارجاء اور دوسرے ائمہ مشاہد</u><br><u>امام ابو یوسف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>، امام محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>، امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>، وغیرہم کے اقوال و آراء</u> |
| ۱۱۰       | ۲۱: کفریہ عقائد رکھنے والے زندیق مُسْتَحْقُ قتل ہیں، ان کی توبہ بھی معتبر نہیں.....  |
| ۱۱۱       | ۲۲: ایسے زندیقوں کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ ان کی شہادت مقبول ہے، نہ ان کا احترام کرنا   |

| صفحہ نمبر | عنوان   |
|-----------|---|
| ۱۱۰       | درست ہے، نہ سلام و کلام، نہ جنازہ کی نماز جائز ہے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے، نہ ان کا ذبح حلال ہے۔   |
| ۱۱۱       | متاخرین صحابہ <small>رض</small> کا جماع اور وصیت.....   |
| ۱۱۲       | کسی بھی قطعی حکم شرعی کا انکار "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تردید ہے (امام محمد <small>رض</small> ).....  |
| ۱۱۳       | تمام کفری عقائد رکھنے والے اگرچہ موول ہوں اور قرآن و حدیث سے استدال کریں تو بھی کافر ہیں، علماء امت اس پر متفق ہیں.....   |
| ۱۱۴       | سنۃ اور بدعت کا فرق اور معیار (جعفر محمد بن وزیر الیمنی <small>رض</small> ).....  |
| ۱۱۵       | قطعی ارکان اسلام اور اسماء و صفات الہیہ کی کوئی نئی تفسیر بھی جائز نہیں.....  |
| ۱۱۶       | گمراہ فرقے کس قسم کی آیات (واحدیت) سے استدال کرتے ہیں؟.....   |
| ۱۱۷       | احتیاط..... حافظ ابن تیمیہ <small>رض</small> کی رائے.....   |
| ۱۱۸       | <u>ملحدین و موولین</u> کے بارے میں حضرات محدثین، فقهاء، متكلمين اور<br><u>کبار محققین و مصنفین</u> کے بیانات.....   |
| ۱۱۹       | حدیث خوارج کی تشریح از شاہ ولی اللہ <small>رض</small> .....   |
| ۱۲۰       | امام شافعی <small>رض</small> کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوٹی اور اس کے دلائل.....  |
| ۱۲۱       | امام شافعی کے استدال کا جواب از روئے روایت (از شاہ ولی اللہ <small>رض</small> ).....  |
| ۱۲۲       | تمثیل.....  |
| ۱۲۳       | کافر، منافق، اور زندق کا فرق (از شاہ ولی اللہ <small>رض</small> ).....  |
| ۱۲۴       | تاویل کی فسیل اور ان کا حکم اور زندقہ کی حقیقت (از شاہ ولی اللہ <small>رض</small> ).....  |
| ۱۲۵       | حدیث مردق کی محدثانہ تحقیق از مصنف <small>رض</small> اور خوارج کے کافر و مرتد ہونے پر استدال ..   |
| ۱۲۶       | خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ <small>رض</small> کی تحقیق.....   |
| ۱۲۷       | تکفیر خوارج کے باب میں فقهاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ (از بن تیمیہ <small>رض</small> ).....   |
| ۱۲۸       | روزہ نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان، مرتد ہو جاتا ہے (از بن تیمیہ <small>رض</small> ).....   |
| ۱۲۹       | انبیاء، <small>صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم</small> خصوصاً حضرت عیسیٰ <small>صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم</small> پر طعن و تشنج کرنے والا مسلمان، کافر و مرتد ہے..... |
| ۱۳۰       | زندیقوں اور ملحدوں کا الحاد و زندق ظاہر ہو جانے کے بعد ان کی توبہ بھی مقبول نہیں.....   |
| ۱۳۱       | ضروریات دین کی طرح ہر قطعی امر کا انکار بھی موجب کفر ہے، ضروری اور قطعی کا فرق.....   |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۱۲۹       | تکفیر کا ایک کلیہ قاعدہ کسی بھی حرام قطعی کا حلال کرنے والا کافر ہے۔   |
| ۱۳۰       | اصول دین اور امور قطعیہ کا منکر متفقہ طور پر کافر ہے (از کتب فقیہ)۔  |
| ۱۳۱       | حضرت عائشہؓ پر بہتان لگانے والا کافر ہے۔   |
| ۱۳۱       | منکر خلافت شیخینؒ قطعاً کافر ہے (از کتب فقہ)۔  |
| ۱۳۲       | علامہ شامیؒ کا تقابل (از کتب فقہ)۔   |
| ۱۳۳       | وہ تمام خوارج کافر ہیں جو حضرت علیؑ کو کافر کہتے ہیں (از کتب فقہ)۔   |
| ۱۳۳       | التزام کفر اور لزوم کفر میں کچھ فرق نہیں (از شاوند العزیزؒ)۔   |
| ۱۳۴       | رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ موجب کفر واردہ اد ہے۔   |
| ۱۳۵       | رسول اللہ ﷺ کی صورت و سیرت پر نکتہ چینی موجب کفر ہے۔   |
| ۱۳۵       | رسول اللہ ﷺ کی صفات اور حیله مبارکہ میں کسی قسم کی بھی کذب بیانی موجب کفر ہے (از خفاجیؒ)۔                          |
| ۱۳۶       | اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث یا مخلوق ماننا موجب کفر ہے۔  |
| ۱۳۶       | اللہ تعالیٰ کے کام کو مخلوق ماننا موجب کفر ہے (از خفاجیؒ)۔   |
| ۱۳۶       | رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا آپ کی توبین و تنقیص کرنے والا کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔          |
| ۱۳۶       | شاتم رسول کی توبہ بھی قبول نہیں (از کتب فقیہ)۔   |
| ۱۳۷       | ضروری اور قطعی امور دین کا منکر اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہو کافر ہے۔ نیز اہل قبلہ کے معنی اور مراد (از ماعلیٰ قاریؒ)۔ |
| ۱۳۷       | رافضی اور غالی شیعہ (از غنیۃ)۔   |
| ۱۳۷       | تکفیر کی غرض سے نبی کے نام کی تصحیر بھی کافر ہے (از تکفہ)۔   |
| ۱۳۸       | رافضی قطعاً کافر ہیں (از علامہ نابلسی)۔  |
| ۱۳۸       | کافر اور مبتدع کافر، کن امور پر اہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے؟  |
| ۱۳۸       | جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجزہ و طلب کرے وہ بھی کافر ہے (از تمہید)۔   |
| ۱۳۹       | حضرت علیؑ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو امت نے قتل کر کے سولی پر لٹکایا ہے (از قاضی عیاضؒ)۔                    |

| عنوان  | صفحہ نمبر |
|--|-----------|
| متواتر اور مجمع علیہ امور کا منکر کافر ہے، نماز کے اركان و شرائط یا اس کی صورت و بینت کا منکر کافر ہے (از قاضی عیاض نبیہ)        | ۱۳۹       |
| کن لوگوں کو کافر کہا جائے؟ (از خفاجی نبیہ)   | ۱۴۰       |
| ۱: جو خشور سی تجہیم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو۔  | ۱۴۰       |
| ۲: جو شخص خود اپنی نبوت کا مدعی ہو۔  | ۱۴۰       |
| ۳: جو نبوت کے اکتسابی ہونے کا مدعی ہو۔   | ۱۴۰       |
| ۴: جو شخص اپنے پاس وحی آنے کا مدعی ہو۔   | ۱۴۰       |
| ۵: جو آیات قرآن اور نصوص حدیث کو ان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی سے بتاتے ہیں۔   | ۱۴۱       |
| ۶: جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والوں کو کافر نہ کہے۔   | ۱۴۱       |
| ۷: جو کوئی ایسی بات زبان سے بے جس سے امت کی تحلیل یا سحابہ کی تکشیر ہوتی ہو۔   | ۱۴۲       |
| ۸: جو مسلمان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جو خاص آنکھ کا شعار ہے۔  | ۱۴۲       |
| ۹: کسی کفری قول کے قابل کی تائید و تحسین کرنے والا بھی کافر ہے۔  | ۱۴۲       |
| ۱۰: با تصدیق کلمہ کفر کہنے والے کے قول کی کوئی تاویل معتبر نہیں (از کتب فتنہ)۔   | ۱۴۳       |
| ۱۱: کلمہ کفر کہنے والے کی نیت کا اعتبار کس صورت میں ہے؟ اور کہاں ہے؟   | ۱۴۳       |
| ۱۲: ہنسی دل لگلی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعاً کافر ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہے، نہ عقیدہ و کا (از کتب فتنہ)۔ | ۱۴۳       |
| ۱۳: جو لوگون فی حشر "نبوت" جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ کے اہل اسلام کی طرح قابل نہ ہوں وہ کافر ہیں (از کتب فتنہ)۔                   | ۱۴۴       |
| ۱۴: جوانبیاء مَعْصوم ہونے کا قابل نہ ہو وہ کافر ہے (از کتب فتنہ)۔  | ۱۴۵       |
| ۱۵: محرمات شرعیہ قطعیہ کو جو شخص اپنے لئے حلال سمجھے وہ کافر ہے اور اس کا جہل غدر نہیں۔  | ۱۴۵       |
| ۱۶: صحیح بخاری کی ایک حدیث اور قدرت باری تعالیٰ کے اعتقاد سے متعلق ایک اشکال اور اس کا حل (تحقیق خاص از مصنف نبیہ)۔              | ۱۴۵       |
| ۱۷: برینا، جہل حرام کو حلال سمجھ لینا کمن صورتوں میں اور کن لوگوں کے لئے عذر ہے؟   | ۱۴۶       |
| ۱۸: اتمامِ حجت سے کیا مراد ہے (تحقیق خاص مصنف نبیہ)۔   | ۱۴۶       |
| ۱۹: ضروریات دین سے ناواقفیت اور جہل غدر نہیں ہے (از کتب افتہ)۔   | ۱۴۶       |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۱۴۹       | یہ کہنا کہ ”علماء مخصوص ذرانے و حمل کانے کے طور پر کافر کہہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی مسلمان کافرنہیں بوتا“ سراسر جماعت ہے۔   |
| ۱۵۰       | ختم نبوت پر ایمان (از تفتازانی نہیں)   |
| ۱۵۰       | توحید و رسالت کی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے۔   |
| ۱۵۰       | ختم نبوت پر ایمان کا برنبی سے عہد لیا گیا اور اعلان کرایا گیا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار کرنے والے کی توبہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاص اس عقیدے سے توبہ نہ کرے۔ |
| ۱۵۱       | رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی شخص کو خدا یا خدا کا اوٹار کہنا (از ابن حزم نہیں)۔   |
| ۱۵۲       | ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے خدا، رسول اور دین کے ساتھ استہزا، (از ابن حزم نہیں)۔  |
| ۱۵۲       | امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا عیب چیزیں موجب کفر احمد اور قتل ہے (از ملکی قاری نہیں)۔  |
| ۱۵۳       | متواترات کا انکار کفر ہے اور تو اتر سے عملی تواتر مراد ہے (از محیط)۔   |
| ۱۵۳       | قطعی اور یقینی امور کا منکر کافر ہے (از کتب افتاء)۔  |
| ۱۵۴       | کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے (از ابن حجر علی نہیں)۔  |
| ۱۵۶       | ایک شبہ کا ازالہ (از مصنف نہیں)۔   |
| ۱۵۷       | ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ (از مصنف نہیں)۔  |
| ۱۵۷       | ایک اور فرق (از مصنف نہیں)۔  |
| ۱۵۸       | کفر یہ اقوال و افعال کا ارتکاب کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ دل میں ایمان موجود ہو (از مصنف نہیں)۔   |
| ۱۵۹       | کافروں کے سے کام کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔   |
| ۱۶۰       | بغیر کسی جبرا کراہ کے زبان سے کلمہ کفر کہنے والا کافر ہے، اگرچہ اس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو (از کلیات ابوالبقاء و شرح فقہاً کبر)۔   |
| ۱۶۰       | تاواقفیت کا اعذر کس صورت میں مسموع ہے؟ اور کس میں نہیں؟  |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۱۶۰       | زبان سے کلمہ کفر کہنا اگرچہ دل لگی کے طور پر ہو موجب کفر ہے  |
| ۱۶۱       | شارع علیہ نے کلمہ کفر زبان سے کہنے کو موجب کفر قرار دیا ہے   |
| ۱۶۲       | کفر کو محیل بنالینا کفر ہے (از مصنف جمیل)  |
| ۱۶۳       | مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے تمام مرزاٹی کافر ہیں ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اور ان میں تاویل کرنے والا کافر ہے  |
| ۱۶۴       | ضروریات دین اور امور قطعیہ کے علاوہ امور حقہ میں تاویل مسموع ہے  |
| ۱۶۵       | ضروریات اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں   |
| ۱۶۶       | مانعت تکفیر اہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اور اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟  |
| ۱۶۷       | اجماع ضروریات دین میں سے ہے (از کلیات)   |
| ۱۶۸       | امر قطعی کا انکار بہر صورت کفر ہے (از فتح المغیث)  |
| ۱۶۹       | لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق (از فتح المغیث)   |
| ۱۷۰       | لزوم کفر اور التزام کفر کے بارے میں قول فیصل   |
| ۱۷۱       | خاتم   |
| ۱۷۲       | کسی بھی امر مجمع علیہ کا منکر کافر ہے، مجمع علیہ نے کیا مراد ہے؟   |
| ۱۷۳       | کبار محققین کے اقوال و حوالے (از کتب فقد و افتاء)  |
| ۱۷۴       | ختم نبوت کا عقیدہ مجمع علیہ ہے، اس میں کوئی بھی تاویل و تخصیص مسموع نہیں، اور اس کا منکر قطعاً کافر ہے (غزالی جمیل)  |
| ۱۷۵       | قاعدہ کلیہ کون سی بدعت (گمراہی) بلاشبہ موجب کفر ہے اور کون سی نہیں (از کتب افتاء) ضروریات دین کا منکر بہر صورت کافر ہے امور قطعیہ کا منکر اگر بتلانے کے باوجود بھی انکار پر مصروف ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ (از کتب افتاء) |
| ۱۷۶       | موجب کفر بدعت (گمراہی) کے مرتكب کے پیچھے نماز جائز نہیں  |
| ۱۷۷       | امام ابوحنیفہ جمیل کے مشہور قول ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی حقیقت   |
| ۱۷۸       | ضروریات دین اور امور قطعیہ دین کا منکر قطعاً کافر ہے اور کوئی تاویل مسموع نہیں   |
| ۱۷۹       | تاویل باطل خود کافر ہے (فتوات الہبیہ)  |
| ۱۸۰       | لزوم کفر، کفر ہے یا نہیں؟ (از کلیات والیو اقتیت وغیرہ)   |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۱۷۵       | ضروریات دین میں تاویل کرنا بھی کفر ہے، بلکہ تاویل انکار سے بھی بڑھ کر ہے..... بعض تاویلیں خود کفر ہوتی ہیں، مثلاً جو تاویل ضروریات دین کے مخالف اور منافی ہو۔..... |
| ۱۷۶       | اسلام خود مبتوع ہے، وہ کسی کے تابع نہیں (محقق یمانی ہبہ)   |
| ۱۷۷       | فرقہ باطنیہ کی تاویلیں (محقق یمانی).....   |
| ۱۷۹       | دین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے (محقق یمانی ہبہ)  |
| ۱۷۹       | موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں (محقق یمانی ہبہ)   |
| ۱۸۰       | زیر بحث مسئلہ میں "القواصم والعواصم" کے اہم ترین اقتباسات.....   |
| ۱۸۰       | جو تاویل عہد نبوت اور عہد صحابہ میں مسموع نہ ہو وہ معتبر نہیں (القواصم)  |
| ۱۸۱       | ایک اعتراض اور اس کا جواب (القواصم).....   |
| ۱۸۲       | شریعت کا ہر قطعی امر ضروری ہے (القواصم).....   |
| ۱۸۲       | تو اتر معنوی جحت ہے (القواصم).....   |
| ۱۸۲       | ہر امر قطعی کے لئے ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے یا نہیں؟.....  |
| ۱۸۳       | محقق موصوف محمد بن ابراہیم الوزیر یمانی ہبہ کی رائے.....   |
| ۱۸۳       | کسی نص قطعی کے مفید یقین ہونے کا مدار (الوزیر یمانی ہبہ)   |
| ۱۸۴       | ایسی نص قطعی میں تاویل حرام اور منوع ہونے کی دلیل (الوزیر یمانی ہبہ).....  |
| ۱۸۵       | ہر امر قطعی کے مفید یقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر) ہونا ضروری ہے (الوزیر یمانی ہبہ)   |
| ۱۸۵       | دلائل شرعیہ میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں (الوزیر یمانی ہبہ).....  |
| ۱۸۶       | کثرت دلائل، تعدد طرق اور قرآن سب مل کر یقین کے لئے مفید ہوتے ہیں (الوزیر یمانی ہبہ)  |
| ۱۸۶       | ابن حاجب ہبہ کے نزدیک ضروری کے معنی (الوزیر یمانی ہبہ).....  |
| ۱۸۶       | مدار کفر (الوزیر یمانی ہبہ).....   |
| ۱۸۶       | تاویل معتبر ہونے کا مدار اور ضابط (الوزیر یمانی ہبہ).....  |
| ۱۸۷       | مثال (محمد بن ابراہیم الوزیر یمانی ہبہ)  |
| ۱۸۷       | احتیاط (محمد بن ابراہیم الوزیر یمانی ہبہ).....   |
| ۱۸۷       | معزلہ، شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں (الوزیر یمانی ہبہ).....  |
| ۱۸۸       | تکفیر کا ضابط (الوزیر یمانی ہبہ).....  |

| صفحہ نمبر | عنوان   |
|-----------|---|
| ۱۸۹       | مصنف نور اللہ مرقدہ کی رائے.....  |
| ۱۹۰       | نبی کی تکذیب عقلاً فوج اور موجب کفر ہے (از اتحاف).....  |
| ۱۹۰       | تاویل و تجویز کا ضابطہ (از حافظ ابن قیم).....   |
| ۱۹۱       | جو تاویل دھوکہ اور فریب سے کی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں.....  |
| ۱۹۳       | تاویل کے معتبر ہونے یانہ ہونے میں قرآن حالیہ کو بھی دخل ہے.....   |
| ۱۹۵       | نتیجہ بحث و حاصل تحقیق، نیز مانعین زکوٰۃ کے متعلق شیخین شیعہ کے اختلاف کی تتفیق و تحقیق۔  |
| ۱۹۶       | ایک نئی حقیقت کا انکشاف (از حضرت مصنف).....   |
| ۱۹۸       | <u>صحابہ کرام</u> <small>شیعہ</small> : جمعین کا جماع   |
| ۱۹۸       | کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تاویل سے حلال نہیں ہو سکتی اور اس کو حلال سمجھنے والا اگر تو بہ نہ کرے تو کافر اور واجب القتل ہے (از امام طحاوی).....         |
| ۲۰۰       | جیسے قرآن کے منکر کافر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے، اسی طرح قرآن کے معنی و مراد سے منکر بھی کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا فرض ہے.....                  |
| ۲۰۱       | قرآن و حدیث کے عرف اور متقد میں کی اصطلاح میں تاویل کے معنی قرآن کی مجمع علیہ مراد و معنی کا انکار قرآن کے اذکار کے مراد کے کفر و قتل ہے (از مصنف)..... |
| ۲۰۷       | جو شخص کسی کافر و مرتد کو تاویل کر کے مسلمان ثابت کرے، یا کسی یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے (از ابن تیمیہ).....                              |
| ۲۰۸       | قرآن گریم کی آیات کو بے محل استعمال کرنا اور ہیر پھیر کر اس کی مراد و معنی کو بیان کرنا کافر ہے (از حضرت مصنف).....                                     |
| ۲۰۹       | قرآن حییم سے ثبوت (از حضرت مصنف).....   |
| ۲۱۰       | مذکورہ بالا احادیث و آیات سے مستنبط نتیجہ (از حضرت مصنف).....   |
| ۲۱۰       | روزہ نماز کی پابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان کفریہ عقائد و اعمال کی بناء پر کافر ہو جاتا ہے (از حضرت مصنف).....                           |
| ۲۱۱       | مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متكلمین میں اختلاف کی حقیقت (از حضرت مصنف).....   |
| ۲۱۱       | مشہور مقولہ "اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے" کی حقیقت (از حضرت مصنف).....   |
| ۲۱۱       | مصنف نور اللہ مرقدہ کا اس رسالہ کی تصنیف سے مقصد اور اس کی وضاحت.....   |

| صفحہ نمبر | عنوان   |
|-----------|---|
| ۲۱۲       | دین کے محافظ علماء حق کا فریضہ.....   |
| ۲۱۲       | اردو ترجمہ اور اس کی نشر و اشاعت کا مقصد (حاشیہ، از مترجم)  |
| ۲۱۳       | کبار علماء کی تصانیف سے اہم ترین اقتباسات   |
| ۲۱۳       | کفری عقائد اور اقوال و افعال پر سکوت جائز نہیں (از غزالی).....                                    |
| ۲۱۴       | رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کا حکم (از ابن تیمیہ)      |
| ۲۱۵       | کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گایلوں اور گستاخیوں کو نقل کرنے کا حکم.....                   |
| ۲۱۶       | مرزاۓ قادریان علیہ کی حضرت عیسیٰ ﷺ کی جانب میں کی ہوئی پُرد فریب توہین و تذلیل اور گستاخیاں.....  |
| ۲۱۸       | ترجمہ قصیدہ "صدع النقاب عن جسامة الفنجاب" .....   |
| ۲۲۰       | تاویل باطل سے علماء حق کی ممانعت  |
| ۲۲۲       | صفات النہیہ پر بے چوں و چڑ اور بغیر کسی تاویل کے ایمان لانا فرض ہے                                |
| ۲۲۲       | اممہ احباب کی طرف "جہنم" ہونے کی نسبت بعض و عناد کا مظاہرہ ہے.....                                |
| ۲۲۵       | تاویل باطل کی مضرت اور موؤول کا فرض (از ابن قیم)  |
| ۲۲۶       | ثبوت و تائید (از ابن تیمیہ)   |
| ۲۲۷       | مانعین زکوٰۃ کو مسلمان باغی سمجھنا سخت غلطی اور گمراہی ہے (از مصنف)                               |
| ۲۲۷       | بعض مرتبہ تاویل زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے (از مصنف)  |
| ۲۲۷       | جو شخص نبوت کو اکتسابی کہتا ہے وہ زندیق ہے  |
| ۲۲۸       | نبوت کو اکتسابی مانتے والوں کے قول کی تفصیل اور تردید (ابن تیمیہ)                                 |
| ۲۲۹       | اس عقیدہ کی سزا   |
| ۲۲۹       | تکفیر کی دلیل ظنی بھی ہو سکتی ہے (از غزالی)   |
| ۲۳۰       | تکفیر کا حکم قیاس پر بھی منی ہو سکتا ہے.....  |
| ۲۳۰       | جس تاویل سے دین کو نقصان پہنچتا ہو اگرچہ اس کی گنجائش بھی ہوتی بھی موؤول کی تکفیر کی جائے گی..... |
| ۲۳۰       | کبھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ بھی محل تردداً و محتاج غور فکر بن جاتا       |

| صفہ نمبر | عنوان   |
|----------|---|
| ۲۲۰      | ..... ہے ایسی صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا۔  |
| ۲۲۱      | ..... ایک ہی بات کبھی موجب تکفیر ہوتی ہے، کبھی نہیں (از مصنف <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> )  |
| ۲۲۱      | <u>تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں (از مصنف <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small>)</u>  |
| ۲۲۲      | ..... کفر کی ایک نئی قسم محض خواہش نفسانی اور سرکشی کی بنابر انکار کرنا۔  |
| ۲۲۲      | ..... "ما النَّزْلُ اللَّهُ" کے اقرار کے باوجود انسان کا فر ہو جاتا ہے (از ابن تیمیہ <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> )                              |
| ۲۲۳      | ..... مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے۔  |
| ۲۲۳      | ..... تاویل کلام شارع <small>عَلِيِّهِ</small> کی تسفیص کے مراد ف ہے (از مصنف <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> )                                     |
| ۲۲۵      | <u>شیخ المشايخ خاتمة المحمدین حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سره کی تحقیق اینیق</u>  |
| ۲۲۵      | ..... مسئلہ تکفیر میں ایک تضاد اور اس کی تحقیق۔   |
| ۲۲۵      | ..... علامہ شمس الدین خیالی کی تحقیق۔   |
| ۲۲۵      | ..... حضرت شاہ صاحب <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> کا اس تحقیق پر اعتراض۔  |
| ۲۲۶      | ..... میر سید شریف کی تحقیق۔  |
| ۲۲۶      | ..... حضرت شاہ صاحب <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> کی تحقیق۔   |
| ۲۲۶      | ..... ضروریات دین۔  |
| ۲۲۷      | ..... جو شخص ان امور کو نہیں مانتا اس کا ایمان معتبر نہیں۔  |
| ۲۲۸      | ..... ضروریات دین کی تعریف۔   |
| ۲۲۸      | ..... اس تعریف کے متعلق حضرت مصنف <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> کی رائے۔  |
| ۲۲۸      | ..... شیخ ابو الحسن اشعری <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحب <small>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ</small> کی رائے۔ |
| ۲۲۸      | ..... اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر جائز نہیں۔   |
| ۲۲۸      | ..... ایک اور نظریہ۔  |
| ۲۲۸      | ..... اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے۔   |
| ۲۲۹      | ..... کفر تاویلی۔   |
| ۲۲۹      | ..... کمن امور پر تکفیر نہ کرنی چاہئے؟  |
| ۲۲۹      | ..... ایک اعتماد ارض اور اس کا جواب، کفر و ایمان میں تقابل "عدم مکا" ہے۔  |

| صفحہ نمبر | عنوان  |
|-----------|--|
| ۲۵۰       | کفر کی چار قسمیں ہیں: ۱: کفر جبل۔ ۲: کفر عناد۔ ۳: کفر شک۔ ۴: کفر تاویل۔            |
| ۲۵۱       | تیجہ بحث.....  |
| ۲۵۲       | <u>حضرت شاہ صاحب</u> سے ایک استفقاء اوس کا جواب، رکیک تاویلات کرنے والے کا حکم     |
| ۲۵۳       | <u>مسجدوں سے ملحدوں کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت (از مصنف</u>                  |
| ۲۵۴       | حدیث سے ثبوت.....  |
| ۲۵۵       | قرآن سے ثبوت.....  |
| ۲۵۶       | جو مستحق تکفیر ہے اس کا حکم مرد کا سا ہے.....                                      |
| ۲۵۷       | <u>خلاصہ کتاب (از مصنف</u>   |
| ۲۵۸       | تصنیف رسالہ ﷺ کا مقصد.....   |
| ۲۵۹       | ایک زعم باطل کی تردید.....   |
| ۲۶۰       | ایک شبہ کا ازالہ: جبل عذر نہیں ہے.....   |
| ۲۶۱       | مرتد مرد و عورت کا حکم.....  |
| ۲۶۲       | داویں میں ایمان دالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم تو صرف توبہ کرنے کے مامور ہیں..... |
| ۲۶۳       | توبہ کس سے کرائی جائے؟ اور کس سے نہیں؟ حضرت علیؓ کا فیصلہ.....                     |
| ۲۶۴       | ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب.....  |
| ۲۶۵       | آخری تنبیہ.....  |
| ۲۶۶       | خاتمه.....   |
| ۲۶۷       | حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ کا سلسلہ نسب.....   |
| ۲۶۸       | فہرست کتب حوالہ "اکفار املحدین".....   |



الله  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَنَصْلَى عَلَيْهِ سَلَوةً

## ترجمہ تقاریب معتبرہ


### حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارپوری جیسا اللہ یعنی

حمد و حمدلوة کے بعد فقہاء اور محدثین اور متكلمین کی کام میں اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ سا ہو گیا تھا اور سمجھ میں آنے والا نہ تھا باں اگر کسی خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے عقلی سلیم عطا فرماتے اور قبول حق کی توفیق عنایت فرماتے تو اور بات تھی اور بعض لوگ تو اپنی کمی فہم کی وجہ سے فقہاء محدثین کی عبارات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے پس حضرت مولانا اشیخ الحان مولوی محمد انور شاہ صاحب نے جودا الرعوم دیوبند میں مدرسہ المدرسین سے عہدے پر جلوہ افراد زیں اس عقدہ کو حل کرنے کے لئے کمرہت باندھی اور مسئلہ تکفیر اہل قبلہ کی تحقیق میں دن رات ایک کرتے ہوئے حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح کر دیا۔

سو و سو دلائیں اور عبارات جو اس مسئلہ کے بارہ میں متعدد میں و متاخرین علماء سے جمع کی گئیں ان پر جب میں مطلع ہوا اور اس مسئلہ سے جبار، اور ہمت بوجوں کے شبہ کے زائل ہونے پر مطلع ہوا تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فتنہ و بر جم سے واضح حق اور صحیح مذہب پا کر شرعاً صدر کے ساتھ تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب گوریس بہترین بدالہ عدا فرقہ میں جوان کی ووتش و ہمت کو کافی اور وافی ہو جائے اور دعا ہے کہ یہ مجموعہ بارگاہ یزد میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔

خلیل احمد

ناظام مدرسہ مذاہب العلماء سہارپوری



حضرت اقدس مجده الہمۃ والدین والتصوف

### حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسا اللہ یعنی

حاجہ داڑھی صلیلہ بندھ عذر گزار بن کر یہ ہستہ شہرت، ماصل کر چکی تھی اور جو خاص و عام کے ورد زبان تھیں جو وہ اہل قبلہ ہیں ان کی تکفیر مصدقہ مسٹریٹ ہے۔ اور چودھ ضروریات دین کا انکا کریں

یا ضروریات دین میں تاویل فاسد کریں، یا ان کی باتوں سے کفر لازم آئے جب کہ اس نے اتنا امانت کیا ہو تو ایسے آدمی کو کافر قرار دینا منع ہے اور بعض لوگ تو نام لے کر مرزا نیوں کے عدم تکثیر کا نتیجہ نکلتے تھے، خاص کر ان مرزا نیوں کو کافر قرار نہ دیتے تھے جو طاہر امرزا قادریانی کے نبی ہونے کے منظر تھے اور مرزا کے دعویٰ نبوت کی تاویل کرتے تھے۔


میری عمر کی قسم! اگر معاملہ ایسے ہوتا جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تو پھر ان لوگوں کو کافر قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے جو مسلمہ کذاب یہاں پر ایمان لائے حالانکہ وہ بھی تو نماز میں پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور مسلمہ کے دعویٰ نبوت کی تاویل کرتے تھے اور مسلمہ کذاب بھی ہمارے سردار نبی ﷺ پر ایمان لایا تھا اور میں نے تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو اس بات کا قائل ہو کہ مسلمہ کذاب یا اس کے تبعین کافرنہیں اور جب یہ لازم ہے یعنی مسلمہ کذاب اور اس کے تبعین کافرنہیں، "بالاتفاق باطل ہے تو ملزم یعنی" مرزا اور اس کے تاویل کرنے والے کافرنہیں۔

پس اللہ تعالیٰ "اکفار الملحدین" نامی رسالہ کے مصنف کا جریزیل، طافر ما نیں جنہوں نے ایسی وضاحت کروی جس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں سکتی اور ضرورت بھی نہیں۔ گیونکہ یہ مل و مکمل ہے اور دلائل تو انصاف کا دامن چھوڑے بغیر برابر سراہ بریان فرمائے۔ پس اس وقت جو یہ رسالہ میرے پاس ہے، مقصود میں کافی اور شافی ہے اور بوقت بحث جن دلائل کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے کافی وافی ہے پس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائ کر اسے نافع اور مفید بنائیں اور اس عالم کو شکوہ و شبہات کے اندر ہیروں سے دور کرنے والا بنائیں۔

اپنے رب کی رحمت کا حجتان بنہ

محمد اشرف علی تھانوی

بروز بخت ۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ



حضرت اقدس حضرت مولانا و مرشدنا مفتی اعظم

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب

حمد و صلوٰۃ کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں مرزا قادریانی کی نبوت کے قائلین قادریانی گروہ کو کافر قرار دینے کے بارے میں علماء کافتوئی کھلکھلتا تھا اور اس فرقہ احمدیہ کو کافر قرار دینے میں بھی وہ لوگ متعدد تھے جو مرزا قادریانی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مسیح موعود تھا اور امام مهدی


منتظر تھا اور بہت بڑا مجدد دین تھا اور بہت بڑا ولی تھا اور کہتے ہیں کہ اگرچہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبوت اور رسالت سے موسوم کر لیا تھا وحی اور الہام کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اپنی وحی اور دوسرے انبیاء کی وحی میں برابری کر دی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے حقیقتہ دعویٰ نبوت نہ کیا تھا۔

تو اس طرح کی تاویلات سن کر بعض سلف صالحین نے ان کو متاؤل سمجھ کر ان کے گلہر میں توقف و تردود کیا اور ان جیسوں کی مثل میں بھی توقف کیا۔ اسی اثناء میں اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے عمدہ ترین اور اپنے وقت کے مضبوط علم والے ارباب فضل کے بڑے اور اصحاب فضیلت کے لئے قبل فخر بہت بڑے عالم علامۃ الدھر مولانا محمد انور شاہ بھائی (جو کہ دارالعلوم میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہیں) اس مسئلہ کی تحقیق میں سرتوڑ کوشش کی اور تدقیق کے جھنڈے کو بلند کر دیا، مقصود سے پردوہ ہشادیا اور اندر حیروں کو مٹا دیا۔ ایک رسالہ میں جس کو انہوں نے ”اکفار لمحمدین“ کے نام سے موسوم کیا اسے پر رونق بنایا موتیوں سے اور معاملے کو اتنا واضح کر دیا کہ دل کی کھنکن اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ جب تمہاری نظر ان موتیوں پر پڑے گی تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ حصول اطمینان کے لئے کشادہ راستے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اچھا بدل عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ملحدین کی جڑ کو اکھاڑ پھینکیں جو کہ ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ دین ممیں کے رنگ کو واضح کر دیں اور اللہ تعالیٰ ظالم اور خائن لوگوں کی مدد اپر کو مٹا دیں۔

کفایت اللہ عَفْی عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ




## حضرت العلامہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی بھائی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوات کے بعد: جب قادیانی کے ایک باغی اور سرکش گروہ نے اسلام سے بغاوت کی اور سرکشی کی اور بہت بڑی نافرمانی اور زمین میں فساد برپا کر دیا اور انہوں نے اپنے سرخنے کے لئے نبوت عالمہ یا اس کے غیبی معہود ہونے کو یا مہدی مجدد دین متنیں ہونے کو ثابت کیا تو کمرستہ ہوئے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لئے اور ان کی جھوٹی باتوں کو مٹانے کے لئے۔ علامہ فہما محدث شیخ الحدیث اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری بھائی نے فائدہ تامہ پہنچایا اور عمدہ ترین مضبوط اور مستحکم کام کر دکھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کر دیا جو کہ ملحد، سرکش

باغی قادریانی کے پیروکار ہیں اور ایسے دلائل کے ساتھ رہ فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔

وَآخِرُ دُعْوَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



## حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل

بسم الله الرحمن الرحيم


تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ظاہری، باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، رحمتیں اور سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جو خاتم الانبیاء والرسل ہیں اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام ﷺ پر جو نیک اور منتخب ہیں۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد: میں مطلع ہوا اکفار الملحدین نامی واضح رسالہ پر اور میں اس رسالہ کے مطابع سے نفع مند ہوا۔ محمد اللہ جو حضرت شیخ علامہ حضرت مولانا انور شاہ شبیری کی تصنیف لطیف ہے جو بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اپنے زمانہ میں بے مثال ہیں اور بے نظیر ہیں اسلاف کی نسلی ہیں اور بعد والے لوگوں کے لئے جست ہیں علم میں سمندر کی مثال رکھتے ہیں خوب چمکنے والے چراغ کی مانند ہیں وہ ایسے آدمی ہیں کہ جس کی مثال کو موجودہ زمانہ میں آنکھوں نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے اور شیع عن المکنر سے اور پاک دامنی اور تقویٰ سے واپر ترین حصہ عطا فرمایا ہے اور وہ ہمارے سردار اور ہمارے شیخ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سای شفقت کو طلباء اور مریدین کے لئے تادری قائم رکھے۔ اس وقت زمانہ کی ضرورت اس جیسے عمدہ رسالہ کی طرف داعی تھی کیونکہ مسئلہ بڑا جنم تھا اور اقوال مضطرب تھے اور ان کا شیرازہ بکھرا پڑا تھا اور اقوال تھے بھی بہت زیادہ۔ اس وجہ سے بعض اہل علم اور نیک ارادہ والے بھی غلط فہمی اور شک و تردید میں مبتلا ہو گئے پس اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام فائدہ حاصل کرنے والوں کی طرف سے اچھا بدل عطا فرمائیں حضرت اشیخ علامہ کو جو اس رسالہ کے مصنف ہیں کیونکہ انہوں نے حق اور درستگی کے چہرے سے پردہ چاک کر دیا اور اشتباہ اور شک کی شہرگ کوکٹ دیا۔ اہل قبلہ کی عدم تکفیر کے قاعدہ کی وضاحت کر دی اور صاف شفاف کر دیا تاویل کرنے والے کے عدم تکفیر کے ضابطے کو، ایسی وضاحت فرمائی کہ اس سے زائد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ آنکھوں والوں کے لئے صحیح کو واضح کر دیا اور کافی شافی بیان فرمایا تھی کہ شبہ اور انکار کی گنجائش کو باقی نہ رکھا لیکن اس شخص کے لئے شبہ اور انکار کی گنجائش نہیں جس کا قلب سلیم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے شرح صدر بھی

کر دیا ہو، یا جس نے سنتے کے لئے کان وہرے ہوں اور اس کا دل اور دماغ بھی حاضر ہوں پس اللہ کے لئے اول آخر اور ظاہر اباطناً تمام تعریفات ہیں اس لئے کہ وہ تعریفوں اور بزرگی والا ہے۔

العبد: شبیر احمد عثمانی

۲۱ جمادی الاولی ۱۴۳۲ھ



## العلامة الفقيه الحدث المفتی مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد ادام اللہ ظلہ

حمد و صلوات کے بعد! جب عوام بلکہ اہل علم جو بڑے سمجھدار شمار ہوتے تھے ان کا گمان ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی زبانیں کلمہ شہادت سے گوئیتی ہیں اور ایمان باللہ کا بھی اظہار کرتی ہیں وہ تو کچھ مومن ہیں اگرچہ انکار کر دیا انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے ہزاروں معانی محققہ کا، حالانکہ جمہور کے ہاں وہ قطعی التبوت ہیں اور وہ ایسی تادیل کرتے ہیں جو باطل کردیتی ہے منقول مشہور عقیدے کو۔ تو ان لوگوں کے ہاں ایمان بالبعض ایسا ایمان ہو گیا کہ بعض کا کفر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اور انہمہ مجتہدین سے یہ بات عام ہو گئی کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ انہمہ مجتہدین کے اس قول کی مراد پر مطلع نہ ہو سکے تو خاص و عام کی ضرورت نے تقاضا کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جو ایمان کے ختم ہونے کی صورتوں کو کھول کر بیان کروے اور دلیل کے ساتھ اسلاف کے مسلک کو واضح کر دے اور زائل کر دے شک کرنے والوں کے وہمовں کو ان زنا دقة اور ملحدین کو کافر قرار دینے میں جو تاویل باطل کے ساتھ اور گمراہ کرنے والی تحریف کے ساتھ اپنی خواہشات کے تبعیں ہیں اس طور پر مسلک حق کو واضح اور شک کرنے والوں کے شک کو زائل کر دے کہ حق صریح واضح ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا شک و خیل نہ ہو سکے اور نہ اس میں عقل سلیم کے مالک کو شک باقی رہے۔

الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے بہت بڑے علم رکھنے والے کو توفیق عطا فرمائی جو بہت بڑے عقلمند اور اپنے زمانہ کے فقیر اور اپنے زمانہ کے محدث جو روایت میں ثقہ اور فہم و فراست میں جحت ہیں وہ شیخ العلاماء مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اور سارے مسلمانوں پر ان کے سایہ کو لمبا کر دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھیں اور ان کی چاہت میں انہیں کامیاب بنائیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس بحث میں عمدہ تصنیف پیش فرمائی اور اس کو موسوم کیا ”اکفار المتأولین والملحدین فی شئی من ضروریات الدین“ انہوں نے اس

میں فصلیں قائم کیں اور ایسے اصولوں کو جمع کر دیا کہ ان اصولوں سے کفر اور اسلام کا مدار واضح ہو جاتا ہے اور اہل حق اور سرکش لوگوں کے درمیان امتیاز آسان ہو جاتا ہے اور ہر باب میں مفہوم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مدلل کر دیا اور بڑے بڑے ائمہ سے روایات لائے۔ سو وہ ایسی عمدہ کتاب لائے کہ دل اس کے لئے حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس سے دل خنثی ہو جاتے ہیں ان کی اس کوشش پر اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزاء خیر عطا فرمائیں پوری پوری اور مکمل جزاء۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله على النبي الكريم وآلها واصحابه اجمعين۔

(علامہ حضرت اقدس) ابوالمحاسن محمد سجاد بیہقی

## حضرت العلامہ حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب، ناظم اتحاد علماء و اعلیٰ علوم دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد و صلوٰۃ کے بعد: پس پنجاب کے مسیلمہ کذاب نے بے شک ختم نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا اور اس کے معنی میں تحریف کی اور اس کے کفر میں اتباع کی اور دعویٰ کر دیا کہ حقیقی اور شرعی نبوت کا بلکہ نئی شریعت کا اور وحی اور نبی کتاب کا اور انہیاً علیہم السلام کی تو یہیں کی خاص کر ہمارے سردار نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح طور پر اور ضروریاتِ دین کا تاویلاتِ فاسدہ کے ساتھ انکار کر دیا اور اس کا یہ انکار اس کے اپنے اقرار کے ساتھ ہے بغیر کسی تاویل اور حجابت کے۔


لہذا بلا ریب اور بلا شک مرزا قادیانی خود اور جو اس کی اتباع کرے وہ ملحد ہے زندiq ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اسی پروفتوں ہے اور یہی حق ہے اور یہی درست ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو مرزا کی کفریہ باتوں پر مطلع ہو جانے کے بعد اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے۔ اسی پروبال ہے جتنا ہے اس پر دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں ذلت اور بسوائی ہے عذاب و عقاب ہے۔

اگر مرزا قادیانی اور اس کے تبعین اسلام سے خارج اور مرتد نہ سمجھے جائیں تو پھر مسیلمہ کذاب اور اس کے تبعین کا اسلام سے خارج ہونا اور مرتد ہونا چہ معنی وارد، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب کے سارے امثال کیسے خارج اور مرتد ہیں آخرت میں۔ سو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے ٹھکانہ کو اچھا کرے۔ وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہیں اور علوم دنیاوی اور آخردی کے سمندروں کا جامع ہیں یعنی محمد انور شاہ صاحب کشمیری بیہقی، جو دارالعلوم دیوبند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں انہوں نے اپنے رسالہ اُسمی با کفار المتأولین والملحدین فی شی من ضروریات الدین میں قرآن و سنت اور آخرت صاحبہ

کرامہ اور محمد میں اور فقہاء اور اصحاب اصول اور مفسرین کی تصریحات کو اس مسئلہ میں فصل خطاب کے ساتھ بیان کیا۔ اس بات کو کبے شک ضروریات دین میں سے کسی کا انکار یا تاویل ناجائز ہے۔ پس یہ رسالہ کافی شافی وافی ہے اپنے موضوع میں اور اصول و فروع اور عمدہ موتیوں اور روشن مضامین پر مشتمل ہے اور عجایبات اور غرائب پر مشتمل ہے اور پھر مزہ یہ ہے کہ اس سے منافع اور فوائد کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ لہذا مسلمانوں پر اس کا مطالعہ لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور مسلمہ کذاب کے گروہ کو اصول و فروع سمیت ختم کرنا بھی مسلمانوں پر لازم ہے اور اس کی عبارات میں کچھ عبارات کو زبانی یاد کرنا بھی لازم ہے، تاکہ اس کے کفر والیاد اور زندیقت کے سند رکھے تو قدرہ سے تذکرہ اور تہجد آسان ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے لئے اول آخر تعریفیں ہیں اور صلوٰۃ وسلام ہوں اس کے نبی اور حبیب پر اور اس کی آل اور اس کے صحابہ شاہزادہ پر جب تک کہ اتفاق و تفرق باقی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل قبولیت سے نواز دے۔ اے اسلام اور قرآن اور دین اور دین والوں کی حفاظت کرنے والے۔

بندہ سید مرتضی حسن



## حضرت اقدس مولا نا شیخ حبیب الرحمن (نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو دسن میں کی حفاظت کا ذمہ دار بن گیا، جس نے ہر دور اور زمانہ میں ایسا گروہ مقرر فرمادیا جو دین میں فہم سلیم رکھتے ہیں تاکہ امور دین کو درست شکل میں باقی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ہر اس شخص کو ڈرا تے رہیں جو دوسروں کو واضح گمراہی کے کنارے پر لے جانے کی کوشش کرے، اور تاکہ دین کے حریم کو پاک کریں کفر کی پلیدیوں اور الحاد و زندق کی گندگیوں سے یہاں تک کہ حق کی صبح روشن اور واضح ہو جائے۔

اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے آقا اور مولیٰ حضرت محمد ﷺ پر جنہوں نے ہمیں ایک ایسی روشن شریعت پر چھوڑا کہ اس کی رات اور اس کا دن برابر روشن ہیں پس اب گمراہی کی گھٹائیوں میں صرف وہی شخص گرے گا جو توفیق و یقین سے محروم کر دیا گیا ہو، اور رحمت کاملہ و سلامتی نازل ہو آپ کی آل اور آپ ﷺ کے ان صحابہ پر جنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے

میں نار کو مضبوط بنایا۔ پس (ان کی مخت کے بعد) اب آفاقِ عالم میں ہر افقِ خوب چمک رہا ہے جیسا کہ آنکھ عالم آسمان و زمین پر چمکتا ہے، اور انہوں نے دین کی حمایت میں اپنے مال و جان کھپا دیئے اور ہر ذیل، جھونٹ اور سرکش کو دین سے دور ریا، حتیٰ کہ جس کسی نے بھی ضروریاتِ دین میں سے کسی کا بھی انکار کیا تو صحابہ شاہزادہ نے اسے قتل مردی، یا جس کسی نے بھی اپنی ذات کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا اگرچہ وہ سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا معتبر فہمی کیوں نہ ہوا۔ قتل کیا، جیسے اسود عنی، مسلمہ کذاب۔ پس دینِ اسلام میں کسی نرمی نے انہیں نہ روکا اور نہ ہی مہربانیوں نے انہیں دینِ حق سے نکلنے والے ان ملعونیں پر شدت کرنے سے روکا۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد: اس میں کوئی شک نہیں کہ آغاز آفرینش سے کوئی ایک زمانہ نہیں گزر اجتنوں سے خاتی ہو یعنی ہر زمانہ میں ایسا فتنہ موجود رہا جس نے اہل زمانہ و بے قرار و بے چین کر دیا اور اس فتنے کی ہوانا کی نے اس کی شدت اور اس کی آگ کے اشتغال نے اور اس کے انگاروں کے اشارے نے اہل زمانہ کو ذلیل کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا اور اس فتنے کے وقت با دشاؤں اور کامل یقین و اعلاء علماء ربانیہ کو توفیق سے نوازا کے انہوں نے بتوفیق اللہ اس فتنے کو جز سے اکھاڑ پھینکا اور اس فتنے کی بندیوں کو گراویا، اور انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر ہیروں کو دین کے روشن چہرے سے ہٹا دیا، حتیٰ کہ ہر فتنہ ان کی مختتوں سے اپنے پھیلاوے کے بعد کافور ہو گیا اور اپنی شکست کے بعد معدوم ہو گیا اور اپنے منتشر ہونے کے بعد سکڑ گیا اور کمزور پڑ گیا۔ حتیٰ کہ اس فتنے کا صرف نام ہی باقی بچایا فقط ایک چھوٹے سے گروہ کی شکل میں اس کا نشان بچا، پس ایسے لوگ نہیں تھے جو اس مستر ذمہ تکلیف پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے اس فتنے کو قبول کریں۔ پس ان کی تعداد تھی کہ ان کا لشکر کیا تو نہیں دیکھتا کہ باطنیہ اور قرامط (یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں) جن کی مدت بقایہ ہے اور ان کی قوت مضبوط ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے مطاف اور عرفات میں حاجج کرام کا ناحق خون بھایا اور انہوں نے جگر اسود کو اکھاڑ پھینکا اور اس کو ہجر کی طرف لے گئے۔ کہاں چلے گئے وہ؟ اور اب بر غواط فرقہ کے لوگ کہاں ہیں جو شہروں پر تباہی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بخاتمی کی اور انہوں نے گھروں میں فساد پیا۔ کیا اے مخاطب تو ان میں سے کوئی ایک کو دیکھ سکتا ہے یا تو ان میں سے کسی ایک کی آہت کو سن سکتا ہے، کہاں فرقہ مخدود یہ وائل اور جوں پوری کے تبعین جان ہیں؟ کیا کوئی باتی ہے ان میں سے سوائے چند لوگوں کے جیسے وہ کھودی ہوئی جیل کے قیدی ہیں اور میرے ہیں قبروں میں۔ بے شک بد بخاتمی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فتنہ اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی مصیبت جس کو فتنہ قادیانیان کہا جاتا ہے اور فتنہ مرزائیہ کہا جاتا ہے جس کے سردار مرزان غلام احمد نے ختم نبوت کا

انکار کیا اور اس نے اپنے متعلق یہ خیال کر لیا کہ وہ نبی ہے خواہ ظلی ہو یا بروزی یا تشریحی، یہ سب کچھ اس کی ان کتب میں ہے جو اس نے اپنی ذریت کے لئے کالی کیں۔ وہ اپنی زہرآلود باتیں اپنے قبیعین پر ذاتا رہا یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس کی جھوٹی نبوت نے گھر کر لیا اور وہ ایمان لا بیٹھے اس کی وجہ پر اور اس کی مُجھر کلام پر اور اس کے (جھوٹے) معجزات پر، سواس کی امت امت محمد یہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے الگ مستقل امت بن گئی اور جو شخص مرزا کی جھوٹی نبوت کا انکار کرے قادر یا نی گروہ اس کے مسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے قادر یا نی ان مسلمانوں کے پیچھے نہ تماز پڑھتے ہیں اور نہ جنازہ اور نہ ان مسلمانوں سے قادر یا نی عورتوں کا نکاح جائز بھختے ہیں۔

اسی جھوٹے مدعا نبوت نے اس پر بس نہ کی، بلکہ اپنی ذات کے لئے تمام انبیاء اور رسول پر فضیلت کا بھی دعویٰ کر دیا حتیٰ کہ سردار الانبیاء ﷺ پر بھی فضیلت کا دعویٰ کر بیٹھا اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ ﷺ جو روح اللہ اور اللہ کے پچھے پیغمبر ہیں کی تو یہ کی اور حضرت عیسیٰ ﷺ کی شان میں نہ ملکات کا مرکب ہوا۔ ایسے کلمات کہ ان کے سنن کی کوئی مسلمان طاقت نہیں رکھتا۔

پھر اس کے قبیعین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سو ایک نے تو اس کے اصلی دعویٰ نبوت کو لازم پکڑا اور اعلان یہ اس کی نبوت کا اعلان کرتا رہا۔ نہ ان کو دین نے اس غلط سے روکا اور نہ ہی شرم و حیانے ان کو روکا۔ یہ فرقہ ہی جمہور مرزا یہ ہیں اور دوسرا گروہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور اندر اندر سے اسی عقیدہ پر جمارہ جس کا مرزا قادر یا نی دعویٰ کرتا تھا اور منافقانہ طور پر بطور دھوکہ دینے کے کہا کہ مرزا نے اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور ہم بھی اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو مصلح اور مجدد اور مسیح موعود خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کا صریح چھوٹ تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور مرزا کی خفیہ سازشوں اور اس کی لغزشوں کی تلقین کے لئے۔ اور یہ فرقہ زیادہ خطرناک تھا نسبت پہلے فرقے کے۔ کیونکہ بہت سے مسلمان کہ جن کو مرزا کی خفیہ سازشوں کا علم نہیں اور نہ ہی ان کو ان حیلہ باز منافقین کی مدد اور کی اطلاع ہے، جب وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو مرزا قادر یا نی کے بارے میں اس کے خیالات کو اچھا اور درست سمجھتے ہیں۔ پھر مرزا قادر یا نی کے فضائل کو کان لگا کر سنتے ہیں جو قادر یا نیوں کے من گھڑت ہیں اور اس کے ان اوصاف کو جن میں انہوں نے خود اختلاف کیا تو یہ بھولے بھالے مسلمان یقین کر لیتے ہیں کہ وہ نیک آدمی تھا اور یہ ایک حال ہے جس کے ذریعے غافل اور لا علم مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے۔

اے بیدار مغزاً دمی تو کچھ غور تو کر کہ ان طالموں کا نفاق مسلمانوں کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا اور ان کی ملکیت میں وہ شخص تو قف کرتا ہے جو ان کی مراد و مقصود پر مطلع نہ ہوا ہو اور سنت اللہ جاری ہے،

ابتداء آفریش سے کہ فتنہ ایک حد معلوم تک باقی رہے، اس کی آگ بھڑکتی رہے اور اس کے شعلے اڑتے رہیں۔ پھر وہ بجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حق و باقی اور ثابت رکھے اور باطل کو منادے۔ پس باقی رہ جائے اسلام ایسا خالص تازہ جیسا اصل میں اور شروع تھا اور مسلمانوں کی مدد کی جاتی رہے گی اور مضبوط رہیں گے حق پر اور یہ فتنے اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور مسلمانوں کو کم نہ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دین دار امراء اور بادشاہوں اور علماء، ربائی کامل یقین والوں پر لازم تھا کہ وہ اس فتنے کا قلع قع کرنے کے لئے متعدد ہو کر کھڑے ہوتے رہیں تاکہ اس کو مل کر ختم کر دیا جائے اور وہ اس کے مقابلہ میں اپنی کوششوں کو خرچ کرتے اور اسلام کی نصرت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے۔ ورنہ تو مسلمان رُسوأ ہو جاتے اور دین سے پشت پھیرنے والے ہو جاتے اور اس بات کے حق دار بن جاتے کہ ان کے نام تک کو منادیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم بدله میں لے آئیں۔ پس علماء کا ایک گروہ اس ذمہ داری کے لئے اور نصرت حق کے لئے کمربستہ ہوا تاکہ اس فتنہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کے چھپے دھوکوں کو ظاہر کر دیں۔ پس انہوں نے کتب اور رسائل کو عام کیا حتیٰ کہ حق واضح ہو گیا اور باطل رسوأ ہو گیا۔ عوام و خواص اس چیز پر مطلع ہو گئے جو مرحوم امام احمد قادریانی نے کفر اور ارتداد کی خفیہ سازیں کیں۔ پس اس کے تبعین میں سے ایک گروہ باقی بچا کر جن کے لوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی اور ان کے سینوں کو میز ہے پن نے پُر کر دیا۔ سو ایسے لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ درذناک عذاب سے ملاقات نہ کر لیں۔

مسلمانوں میں سے وہ سعادت مند آدمی جو اس فتنے کا سر پھوڑنے کے لئے کھڑا ہوا اور اس با غی سرکش فتنہ جس کا شمار مسلمانوں کے فرقے میں سے نہیں کے باطل دعووں کے قلع قع کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور تکفیر الملحدین والمتاولین اہل قبلہ کے مسئلہ کی تحقیق کے لئے کمربستہ ہوا وہ شیخ عادل، پرہیزگار، متفق، الحافظ اور جنت مفسر اور محدث اور فقیہ اور علوم عقلیہ و نقلیہ میں سمندر جیسے علوم رکھنے والے اور رسائل مشکلہ میں تحقیق کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا شاہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری ہے اور دارالعلوم دیوبند میں صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور ان کی مزید ہدایت فرمائیں۔

پس انہوں نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا اس میں اس مسئلہ کے بارے میں ہر وہ چیز کہ جس کی طرف علماء مبتکن ہوتے ہیں جمع کر دیا ہے اور مختونظ فرمادیا ہے اور اس میں تحقیقات مبنیہ والے اور اس میں یہ بات روز روشن ملی طرح واضح کر دی ہی کہ مرحوم ای مسلمانوں میں نہیں رہے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں سے خارج ہیں۔ یہ ایسا رسالہ ہے کہ جب اس کو انصاف والا اور بیدار مغز دیکھے گا تو اس کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ

رہے گا اور اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں رہے گا اور وہ اسلام کے فرقوں میں سے مرزا تی گروہ کے اسلام سے خارج میں تردد نہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کتنی گناہ بڑھائیں اور ان کے واقعات میں برکت عطا فرمائیں اور اس رسالہ سے مسلمانوں کو نفع مند کریں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں جو مرزا یوں کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔

وَآخِرُ دُعَانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَيْرِ  
خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهٖ وَاصْحَابِهِ اجمعِينَ.

اَنَا الْعَبْدُ الْفَضِيفُ

جَبِيبُ الرَّحْمَنِ اَمْرِ يُوبَدِي العَشَمَانِي



### حضرت مولانا محمد رحیم اللہ بجنوری ادام اللہ ظلّہ

بعد حمد و صلوٰۃ!:!

کہتا ہے بندہ گنہگار ضعیف جو امید رکھنے والا ہے اپنے طاقت والے رب کی رحمت کی، محمد رحیم اللہ بجنوری۔ بے شک میرے پاس بہترین، نافع بلکہ کامل نفع والی کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کا ہونا شدید ضروری تھا حق اور تحقیق کے طلب کرنے والوں کے حق میں ان اہم دینی امور کے معاملہ کہ جن میں مکمل اطلاع نہیں رکھتے اور ان کا یقین کامل نہیں رکھتے۔



## تعارف

الحمد لله رب العلمين ولاعدوان الا على الصالحين والصلوة والسلام

على خاتم النبئين محمد واله وصحبه اجمعين

سرز میں بیت الحرم میں "غار حرا" کے افق سے نبوت کبریٰ کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور زمینی مخلوق کے لئے آسمانی پیغام ہدایت کی ضیا پاشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ "خاتم النبئین" کے منصب پر فائز ہو گئے۔ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا کفار مکہ اور جزیرہ العرب کے یہود و انصار می پوری مخالفت بلکہ جو دو عناد پر اتر آئے لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں اور نہ صرف عہد نبوت میں بلکہ عہد صدقیقی اور عہد فاروقی میں بھی اسلام کے روز افزون عروج و استحکام کی تہی صورت حال قائم رہی اور اسلام شرق و غرب باتماں دنیا میں بن کی آگ کی طرح پھیلتا چلا گیا مگر اسی کے ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے حلقوں میں اسلام کے خلاف غیظ و غضب بھی بڑھتا چلا گیا، مشیت الہی سے عہد عثمانی میں عہد فاروقی جیسا تدبیر و تیقظ قائم نہ رہ سکا اس لئے مریض القلب لوگوں نے خصوصاً نام نہاد مسلمان یہودیوں نے خفیہ ریشہ دو ایسا شروع کر دیں تا آنکہ حضرت عثمان عَنْہُ اللہُ شَهِید ہو گئے اور اب چاروں طرف سے علی الاعلان فتنوں نے سر اٹھایا حضرت علیؓ کے عہد میں ان فتنوں کا بازار "حرب و پیکار" کی شکل میں گرم ہونا شروع ہو گیا اور اسلام کو شدید ترین داخلی و خارجی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی المرتضی عَلَيْهِ السَّلَامُ جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو شاید اسلام ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حلم و فراست کی برکت سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح عہد صدقیقی میں فتنہ ارتدا اور مانعین زکوٰۃ کا نہیں پوری قوت کے ساتھ رونما ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حزم و عزم صدقیقی کی برکت سے اسلام کی حفاظت نہیں بھیک اسی طرح فتنہ خوارج و شیعیت کی شدت کی وجہ سے خلافت علی المرتضی عَلَيْهِ السَّلَامُ میں زوال اسلام و خند و پیدا ہو گیا تھا اسلام تو پیچ گیا لیکن "جَنَّةِ جَنَّبِ جَنَّبِ حَسَنَیْنِ" بیت دردناک واقعات اور خوبی پس خوبی نہ ہو نہ اور وہ نہ ہو۔ اسلام کی مقدس رسمیں جس پر ایسا وحی بیعنی ہے کہ خون سے ضرور الہ اکبر بن جس سے نتیجے میں "الفتن شیعیت" و "الفتن فتن" و "الفتن فرجیت" و "الفتن اعتزال" و "غيرہ سیاسی و دینی فتنوں کی جزیں دور دور پھیلائیں اور پہلی مرتبہ علمی اعتباً "مسلم ایمان" و "مسلمانہ کفر" سامنے آیا اور اس کی کمیں تیزی کی شروعت پیش آئی۔

لطف ن بات یہ تھی کہ خوارج و معتزل بھی ایمان تو پیدے کے مبنی تھے اور شیعہ و رافض بھی اسلام

و محبت اہل بیت کے دعویدار تھے، مگر دونوں فرقے صحابہ کرام ﷺ کی تکفیر پر متفق تھے اور اپنے اپنے ایمان و اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے پھر انہی دونوں شاخوں سے بچوٹ کر "جہنم" "مر جیہ" "کرامیہ" وغیرہ تو بخوبی اسلام فرقے پیدا ہوتے چلے گئے جن میں سے ہر ایک فرقہ اپنے مواسب کو کافر کہتا تھا۔ اس نے "اسلام" کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ محققان انداز میں اس مشکل کو حل کیا جائے کہ "مناط" و مدارنجات کیا چیز ہے؟ اور "ایمان" کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور "کفر" کی اصل بنیاد کیا ہے؟

چنانچہ امام احمد بن حنبل، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو عبیدہ قاسم بن سلام، محمد بن نصر مروزی، محمد بن اسلم طوسی، ابو الحسن بن عبد الرحمن بن رستہ، ابن حبان، ابو یحییٰ بن حمید وغیرہ ائمہ حدیث حبیب اللہ نے "مسئلہ ایمان" پر محمد ثانہ کتابیں لکھیں۔ محمد شیخ کے طرز پر حافظ ابن تیمیہ کی "کتاب الایمان" شاید آخری کتاب ہو، لیکن علمی و نظری مکاتب فکر کے نقطہ نظر سے یہ محمد ثانہ تالیفات کافی نہ تھیں اس لئے متخصصین نے اس میدان میں قدم رکھا اور قدماً متخصصین کی تصانیف میں بھی یہ مسائل زیر بحث آئی۔ امام ابو الحسن اشعری رض سے لے کر جعیۃ الاسلام امام غزالی رض تک کبار متخصصین نے خوب علمی و نظری تحقیقات کی داد دی اور ان مسائل پر سیر حاصل عقلی و عقلی (غیر عقلی) بحثیں کیں، جعیۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی طوسی رض موتی ۵۰۵ھ غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پر مستقل محققانہ کتاب لکھی جس کا نام "فیصل التفرقۃ بین الام و الزندقة" ہے، مصر و ہندوستان دونوں جگہ طبع ہوئی ہے۔

رفتہ رفتہ فقہاء کے حلقوں میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور فقہاء کرام نے اپنے مخصوص فقیہی انداز میں بھی خوب لکھا، لیکن ایک طرف تو امام عظیم ابو حنیفہ رض کا یہ قول: "انکفر احداً من اهل القبلة" "امت کے سامنے تھاد و سری طرف یہ اجتماعی مسئلہ طے شدہ تھا کہ "ضروریات دین" میں سے کسی بھی امر ضروری کا انکار کفر ہے۔ بلکہ "ضروریات دین" میں "تاویل" بھی موجود کفر ہے۔"

اسی طرح ایک طرف یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ "لازم مذهب مذہب نہیں ہے، جب تک التزام کفر نہ کیا جائے، لزوم کفر سے کفر الزم نہیں آئے گا۔ اس بحث کے ذیل میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ "ضروریات دین" کے باپ میں بھی یہ ضابطہ جاری ہے یا "ضروریات دین" اس قاعدہ سے مستثنی ہیں؟ نیز مسئلہ تکفیر میں "ولیل قطعی" ضروری ہے یا "ظہنی اولہ" سے بھی تکفیر کی جا سکتی ہے؟

الغرض موضوع اپنی اہمیت کے پیش نظر اور نزاکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ الجھتا گیا اور ایمان و کفر کا بدبھی مسئلہ نظری بن کر رہ گیا، اور ہر اداء دین کو ان علمی بحثوں اور کاؤشوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے موقع ملتے چلے گئے۔

اسی اشنا میں سرزی میں پنجاب کے اندر ایک "دمی نبوت" پیدا ہو گیا جس نے اپنی مستقل تشریعی بہوت کو منوانے کی غرض سے "قطعی امور دین" کا انکار کرنا شروع کر دیا "ختم نبوت" جسے اجتماعی و اساسی طے شدہ مسئلہ کو از سر نو زیر بحث لایا "جہاد" اور "حج" کے اس زمانہ میں منسوخ ہونے کا اعلان کیا اسی کے ساتھ ساتھ از راہ تدبیس "تبیغ اسلام" کے بلند و بالگ دعوے بھی کرتا رہا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف جماعت سے دین کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ ان موضوعات پر ایک فیصلہ کرنے محققانہ تالیف امت کی رہنمائی کے لئے سامنے آئے تاکہ ان واقعی اور الحجھے ہوئے مسائل میں آئندہ نسلوں کو کفر و اسلام کے اندر امتیاز کرنے میں کوئی وقت پیش نہ آئے۔

لیکن ان موضوعات سے عہدہ برآ ہونا نہ ہر عالم وفقیہ کا کام تھا اور نہ ہر صاحب قلم مصنف و مؤلف کا، بلکہ اس کے لئے ایک ایسے محقق روزگار کی ضرورت تھی جو محدث بھی ہو اور فقیہ بھی، متكلّم بھی ہو اور اصولی بھی، مورخ بھی ہو اور تاریخ ملک و محل کا محقق بھی، وسیع النظر بھی ہو، اور منصف مزان بھی، اس کی زندگی علوم فلسفہ کالات علوم کی تحقیق اور عقدہ کشائی میں گذری ہو، مجتهدانہ ذوق کا مالک ہو، فتنوں اور فرقوں کی تاریخ سے بصیرت افزود و اقتیمت رکھتا ہو۔

حق تعالیٰ نے اس علمی و دینی خطیم الشان خدمت کے لئے امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا انتخاب فرمایا جو اپنے عہد میں علوم اسلامیہ میں "امامت کبریٰ" کا درجہ رکھتے تھے، ایسے یکانہ روزگار تھے جن کی مثال گذشتہ صدیوں میں بھی مشکل سے ملے گی، قدماء و متأخرین میں چند نفوس قدیمه جس جامعیت عظیمی کے حامل گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ بھی انہی جیسی نادرہ روزگاری کے مالک تھے۔

اس موضوع پر قدما، و متأخرین فقہاء، متكلّمین، محدثین و مفسرین کے علمی کارناموں یعنی تصانیفوں میں جہاں بھی "غیر رُنَّوْل" (زریں اقتباسات) تھے، اگرچہ بعید سے بعيد ترین مظلان (مقامات) میں تھے، ان سب کے جواہر و در رکھیرت انگیز غواصی کے کر شئے و کھا کرامت کے سامنے رکھ دیا اور یہ تفصیل و تجزیس کا وائزہ مطبوعات تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس مقصد کے لئے نادر ترین "مخبوطات" (قلمی تابلوں) کے عام و مدرس سے باہر علمی سندروں میں بھی شاوری اور غواصی فرمائی ہے اور نہ صرف خاص ابواب متعارفہ اور مظلان متوقع (متوقع مقامات) کی مراجعت فرمائی ہے بلکہ بعض مخطوطات کو اول سے آخر تک "نادر" پوری کتاب میں جہاں جہاں دوڑ بے بہا (قیمتی اقتباسات) ہاتھ آتے گئے، پروتھے گئے محقق این وزیریہ میں کی محققہ نجیم غیر مطبوعہ کتاب "التوحید والاعوام" پوری مطالعہ کر کے سارے متعارفہ نظرے (اقتباسات) ایک جائز فرد پرے، اسی طرح "فتح الباری" جیسی ضخیم تیرہ

جلدوں کی کتاب میں جہاں جہاں کوئی مفید مطلب مضمون لاجمع فرمادیا، کیا کوئی بھی عالم و محقق تصور کر سکتا ہے کہ ”اویب قلتشندی“ کی خالص ادبی کتاب ”صبح الاعشی فی فن الانشاء“ میں بھی اس خالص دینی موضوع سے متعلق کوئی چیز ہوگی؟ لیکن امام العصر حضرت شاہ صاحب ح سے وہ بھی او جمل نہ رہ سکی، اس سے بھی استفادہ فرمایا۔ امام بخاری ح کی کتاب ”خلق افعال العباد“، امام ذہبی ح کی ”کتاب العلو“، ح کی کتاب ”الاسراء والصفات“، ابن حزم کی ”کتاب الفصل فی امْلَلِ الْأَهْوَاءِ وَالْخَلْلِ“، عبد القادر تسمی بیگدادی کی کتاب ”الفرق میں الفرق“، ابوالبقاء ح کی کتاب ”الکلیات“، شیخ اکبر کی ”الفتوحات المکملیة“، شعرانی کی ”الیواقیت والجواہر“، سیوطی کی کتاب ”الخصائص“، غیرہ وغیرہ کے اقتباسات وحوالے اسی طرح آتے ہیں جیسے کتب کلام و کتب فتوہ، کتب اصول و کتب حدیث و اصول حدیث اور تفاسیر کے اقتباسات وحوالہ جات آتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ ح کی تصانیف: ”کتاب الفتاویٰ“، جلد ۲، ”المہماج“، ”الصارم المسلول“، ”بغیۃ المرتاد“، ”کتاب الایمان“، ”اور الجواب الصحيح“ میں جہاں جہاں مفید مطلب مسئلہ نظر آیا اُنقل فرمادیا۔ حافظ ابن قیم کی تصانیف: ”شفاء العلیل“، ”زاد المعاو“، غیرہ میں جہاں جہاں اہم نقول (اقتباسات) ملی ہیں، بھل نقل فرمادی ہیں۔ اس طرح تقریباً دو سو کتابوں کے صدھا اقتباسات اور حوالہ جات ہر مسئلہ اور ہر عنوان کے تحت اس حیرت انگیز استقصاء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی اسی کتاب کی نذر ہو گئی، لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب درتعجب ہو گا کہ اس انداز کی یہ جامع کتاب صرف پحمد ہفتون میں تصنیف فرمائی ہے۔ لیکن یہ اسی جلیل القدر، محیر العقول ہستی کا کارنامہ ہو سکتا تھا جس نے سارے علمی کتب خانے کھنگال ڈالے تھے اور ہر مطالعہ کی ہوئی کتاب ہمہ وقت اس طرح مستحضر رہتی تھی جیسے بھی دیکھی ہے۔

پھر بڑی خوبی ہے کہ تھا کتب حنفی سے نقول (اقتباسات) جمع نہیں کئے تاکہ یہ نہ کہ جائے کہ ”یہ تو مخصوص مکتب فکر کا نقطہ نظر ہے۔“ بلکہ کتب مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور کتب ائمہ اربعہ سے نوار در نقول (اقتباسات) پورے استینا و استقصاء کے ساتھ جمع کئے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ پوری امت محمدیہ (علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام) اور تمام ائمہ مذاہب کا متفق فیصلہ ہے اور کسی پہلو سے بھی حرف گیری یا شک و شبک کی گنجائش باقی نہ رہے، اسی طرح متكلمین میں۔ ”ماتریہ یہ“، ”اشاعرہ“ اور ”حنابلہ“ کی کتب عقائد و کلام سے بھی موقع بمحوق اقتباسات پیش کئے ہیں اور کسی اُنہی پہلو سے کوئی سر باقی نہیں چھوڑ سکتے۔

پھر جتنے محقق اہل علم اکابر دیوبند تھے ان سب کی تحریکت اس سرف اس لے حاصل فی اس میں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی ”مُتّخضی رائے“، ”مُتّخضی تہذیب“ و حاضرے اکابر امتہ اجماعی فیصلہ ہے اور اس میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے۔ ”تہذیب التّنْبیه“ و اسے قابض ذکر حضرات یہ ہیں:

۱: ..... حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی مفتی دارالعلوم دیوبند۔

۲: ..... حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی۔

۳: ..... حضرت مولانا خلیل احمد سہاپوری المدنی۔

۴: ..... حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری، شاگرد حضرت نانوتوی۔

۵: ..... حضرت مولانا مفتی کفایت الدین دہلوی۔

۶: ..... امیر شریعت بہار حضرت مولانا محمد سجاد بہاری۔

۷: ..... حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ تعالیٰ جمیع ارحمة واسعة۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس آخری دور میں امام العصر حضرت شیخ پیغمبر کو اسی قسم کی علمی مشکلات حل کرنے کے لئے پیدا فرمایا تھا۔ ان کی تالیف تصنیفی ہوں یا املائی، سب میں یہ خصوصیت جلوہ گر ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد عثمانی پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ: ”حضرت شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علوم و فنون کی ارواج و مختلطات پر حاوی و مطلع ہیں، جب کوئی شخص ان سے کسی بھی علم کا کوئی دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسئلہ حل کرنے کے لئے سوال کرتا ہے تو فوراً اپر جستہ جواب ساضر پاتا ہے اس طرح جیسے متوں سے اس مشکل کو حل کئے جیٹھے ہیں“۔

پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اکابر امت اور کبار محققین کے حلوم کی نقول (افتبا۔ ا۔ ت) پیش کر دینے پر اکتفاء کیا ہو، اگرچہ اس انداز سے ایک موضوع پر ان سب اقتباسات کو ایک جگہ جمع کر دینا بھی افراد امت ہی کا کام ہے، بلکہ ان نقول و اقتباسات سے جو علمی فوائد و نکات اخذ کئے ہیں اور زیر نظر موضوع کی تائید میں جو مجتہدانہ استنباطات کئے ہیں یہ صرف انہیں کا کام تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس گوناگون اور نئتے نئے فتنوں کے دور میں کہ کہیں ”مرزا نجیت“، کافر نہ ہے تو کہیں ”خاکساریت“ کا، کہیں ”پرویزیت“، کافر نہ ہے تو کہیں ”فضل الرحمن“، کی مستشر قانہ تحقیقات کا، اگر ایسی محققانہ اور جامع کتاب نہ ہوتی تو آج ”کفر و ایمان“ کا مسئلہ شدید بحران اور پورہ یہ اشتباه میں پڑا ہوتا اور دور حاضر کے علماء میں سے کسی عالم کے بس کافر تھا کہ ایسا مدلل و مفتخر اور بصیرت افروز و محققانہ ذخیرہ جمع کر سکے کہ ہر فتنہ کی سر کوئی و تردید کے لئے کافی ہو اور امت کے ذمہ یہ ”فرض کفایہ“ یوہی رہ جاتا، لیکن الحمد للہ علی احسانہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو گیا کہ اب کسی کے لئے کوئی شک و شبہ کی گنجائش اور عذر باقی نہ رہا۔

لیکن یہ کتاب عربی زبان میں تھی اور سارے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھے اور ان سے اخذ کردہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی چیستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے، چنانچہ

سرسری نظر سے پڑھ کر عربی دان اور علماء بھی اس کو ایک اقتباسات کی فہرست سمجھ کر جھوڑ دیتے تھے۔ علاوہ ازیں بہت سے مقامات پر یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اقتباس کتنا ہے اور حضرت شیخ کی عبارت کتنی؟ غرض علماء کے لئے بھی اس وقت و اختصار کی وجہ سے کما حق استفادہ بڑے غور و خوض کا محتاج تھا۔

مجلس علمی کراچی کا یہ احسان ہے کہ اس نے وقت کی اہم دینی ضرورت کا احساس کیا اور ایک محقق عالم و ممتاز فاضل کو، جسے حضرت شیخ نبیہ سے شرف تلمذ اور خصوصی تعلق کے ساتھ ہی ان کے علوم سے فی الجملہ مناسبت بھی ہے اور ساری عمر علوم و فنون کی بادیہ پیائی میں گزری ہے، کتاب کے اردو ترجمہ کے لئے انتخاب کیا۔

اس قسم کی جامع اور دقیق کتاب ہو اور پھر امام العصر حضرت شاہ صاحب نبیہ کی تالیف ہو، جن کی دفت تحریر علماء کے حلقہ میں معروف ہے اور ان کی دوسری تصنیف اس پرشاہدیں اور پھر اس نازک اور لاائق صد احتیاط موضوع پر ہو، اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ لاائق مترجم و فقہہ اللہ لکل خیر ہمارے بے حد شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کو سر کیا اور اس "خوان یغما" کو نہ صرف عام علماء بلکہ اردو داں طبقہ کے لئے بھی وقف عام کرو یا اور علماء و فقہاء و ارباب فتویٰ پر بھی احسان کیا، اس لئے کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی تحریر بلکہ تقریر سے بھی پورا استفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہر حال وقت کی ایک اہم دینی و علمی ضرورت تھی جو نہایت خوبی کے ساتھ پوری ہو گئی، بتلا حضرات (جن کو ان موضوعات سے سابقہ پر تارہتا ہے) خصوصاً ارباب فتویٰ اس کی قدر کریں گے اور امام العصر حضرت مؤلف نور اللہ مرقدہ کو اور مترجم طالب حیات فی الخیر دونوں کو دعا ہے خیر سے فراموش نہ فرمائیں گے۔ کتاب کے اوآخر میں امام العصر حضرت شیخ نبیہؒ اس موضوع پر کہ ان مسائل میں علماء کی تحقیق کے آخذ کتاب و سنت میں کیا کیا ہیں؟ اور علماء و فقہاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں رہا ہے؟ عجیب مجہدناہ انداز سے تحقیق فرمائی ہے اور محققانہ انداز سے اس اختلاف نظر کی توجیہ فرمائی ہے اور پھر فرمایا ہے: "ہم نے اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک جانب کو پیش نظر رکھ کر دوسری جانب سے غفلت بر تی ہو اور اس طرح غیر شعوری طور پر ہم بے احتیاطی میں جتنا ہو گئے ہوں، ہم نے اس مسئلہ میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے وہی ہمارا گواہ اور وکیل ہے۔"

"اس علم دین کو آئندہ نسلوں تک وہی لوگ پہنچائیں گے جو اعلیٰ کے درجہ عادل و منصف مزاج ہوں گے، وہی ابل غلو (حد سے تجاوز کرنے والوں) کی "تحریفات" سے ابل باطل کی "تزوریات" (فریب کاریوں) سے اور جاہلوں کی "تاویلات" سے دین کو پہنچائیں گے۔"

کتاب کے بالکل آخری حصہ میں فرماتے ہیں:

”یہ دین نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور تھبی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور اس کے کفر سے چشم پوشی کی جائے۔ آج کل لوگ افراط و تفریط میں بہتایں اور کسی نے حق کہا ہے کہ: ”جالل یا تو افراط میں بہتا ہو گا یا تفریط میں، ولا حول ولا قوہ الا بالله العلی العظیم!“

لکھنے کو تو بہت کچھ جی چاہ رہا ہے لیکن اس عدم الغرضی کے عالم میں ان چند طروں پر الکفاء کرنا ناگزیر ہے، ان شا، اللہ یہ چند طریقے تھیں اس بے نظیر کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی، اللہ تعالیٰ علم فہم صحیح، النصاف و دیانت اور عمل صالح کی توفیق ہم سے ونصیر فرمائیں۔

**ایک ضروری تنبیہ:** ”دین“ اور ”اسلام“ کے خلاف مخدود بے دین لوگ اور اہل حق کے خلاف باطل پرست افراد اور فرقے ہمیشہ برصغیر کار رہے ہیں اور گرم و سرد جہنّم یعنی تنقیق و تفہیم یا قسم و قدر طاس کے معمر کے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آفتابِ نصف النہار سے بھی زیادہ روشن دلائل اور تنقیق تیز سے بھی زیادہ قاطع اور دلے فیصلہ کر دیئے والے برائیں نے باطل پرستوں کے شلوٹ و شبہات، تاویلات و تحریفات، تلبیسات و تشویہات کا قلع قلع کیا ہے اور ان پر کفر واردہ ادا کا حکم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے ملا، حق کی تکفیر سے بچنے کے لئے مختلف و متنوع حرے بے بطور پر استعمال کئے ہیں، مثلاً:

۱: کبھی عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و مفتیین کے یہ تکفیر واردہ اور کے فتوے تو محض ذرائع، دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں، ان کے تکفیر کے فتوؤں سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کا فرو مرتد نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ اسی کتاب میں صفحہ ۲۳۷ پر آپ فتاویٰ بزاریہ گے حوالہ سے اس تسمیہ کے جاہلۃ الغروروں کی تردید ملاحظہ فرمائیں گے۔

۲: کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”ahl قبلہ“ ہیں اور خود امام ابوحنیفہ نبیی نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے۔ اس کی حقیقت حضرت مسیح نبیی نے اس کتاب میں یہ فتاویٰ کی ہے۔

۳: کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”مودل“ ہیں، بحق فقہاء مودل نے تکفیر جائز نہیں۔ ان کا ہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ یا قول فعل میں نہ نہیں وجد ہو تو نہیں جوں اور ایک بھی بھی اس وکھر سے بچائی ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہتے۔ تاویل اور مودل کے پردے میں بھی یہ حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

۴: ہمارے زمانہ میں چونکہ بدشمتی سے ان بلدوں اور زنداقیوں کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ بے باکی اور درید و دشمنی کے ساتھ اہل حق کے ان تکفیری فتوؤں کو ”دشمن اڑازی“

سے اور کافر، مرتد، ملحد، زنداق، جاہل، بے دین وغیرہ ادکام شرعیہ کو "گایوں" سے تعبیر کرتے ہیں اور بر ملا کہتے ہیں کہ: "علماء، کو گالیاں دینے کے سوا اور آتا ہی سیا ہے؟"

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے اساسی احکام و عبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص و معین معنی اور مصدقی ہیں تھیں اسی طرح کفر، نفاق، الحاد و مرتد اور فقیہ بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں، وہ پن اسلام میں ان سے بھی مخصوص معنی اور مصدقی ہیں، قرآن کریم نے اور نبی کریم ﷺ نے قصیٰ صور پر ان فی تسبیح و تحدید فرمائی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحدانیت، رسول کی رسالت اور "ما جاء به الرسول" (رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت) کو دل سے مانتا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے، جو کوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ "کافر" ہے اور اس نے ماننے کا نام "کفر" ہے جس طرح ترک نماز، ترک زکوٰۃ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام "فق" ہے اور ترک کرنے والے کا نام "فاسق" ہے، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو، صرف عمل نہ کرتا ہو، اسی طرح انہی تعبیرات صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم حج کو تسلیم و اختیار کرنے کے بعد ان کو معروف و متواتر شرعی معنی سے نکال کر غیر شرعی معنی میں استعمال کرے اور ایسی تاویلیں کرے جو نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہوں بلکہ چودہ سو سال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہوں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں "الحاد" ہے اور اس شخص کا نام "ملحد" ہے، قرآن کریم نے ان الفاظ: کفر، نفاق، الحاد، مرتد کو انسنوں کے خاص خاص عقائد، اقوال، افعال و اخلاق کے اعتبار سے افراد اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زمین پر قرآن کریم موجود ہے گا یہ الفاظ بھی، ان کے یہ معنی اور مصدقی بھی باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے امت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بتلائیں کہ ان کا استعمال کہاں کہاں، یعنی کہن کہن لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے؟ یعنی یہ بتلائیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مقررہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مومن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کافر اور اسلام سے خارج ہے، نیز علمائے امت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تفصیلات کو یعنی ایمان کے مقتضیات اور موجبات کفر، کفر یہ عقائد و اقوال و افعال کی تحدید (حد بندی) تعین کریں تاکہ نہ کسی مومن کو کافر اور نہ اسلام سے خارج کہا جاسکے اور نہ کسی کافر کو مومن اور مسلمان کہا جاسکے، ورنہ اگر "ایمان و کفر" کی حدود اس طرح مشخص و معین نہ ہوں گیں تو ایمان و کفر کا اقیاز مٹ جائے گا اور دین اسلام باز مچھے اطفال بن گرہ جائے گا اور بست و جنم افسانے !!

اسی نے علمائے امت پر کچھ بھی ہوا، اور کیسے ہی طعنے کیوں نہ دیئے جائیں، رہتی دنیا تک یہ فریضہ عائد ہے اور رہے گا کہ وہ خوف و خطر اور "لومۃ الام" (ملامت کرنے والوں کی ملامت) کی پرواہ کئے بغیر جو شرعاً "کافر" ہے اس پر "کفر" کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور اس میں پوری پوری دیانت داری اور علم و تحقیق سے کام ایس اور شرعاً جو "بلد" و "فاسق" ہے اس پر "الحاد" و "فق" کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور جو بھی فرد یا فرقہ قرآن و حدیث کی نصوص کی رو سے "اسلام" سے خارج ہو اس پر اسلام سے خارج اور دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور کسی بھی قیمت پر اس کو مسلمان شتم نہ کریں جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی قیامت تک۔

بہر حال "کافر"، "فاسق بلد، مرتد" وغیرہ شرعی احکام و اوصاف ہیں اور فرد یا جماعت کے عقائد یا اقوال و اعمال پر مبنی ہوتے ہیں نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں پر، اس کے بر عکس "گالیاں" جن کو دی جاتی ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں، لہذا اگر یہ الفاظ صحیح محل میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ شرعی احکام ہیں ان کو "سب و شتم" اور ان احکام کے لگانے کو "دشام طرازی" کہنا جہالت ہے یا بے دینی۔


نیز علماء حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو "کافر" نہیں بناتے، "کافر" تو وہ خود اپنے اختیار سے کفر یہ عقائد یا اقوال، افعال اختیار کرنے سے بنتا ہے وہ تو صرف اس کے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، کسوئی سوتے کو کھونا نہیں بناتی وہ تو اس کے کھوٹا ہونے کو ظاہر کر دیتی ہے، کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے، اس حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ "مولویوں کو کافر بنانے کے سواب کیا آتا ہے؟" شرمناک جہالت ہے

امید ہے کہ اس ضروری تنبیہ کے بعد قارئین ان ملحدوں اور بے دینوں کے ہتھکنڈوں سے بخوبی واقف اور ہوشیار ہو جائیں گے اور جس کسی فرد یا جماعت کو اس شتم کا پروپیگنڈا کرتے پائیں گے، باور کر لیں گے کہ یہ صرف شرایع کے حکم اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج بد اور الحاد و زندقة کی سزا سے بچنے کے لئے علماء و فقیہین کے خلاف بد احتیاطی پھیلا کر دو گونہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ العیاذ بالله!

والله سبحانه ولی الهدایة والتوفیق وصلی اللہ علی خیر خلقہ صفوۃ البریة

سیدنا و مولانا محمد الہاشمی العربی و علیہ آلہ و صحبہ و بارک و سلم

محمد یوسف بنوری عفای اللہ عنہ



## عرض مترجم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على خاتم الانبياء سيدنا محمد المصطفى المجتبى، و صلى الله عليه و على آله واصحابه و بارك و سلم تسليماً كثيراً كثيراً اللهم صل و سلم عليه كلما ذكره الذاكرون و صل و سلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وبعد!

کمترین خلائق بندہ محمد ادریس بن مولانا محمد الحنفی بن مولانا عبد اللہ (نوسلم کا یسٹھ) میر بھی، غفران اللہ لہ ولایویہ، خود کو امام العصر حضرت الشیخ مولانا محمد انور شاہ لکشمیری نور اللہ مرقدہ کی ذات والاصفات کی جانب منسوب کرنے سے بھی بچکھاتا ہے کہ ”بدنام کنندہ نکونا مے چند“ کا مصدقہ نہ بن جائے لیکن جس طرح ایک ذرہ بے مقدار کو آفتاب عالم تاب سے کوئی نسبت نہیں، مگر اس کو کیا کہجئے کہ ذرہ کی نہ صرف تابانی بلکہ بستی بھی آفتاب کے نور کے ساتھ قائم دو ابستہ ہے، کچھ اسی طرح کی صورت حال ہے، حضرت شیخ ہبنت اللہ کے علوم و معارف کا تو سوال ہی کیا میں تو حافظہ پر بہت زور دالتا ہوں کہ زبان مبارک سے نے ہوئے کچھ کلمات ہی یاد آ جائیں مگر بجز ”حسبنا اللہ“ اور ”ہاں بھائی“ کے اور کچھ یاد نہیں آتا، صرف ایک چیز، کہنے ایک سعادت، تھی اور ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہے گی اور شاید آخرت میں بھی وہی کام آئے اور وہ ہے حضرت شیخ ہبنت اللہ کی بے پناہ عقیدت اور اگر والہان محبت بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسی بے پناہ محبت کی بدولت حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے علوم و معارف سے ایک ایسی بسیط اور اجمانی مناسبت، جس کی تعبیر سے الفاظ قاصر ہیں نصیب ہو گئی کہ بس وہی اس ذرہ بے مقدار کے نہ صرف علم و معرفت بلکہ پوری علمی ہستی کا سرمایہ ہے، جس نے چالیس سالہ زمانہ تدریس میں بڑے بڑے معروکوں میں شرمساری سے بچایا ہے اور فکر و ذہن میں وہی آیا ہے اور زبان و قلم سے وہی نکلا ہے جس کا غیر محسوس پرتو، حضرت استاذ ہبنت اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہوا غیر شعوری طور پر محفوظ تھا۔

اس علمی بے بضاعتی کے ہوتے ہوئے حضرت شیخ ہبنت اللہ کی دقيق و عمیق تصانیف، (جو اپنی وقت و اغلاق میں علماء کے حلقة میں ضرب المثل ہیں) کے کماۃ سمجھ لینے کا حوصلہ بھی نہ ہونا چاہئے تھا چہ جائیکہ ان کا اردو جیسی غیر علمی زبان میں ترجمہ و تسلیل، مگر اسی بسیط اور اجمانی مناسبت نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف کی افادیت (فائدہ رسانی) اور انتفاع (منفعت) کو عام اور سہل الحصول (آسان) بنانے پر نہ صرف آمادہ بلکہ مجبور کر دیا۔

حضرت شیخ بیہدہ کی تصانیف کا موضوع عموماً یا معروف اختلافی مسائل ہیں، یا پھر علم حقائق و اسرار، لیکن گرامی عمر کے آخری حصہ میں فتنہ مرزا بیت کی دین خاتم الائجیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مضرت رسانی کا اس قدر شدت سے احسان دامن گیر ہوا کہ نہ صرف قلم تصنیف و تالیف بلکہ زبان و بیان بھی اسی فتنہ کے استیصال کے لئے وقف ہو گئے۔

لیکن موجودہ عہد میں "الحاد وزندقہ" کے فتح عمیاء (تاریک فتنہ) نے فتنہ مرزا بیت کو بھی مات کر دیا ہے، آج تو "دین" کا نام لے کر "لادینی" پھیلانے اور "اسلام" کا نام لے کر "اسلام" کو منسخ کرنے کی مهم پوری قوت کے ساتھ چلا کی جا رہی ہے اور زبان و بیان کی راہ سے نہیں، بلکہ قلم و طراس یعنی تحریر و انشاء اور تصنیف و تالیف کی راہ سے یہ سیلا ب آرہا ہے، "اسلام" کی تعمیرنوں کے عنوان سے دین کے چودہ سو سالہ مجمع علیہ مسلمات اور "شعائر و ضروریات دین" میں نت نئی تاویلیں اور تحریفیں کی جا رہی ہیں۔

زیرِ نظر رسالہ "اکفار الملحدین فی شیء من ضروریات الدین" کا ہدف اولیں تو اگرچہ مرزا غلام احمد قادریانی علیہ ماعلیٰہ اور "مرزا تی امت" ہے، مگر جو دلائل و براہین اور اقتباسات و حوالہ جات حضرت شیخ قدس سرہ نے اس رسالہ میں جمع فرمائے ہیں وہ "الحاد وزندقہ" کی جملہ انواع و اقسام کی تردید پر حاوی اور ملحدین وزندیقین کے جملہ افراد و فرق کے استیصال کے لئے کافی و وافی ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنہ مرزا بیت کے بھانے ایک ایسی جامع وہمہ گیر تصنیف کی توفیق حضرت شیخ بیہدہ کو عطا فرمادی جو رہتی دنیا تک ہر قسم کے فتنوں کی تردید و سرکوبی کے لئے ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک تمام فتنوں کی سچی کتی کے لئے ہیں حق اس سے اتنا فائدہ انہائیں گے کہ اس کے دلائل و براہین اور نقول و اقتباسات اور حوالہ جات کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے گی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت شیخ بیہدہ نے اس موضوع سے متعلق متقدیں و متاخرین کی تصانیف میں کوئی قابل ذکر چیز چھوڑی ہی نہیں اور "الحاد وزندقہ" کی تردید واقعہ متعلق اتنے دلائل و براہین جمع کر دیئے ہیں کہ "ان پر اضافہ مشکل ہے" تو بے جانہ ہو گا (ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو عقیدت و محبت کے غلو سے تغیر کریں)۔

یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ یہ تمام عصری تقاضے اور "اکفار الملحدین" کی یہ عظیم افادیت ترجمہ کے لئے "اکفار الملحدین" کو انتخاب کرتے وقت میرے سامنے تھے اور اس انتخاب کا محرک بننے میں تو بے کچھے! اس انتخاب کی محرک کو صرف یہی حضرت شیخ بیہدہ کے علوم سے بسیط اور اجمالی مناسبت تھی اور بس! "اکفار الملحدین" کی یہ اہمیت اور افادیت تو بلا مبالغہ مسلسل تین سال تک "اکفار الملحدین" کے مندرجات پر غور و فکر اور خامہ فرسائی کرنے کے بعد سامنے آئی ہے اور اس چھوٹی سے رسالہ کے یہ جو ہر کھلے ہیں۔

## سہ سالہ غور و فکر اور خامہ فرسائی کی سرگزشت

اس سے سالہ غور و فکر اور خامہ فرسائی کی سرگزشت یہ ہے کہ میں نے مذکورہ بالا غیر اختیاری جذبہ کے تحت مولانا محمد طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی سے مرسری مشورہ کے بعد بغیر کچھ تمحیہ "اکفار الہادین" کے ترجمہ کا فیصلہ کر لیا (کہ کچھ نہ سمجھی تو پچھوڑھے کے لئے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے انفاس تدیس کی رفاقت تو میسر آجائے گی) اور مدرس سے کتاب لے کر مختلف سلپوں (پرچوں) پر ترجمہ کرنا شروع کر دیا، چند ماہ میں ترجمہ سے فارغ ہوئے اس کا اٹا سید حماۃ یعنی اور حسن کھرا پلٹنے کی غص سے اس منتشر مسودہ تیپیش (صاف آرنے) ان سرد و رت گھوں بیوں، چنانچہ از مر نو کتاب اور مسودہ سامنے رکھ کر تیپیش (صاف کرنے) شروع کر دیا، اس تیپیش میں خاصی دریگی، دماغ کی چوپیں بھی کافی ذہلی ہوتیں، تاہم سات آٹھ ماہ میں تیپیش کا کام ختم ہوا، اب جو اصل کتاب (عربی) کو سامنے سے بنا کر خالی ترجمہ کو پڑھتا ہوں تو عربی سے زیادہ اور دو دشوار اور پیچیدہ محسوس ہوتی ہمعلوم ہوا کہ ترجمہ کو مطلب خیز بنانے کے لئے قوسمیں (بریلیون) کے درمیان کافی وضاحتیں کی ضرورت ہے، چنانچہ سہ بارہ کتاب سامنے رکھ کر تسلیم و توضیح کا کام شروع کیا، (اس امر کاطمینان کئے بغیر کہ عبارت کا جو مطلب میں سمجھ کر توضیح کر رہا ہوں سبھی صاحب عمارت کا مطلب ہے؟ اور جس مقصد کے لئے کسی اقتباس کو پیش کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ یہ اطمینان فراغت کے بعد حضرت شیخ نبی کے علوم اور تصانیف سے من سہت و مزاولت رکھنے والے کسی تصحیح معنی میں وسیع النظر عالم و دلخاکر کر لیا جائے گا) کہ اس کے سوا اچارہ نہ تھا۔ اس توضیح و تسلیم اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے مقاصد کی تعریف میں تو تیپیش سے بھی زیادہ مشکلات پیش آئیں اور وقت بھی بہت زیادہ اٹگا، بہر حال ہتو فیق اللہ تعالیٰ اس کٹھن کام سے فراغت کے بعد دیکھا تو وہ بیپہ (صاف شدہ) خود مسودہ (رف) بن کر محتاج تیپیش ہن چکا تھا، لہذا اصل کتاب کو سامنے رکھ کر نفس ترجمہ اور توضیحات پر نظر ثانی کی اور اس کو سہ بارہ صاف کیا اور ارادہ ہوا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بخوری مدظلہ کو بغرض تصویب و اصلاح پیش کروں، کیونکہ خادم کی نظر میں اس وقت روئے زمین پر امام اعصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نبی کے علوم و معارف کا حامل و اورثہ اور ان کے انفاس طیبہ کا حافظ، علوم و فنون کے دفاتر و غواصی پر حاوی اور ہر مسئلہ میں حضرت شیخ نبی کی نہ صرف رائے و تحقیق بلکہ الفاظ و وقائع تک کا محافظ جس کا علمی مزان حضرت شیخ نبی کے ساتھ میں ڈھلا ہو، بجز مولانا بخوری موصوف کے اور کوئی نہیں ہے۔

سوچا کہ فہرست بھی ساتھ بنا کر حضرت نبی کو مکمل کتاب پیش کروں، اس مقصد کے لئے جو

کتاب اور ترجمہ لے کر بیٹھا تو عجیب الحسن محسوس ہوتی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فہرست بناتے وقت محسوس ہوا کہ کہ پورا رسالہ مختلف کتابوں کے اقتباسات کا ایک جمود کہنے یا فہرست ہے، جو دس بارہ جملی عنوانات کے تحت جمع کئے گئے ہیں لیکن یہ مطلق پتہ نہیں چلتا کہ ایک اقتباس پیش کرنے کے بعد دوسرے اقتباس کس مقصد کے لئے پیش کیا گیا ہے؟ اور متعلقہ موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون کی کتنی بات ہے جس کی غرض سے دوسرے اقتباس پیش کیا گیا ہے؟ اسی طرح تیرسا اور چوتھا اقتباس غرض ہر اقتباس پر اس نقطہ نظر سے غور کرنا ناگزیر ہو گیا کہ اس اقتباس کو حضرت شیخ ہبیہ کس غرض یا نئے فائدہ کے لئے لائے ہیں؟ پھر ایک عقبہ سخت (مشکل گھانی) یہ پیش آیا کہ عربی رسالہ کی کتابت میں فی الجملہ اہتمام کے باوجود اکثر مقامات پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اقتباس کی عبارت کتنی ہے؟ اور حضرت شیخ ہبیہ کی کتنی ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کی غرض سے کتب حوالہ کی مراجعت ناگزیر ہو گئی، چنانچہ تقریباً ہر اقتباس سے مستبط فائدہ اور غرض کی، (اپنی مقدور کے مطابق) تعمیں کر کے بغلی سرخیوں (ذیلی عنوانات) کا اضافہ کیا تاکہ کتاب کی فہرست بھی بن سکے اور قارئین بھی آسانی معلوم کر سکیں کہ اقتباس کو کس مقصد کے لئے لایا گیا ہے؟ اور وہ زیر بحث مسئلہ میں کس طرح مفید ہے؟ تاکہ رسالہ صرف اقتباسات کی ایک فہرست بن کر نہ رہ جائے کتب حوالہ کی ایک طویل فہرست تیار کر کے اقتباسات کو اصل کتابوں سے (جو میر آسکیں) ملایا گیا تب جا کر اطمینان ہووا کہ اقتباس کی عبارت اتنی ہے اور حضرت مصنف ہبیہ کی اتنی اس تشخیص کے بعد اقتباسات کو پیش کرنے کے مقاصد و فوائد بھی زیادہ آسانی کے ساتھ واضح ہوئے، جن حوالوں کے صفات و درج نہ تھے وہ درج کئے، غرض اس "جوئے شیر" لانے میں وقت بھی سب سے زیادہ صرف ہوا اور ایک ایک لفظ پر غور و خوض بھی بہت زیادہ کرنا پڑا، آخر بحمد اللہ تعالیٰ چوتھا مسودہ سرخ پنسل سے بغلی سرخیوں (ذیلی عنوانات) کے ساتھ تیار کر کے اس قابل ہوا کہ حضرت مولانا بنوری مدظلہ کی اصلاح و ترمیم کے بعد کا تب کو لکھنے کے لئے دیا جا سکے۔ حضرت مولانا موصوف نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر نیز اس اندیشہ کی بناء پر کہ کوئی غلط یا غیر واقعی بات مترجم کی کم علمی کی بناء پر حضرت شیخ ہبیہ کی طرف منسوب نہ ہو جائے، اصل کتاب سامنے رکھ کر بشرط اصلاح و ترمیم بالاستیغاب دیکھنا شروع کیا، حضرت مولانا بنوری کی بدایت کے بہوجب قوسمیں (بریکٹ) کے درمیان جو کئی کئی سطروں کی طویل عبارتیں یا ہر باب کے شروع میں تمہید یا آخر میں خلاصے تھے ان سب کو "حوالشی از مترجم" کی صورت میں تبدیل کر دیا، مخفی مختصر تو ضمیحی عبارتیں درمیان میں رہنے دیں علا، ہ ازیں جہاں جو لفظ یا فقرہ غیر مناسب تھا اس کو موصوف نے کاٹ دیا، یا چیخ اور مناسب لفظ سے بدل دیا اور اس طرح


حضرت استاذ نبیہ کے علوم کی حفاظت کا حق ادا فرمایا اور خادم نو سرخ رو فرمایا، تب مطمئن ہو کر خادم نے کتاب کو لکھنے کے لئے مسودہ دینا شروع کیا۔

**کتابت کی تصحیح:**..... ایک مرتبہ تمام کا پیوں کو مسودہ سے ملا کر تصحیح کی اور غلطیاں بننے کے بعد نظر ثانی کر کے جو غلطیاں رہ گئی تھیں پھر بناؤ میں، اس طرح پوری کتابت کی تصحیح ہو جانے کے بعد از راہِ احتیاط مسودہ کے بجائے اصل کتاب (عربی) سامنے رکھ کر پوری کتابت کی تصحیح دوبارہ کی اور عربی کا مفہوم ترجمہ میں ادا ہونے میں جہاں خامی نظر آئی اس کی اصلاح کی اور اس دوسری تصحیح کی غلطیاں بننے کے بعد پھر ان پر نظر ثانی کی اور جو غلطیاں بننے سے رہ گئی تھیں وہ بناؤ میں، بعد ازاں کتاب کی فہرست تیار کی، ذیلی عنوانات میں کثرت سے سرسری نظر میں تکرار محسوس ہوا تو ہر عنوان کے ساتھ تو سین کے درمیان ان مصنفین و ارباب اقتباسات کے ناموں کا اضافہ کیا تاکہ فرق محسوس ہو جائے اور ذیلی عنوانات کے تکرار کی وجہ ظاہر ہو جائے، آخر میں کتب حوالہ اور ان کے مصنفین کے ناموں کی فہرست کا اضافہ کیا۔

اس قدر راہتمنام و احتیاط کے باوجود ڈرتا ہوں کہ میری کم فہمی اور کم علمی کی بنا پر کوئی غلط یا حضرت استاذ نبیہ کے نشانے کے خلاف بات ان کی طرف منسوب نہ ہو گئی ہو، اس لئے اہل علم خصوصاً حضرت شیخ نبیہ سے شرف تلمذ رکھنے والے حضرات علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا بنوری مدظلہ کی طرح اصل کتاب سامنے رکھ کر اس ترجمہ خصوصاً توضیحات کو پڑھیں اور جو غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہو اس پر بحوالہ صفحہ اردو عربی خادم کو یا مولانا محمد طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی میری ویدرثا اور کو مطلع فرمائیں کہ حضرت استاذ نور اللہ مرقدہ کے دامن علمی کو غلط انتساب کے داغ سے محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔

جزاکم اللہ خیرالجزاء.

بندہ محمد ادریس غفرلہ



## خطبہ مسنونہ ①

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى حتى يأخذ من مكانة القبول مكانا فوق السماء يتسم عن بُلُج جبين وعن ثلج يقين وييهر نوره وضياءه ويصدع صيته ومضائه ويقتضي عن سناؤ سناء، وجعله يدمع الباطل، فكيفما تقلب وصار أمه الى الهاوية يتقهقر حتى يذهب جفاء ويصير هباء وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لؤى الباطل ذنبه كذب السرحان وتلون تلون الحرباء ومن تولاه تبوء مقعدا من النار وحقت عليه كلمة العذاب وادراكه درك الشقاء وسوء القضاء وكم من شقي احاطت به خطيبته اعادتنا الله من ذلك) والحمد لله على العافية والمعافات الدائمة من البلاء.

والصلوة والسلام على نبيه ورسوله نبی الرحمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل والانبياء الذي انقطعت بعده الرسالة والنبوة ولم يبق الا المبشرات وقد كان بقى من بيت النبوة موضع لبنة فكانها وقد كمل النساء وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كل صباح ومساء الى يوم الجزاء

تمام ترحمه شناس اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے، جس نے حق کو ایسا بلند و برتر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی پست و مغلوب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ قبول اور پسندیدگی کے اس مقام رفع پر مستکن ہو جاتا ہے جو آسمانوں کے بھی اوپر ہے وہ روشن پیشانی اور یقین واطمینان کی (حیات آفرین) خنکی کے ساتھ ہمیشہ قبضہ ریز رہتا ہے اور اس کی روشنی اور نور کی شعاعیں (تمام کائنات پر) چھا جاتی ہیں، اور اس کی شہرت و دبدبہ (شکوک و شبہات کے) پر دوں کو چاک کر دیتا ہے اور وہ رفت و ظہور کے اعلیٰ وارفع مقام پر مکررا تارہتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شانہ نے حق کو باطل کی سرکوبی اور بخ کرنی کی ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ باطل کوئی بھی پہلو بد لے اور کسی بھی روپ میں آئے حق اس کو جہنم رسید کر کے رہتا ہے اور مئیتہ مئیتے (بنتے پانی کے) جھاگوں اور (تیز و تندر

۱ ارادہ تیر ۱۷ تک من محضرت شیخ نویس: فصح، بلغ خطبہ بعد اعلان دو کے ترجمہ کرنے پڑتے تو اپنے حامل و مالے لئے زیادہ مناسب تھا

آندھیوں کے) گردو غبار کی طرح اس کا نام تک باقی نہیں رہتا، جہاں بھی حق نمودار اور صحیح صادق کے ستون کی طرح برقرار ہوا تو باطل نے گرنگت کی طرح رنگ بد لے اور گیدڑ کی طرح دم دبا کر بھاگا پھر جس شخص نے بھی اس باطل کی حمایت کی اس نے بھی اپنا نہ کانہ جہنم بنالیا اور عذاب ابدی کا ازی فیصلہ اس شخص کے حق میں محقق ہو گیا اور وہ بد بختنی و شومی اور شقاوت و انعام بد کے پست ترین طبقہ (گڑھے) میں (اووند ھے من) جا پڑا، نہ معلوم کتنے ایسے شقی لوگ دنیا میں ہوئے ہوں گے جن کا جرم (حمایت باطل) اس طرح دامن گیر و گریبان گیر ہوا کہ وہ جہنم کی تہہ میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم (مسلمانوں) کو (اپنے فضل و کرم سے) اس انعام بد سے بچایا ہے، اس نجات و عافیت اور (دنیوی و آخری بلااؤں سے) حفاظت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر تے۔

اور اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول، نبی رحمت محمد ﷺ پر قیامت تک ہر صبح و شام (بے شمار) صلوٰۃ وسلام ہوں، جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت و رسالت ان پر ختم ہو گئی اور ان کے بعد تو خوشخبری دینے والے (چچے) خوابوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے، قصر نبوت کی تعمیر و تکمیل کی آخری ایښت باقی رہ گئی تھی وہ خشت آخری خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات گرامی بن گئی، پس (آپ کی بعثت کے بعد) وہ قصر نبوت کامل و مکمل ہو گیا (اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول)۔

"اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ و تابعین اور قیامت تک اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی صلوٰۃ وسلام ہو"۔

## مقدّمة ①

**وجہ تالیف:** ... یہ رسالہ ایک استفتاء کے جواب میں سپر قلم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف قلب بیدار اور گوش شنوای کے لئے نصیحت اور تنبیہ و تذکیر کا سامان مہیا کرنا ہے۔

**وجہ تسمیہ:** ... میں نے اس رسالہ کا نام "اکفار الملحدین والمتاولین فی الشیء من ضروریات الدین" (ضروریات دین میں تاویل کرنے والوں اور ملحدوں کی تکفیر) رکھا ہے۔

**ماخذ:** ... اس رسالہ کا نام اور احکام دونوں قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے مانوذ ہیں:  
 "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيَّاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ يَأْتِي أَهِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِغْمَلُوا مَا شَيْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (حَمَّ اسْجَدَه: ۳۰)

❶ مصنف نور اللہ مرقدہ اس فتح و بلیغ خطبہ کے بعد رسالہ کے اصل مباحث کو شروع کرنے سے قبل اس رسالہ کی وجہ تالیف، وجہ تسمیہ اور چند ضروری اصطلاحات و مسلمات کی تشریع طور خلاصہ حاصل مطابق ستاب بیان فراہم ہے۔

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ ہماری آیات میں بھروسی (اختیار) کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہ سکتے، تو کیا وہ شخص بہتر (حالت میں) ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا یا وہ شخص جو قیامت کے دن مطمئن آئے گا؟ کئے جاؤ جو تمہارا جی چاہے، بے شک وہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔“

یعنی ① اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگرچہ یہ ملحد (ملکوں) سے اپنے کفر کو چھپانے اور بغرض اخفاء اس پ्र باطل تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو ان کی فریب کاری سے خوب واقف ہیں، وہ ہم سے نہیں چھپ سکتے

چنانچہ حضرت ابن عباس رض ”یلْحَدُونَ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”يضعون الكلام في غير موضعه“

ترجمہ: ”وہ کلام الہی کو بے محل استعمال کرتے ہیں (یعنی قرآن کریم کی آیات میں باطل تاویل میں اور تحریق میں کرتے ہیں)۔“

(المجمع لاحکام القرآن المقرطی ج ۱۵ صفحہ ۳۶۶ مطبوعہ دارالکتب العربی قاهر، مصر)

قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب الخراج“ ② میں ملحد اور زندیق کا حکم بیان فرماتے ہیں:

”وَكَذَلِكَ النَّادِقَةُ الَّذِينَ يَلْحِدُونَ وَقَدْ كَانُوا يَظْهَرُونَ إِلَاسْلَامَ.“

ترجمہ: ”ایسا ہی (اختلاف) ان زندیقوں کے بارے میں ہے جو ملحد ہو جائیں اور خود کو مسلمان کہتے ہوں (ان سے بھی توبہ کرائی جائے، توبہ نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا توبہ کے لئے بھی نہ کہا جائے اور الحاد کی بنار پر قتل کر دیا جائے)۔“

ضروریات دین: ..... جیسا کہ عقائد و کلام کی کتابوں میں مشہور ہے: ”ضروریات دین“، ”وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین مراد ہیں جن کا دین رسول اللہ ﷺ سے ہوا قطعی طور پر معلوم ہے اور حد تواریخ و شہرت عام تک پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ عوام بھی ان کو دین رسول اللہ جانتے اور مانتے ہیں ③ مثلاً توحید، نبوت، خاتم الانبیاء پر نبوت کا ختم ہونا، آپ کے ملائیخ کے بعد سلسلہ نبوت کا منقطع ہو جانا، حیات بعد الموت (مرکر دوبارہ زندہ ہونا) جزا اوس زمانے اعمال، نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہونا شراب اور سود وغیرہ کا حرام ہونا۔

① حاشیہ کی ضروری عبارتوں کا ترجمہ متن کے ماتحتی کردیا ہے۔ مترجم ② ”کتاب الخراج“، فصل فی الحکم فی المردم عن الاسلام“ ص ۹۷ اپر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ زندیق سے توبہ کیلی بات، تک لے تو فہما ورنہ قتل کر دیا جائے، یہ حاشیہ کی مہارت کا تجھہ ہے۔ مترجم ③ حضرت مصنف نور الدین مرقدہ حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ”شهرت عام کا معیار یہ ہے کہ عوام کے ہر ہر طبق میں اس کا علم پہنچ جانا چاہئے، ہر ہر فرد عوام کا جانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح عوام کے اس مبنی کا جانا بھی ضروری نہیں جو دین اور دینی امور سے کوئی سروکاری نہیں رکھتا، بلکہ عوام کے ان طبعوں تک اس امر ضروری کا علم پہنچ جانا چاہئے جو دین سے عاقد رکھتے ہیں، خواہ اہل علم ہوں، خواہ نیز اہل علم۔“ اس زمانے کے لحاظ سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تجھہ نہیات ضروری ہے۔ مترجم

## ختم نبوت کی شہادت نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ مرے ہوئے انسانوں نے بھی دی ہے

خصوصاً "ختم نبوت" تو ایک ایسا یقینی عقیدہ ہے کہ جس پر نہ صرف کتاب اللہ بلکہ سابقہ کتب سماویہ بھی شاہد ہیں اور ہمارے نبی ﷺ کی متواتر احادیث بھی اس پر شاہی ہیں اور نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ وفات شدہ انسانوں نے بھی اس پر شہادت دی ہے۔ جیسا کہ زید بن حارثہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے وفات کے بعد "خرق عادت" کے طور پر کلام کیا اور کہا کہ: "محمد ﷺ کے رسول ہیں، نبی امی اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اسی طرح چہلی کتابوں میں ہے" اور پھر فرمایا کہ "چیز واقعہ" مواہب لدنیہ "وغیرہ سیرت کی کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔

**ضروریاتِ دین کی وجہ تسمیہ:** ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص و عام شخص قطعی اور یقینی طور پر ان کو دین سمجھتا اور جانتا ہے کہ مثلاً فلان عقیدہ رسول اللہ ﷺ کا دین ہے (یعنی "ضروری" اصلاح میں قطعی، تاقابل انکار اور یقینی امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ معنی معروف معنی بدیہی کے قریب ہی قریب ہیں)۔

لہذا ایسے تمام امور کا دین ہونا یقینی اور داخل ایمان ہے اور ان پر ایمان لانا فرض ہے یہ مطلب نہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے جیسا کہ بظاہر متواتر ہم ہوتا ہے اس لئے کہ ضروریاتِ دین میں بہت سے امور شرعاً مستحب اور مباح بھی ہوتے ہیں (خاہر ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض نہیں ہو سکتا) مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا یقیناً فرض اور داخل ایمان ہے اور بطور عناد ان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔ ① (مثلاً مسوک کرنا تو ایک مستحب ہے مگر اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا فرض

① ..... چنانچہ حضرت مصنف جواہرۃ التوحید کے حاشیہ ص ۱۵ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ "بعض متواتر امور ایسے ہیں جن سے جاہل ہونے کی بنا پر انکار کر دینے پر مخالفین کیا جاتی ہاں" تلاویٰ نے کے بعد بھی انکار پر اڑے رہنے پر ضرور تکفیر کی جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی طرح "موافقات" ج ۲ ص ۱۵۶ کے حاشیہ میں فرق نمبر ۹۳ کے تحت "جہل" کے عذر معتبر ہونے یاد ہونے کے متعلق ضابط بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں عادۃ جہل (ناؤاقیت) سے بچنا دشوار ہے ان میں ناؤاقیت معاف ہے۔ (یعنی اگر ناؤاقیت کی بنا پر ایسے ضروریاتِ دین میں سے کسی "امر ضروری" کا کوئی انکار کرو تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا) اور وہ مسائل ضروریہ جن کی ناؤاقیت اور ناؤانی سے بچنا عادۃ دشوار نہیں ہے اور باسانی ان کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے ان میں ناؤاقیت کا عذر معتبر نہیں اور ناؤانی کی بنا پر بھی ان مسائل ضروریہ میں سے کسی امر ضروری کا انکار معاف نہ ہوگا اور مسکر کو کہا جائے گا اس سلسلہ میں " دائرة المعارف" ج ۲ ص ۲۰۸ پر "ردت" سے متعلق بحث حضرت ابو بکر صدیق رض کے اپنے امراء کے نام فرمائیں اور "اہل ردة" کے نام دعویٰ مراسلہ، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے "ہر قل" کے نام دعویٰ فرمان کی مراد بحث ضروری ہے۔ مترجم

ہے جو شخص مساوا کے مستحب ہونے سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے)۔

**ضروریاتِ دین کا مصدق:** ...لہذا ضروریاتِ دین اس "مجموعہ عقائد و اعمال" کا نام ہے جن کا دین ہونا یقینی اور بارگاہ و رسالت سے ان کا ثبوت قطعی ہے۔

**ضروریاتِ دین پر عمل کرنے، یا انظری ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے سے انسان کا فرنہیں ہوتا**

باقی عمل کے اعتبار سے یا اس کے حکم نوعیت یا کیفیت کے اعتبار سے "قطعی" اور "یقینی" ہونے پر مدار نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حد تو اتر کو پہنچ چکی ہو اور رسول اللہ ﷺ سے اس کا ثبوت یقینی اور لابدی ہو، لیکن اس حدیث میں جو حکم مذکور ہے وہ عقلی اعتبار سے محل نظر و فکر ہو اور یقینی طور پر اس کی مراود متعین نہ کی جاسکے، جیسا کہ عذاب قبر کی حدیث کہ رسول اللہ ﷺ سے ثبوت کے اعتبار سے تو یہ حدیث حد تو اتر اور شہرِ عام کو پہنچ چکی ہے (لہذا اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے) مگر اس عذاب قبر کی کیفیت کو متعین کرنا دشوار ہے (یعنی قطعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا کہ جس کے انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا جائے، ناممکن ہے، یہی کہا جاسکتا ہے کہ عذاب قبر تو یقینی ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے)۔

**ایمان:** ...ایمان ایک عمل قلبی ہے جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے (صحیح بخاری ج: اص: ۷ پر "وان المعرفة فعل القلب" کے الفاظ سے) اشارہ فرمایا ہے کہ دین کے ہر حکم کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے کا پختہ قصد کرنا، یہ ایمان کے لئے لازم ہے، (بالفاظ دیگر شخص کسی چیز کا یقینی علم اور معرفت ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو مان لینا اور اس پر عمل کرنے کا مضموم ارادہ کرنا بھی ایمان میں داخل ہے)

**مؤمن ہونے کے لئے تمام ادکام شریعت کی پابندی کا عہد کرنا ضروری ہے**

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، "فتح الباری" ① میں تصریح فرماتے ہیں کہ: "التزام شریعت، صحت ایمان کے لئے ضروری ہے"۔ وہ فرماتے ہیں:

① یہ پورا حصہ اصل کتاب میں حاشیہ کے اندر مذکور ہے اہم نسخوں میں ربط اور تسلسل پیدا کرنے کے غرض سے اصل کتاب کی مہربت کے ساتھ ترجیح کر دیا ہے، کیونکہ متن کی طرح حاشیہ بھی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قلم مبارک کی تراویش ہے۔ مترجم اکاٹام شریعت۔

”اہل نجران کے واقعہ سے جو احکام شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ: کسی کافر کا صرف نبوت کا اقرار کر لینا، اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ تمام احکام اسلام پر عمل کرنے کا التزام نہ کرے (اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا)۔“

(فتح الباری: ۸۵ ص ۹۶ مطبوعہ دارالشراکت الاسلامیہ، لاہور)

حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے ”زاد المعاو“ میں اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے، مراجعت کجھے۔

**حقیقتِ ایمان:**....اہذا اب ایمان کی حقیقت یہ ہوئی:

۱)....ان تمام عقائد و احکام کی تصدیق کرنا اور ان کو دل سے مانتا جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔

۲)....آپ ﷺ کے لائے ہوئے تمام احکام شریعت کی پابندی اپنے ذمہ لینا اور قبول کرنا۔

۳)....آپ ﷺ کے دین کے علاوہ باقی تمام مذاہب وادیاں سے بے تعلقی کا اعلان کرنا۔

یقینیات کی طرح ظنیات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے: جن علماء متكلمین نے اس تصدیق اور التزام احکام کو ”ضروریات“، یعنی قطعی اور یقینی امور تک محدود رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ متكلمین کے فن (علم کلام) کا موضوع ہی ”یقینیات“ ہیں (وہ غیر یقینی یعنی ظنی امور سے بحث ہی نہیں کرتے) مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ متكلمین کے نزدیک ”غیر یقینی“، یعنی ظنی امور ایمان میں داخل نہیں ہیں (اور ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے) ہاں وہ کسی کو کافر صرف ”ضروریات“ (امور یقینیہ) کے انکار پر ہی کہتے ہیں۔

## ایمان کے زائد اور ناقص ہونے یا نہ ہونے کے اختلاف کی حقیقت

اب جو علماء کہتے ہیں کہ ”ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور طاعت سے زیادہ ا معصیت سے کم ہوتا ہے“۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مومن کامل اور گنبدگار مسلمان میں فرق کرنا از بس ضروری ہے، (اور جو یہ فرق اسی طرح نمکن ہے کہ عمل کو بھی ایمان میں معتبر نہ جائے، اہذا ایمان قول عمل کا نام ہے) اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا“۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور بسیط ہے اس میں کسی طرح بھی تجزیہ نہیں ہو سکتا اور اس پورے دین پر جو رسول اللہ ﷺ نے لے کر آئے ایمان لانا ضروری ہے، اسی لئے انہوں نے ایمان کی فی عیش و شیم کے سے احتراز کیا (فریق اول ایمان کے فعل قلب ہونے سے انکار نہیں کرتا، اسی طرح فی عیش و شیم کے سے احتراز کیا) ایمان ایمان کے اعتبار سے فرق کا مشعر نہیں ہے، اسی طرح پورے دین پر ایمان لانا بھی سب کے نزدیک ضروری ہے فرق

صرف نقطہ نظر کا ہے اور بس، یہی ایمان کے کم و بیش ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معتقدین کے اختلاف کی حقیقت ہے) اس کے بعد جب ان متاخرین کا دور آیا جو اختلاف ہی کے دلدادہ تھے تو انہوں نے ہر دو فریق کے اقوال کی تعبیر ایسے انداز میں کی کہ ایک طرف نفس اعتقادیک میں کمی بیشی پیدا کر دی، دوسری طرف عمل کو سرے سے ایمان سے اس طرح خارج کر دیا کہ مر جیہے کے اعتقادات سے جاملاً یا اور اس افراط و تفریط سے حقیقت ایمان کو ہی محل اختلاف اور آماجگاہ نزاع بنادیا۔

مزید تحقیق کے لئے ”میزان الاعتدال“ (ج: ۶ ص: ۱۳۶ پر) عبدالعزیز بن ابی رواد کے ترجمہ اور ”تہذیب التہذیب“ (ج: ۸ ص: ۳۱۰ پر) عون بن عبد اللہ کے ترجمہ اور ”ایثار الحق“ (ص: ۳۰) کی مراجعت کیجئے۔

بہر کیف ایمان عمل قلب ہے اور دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کا پختہ قصد اور التزام ایمان کے لئے لازم ہے یہ قصد وارادہ بھی تمام احکامِ دین پر محيط ایک ”بسیط حقیقت“ ہے، اس میں بھی کسی کمی بیشی یا تجزیہ کا کوئی امکان نہیں البتہ اچھنਸ ضروریاتِ دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور ”ان لوگوں میں سے ہے جو کتاب اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور کسی حکم کا انکار کرتے ہیں“۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ با تفاوت امت قطعاً کافر ہیں، اگرچہ یہ لوگ ① اپنے ایمان، دینداری اور خدمتِ اسلام کا ذہن و را پسندی پڑتے مشرق و مغرب کے قلابے ملادیں اور یورپ و آیشیا کو بہلاؤ لیں، بقول شاعر:

کل يدعى حبا ليلی ☆ وليلی لا تقر لهم بدا کا

ترجمہ: ”لیلی کی محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے مگر لیلی ہر کسی کی محبت کو تسلیم نہیں کرتی“۔

یہی وہ نکتہ ہے جس پر آغازِ عہد خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رض اور حضرت عمر فاروق رض کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رض نے ہر اس شخص سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ (یعنی نماز کو مانتا ہے اور زکوٰۃ کو نہیں مانتا) حضرت ابو بکر صدیق رض کا مقصد یہی تھا کہ جو شخص پورے دین کو ماننے کے لئے تیار نہیں وہ مومن نہیں (کافر اور مباح الدم، یعنی واجب القتل ہے)

شیخین رض کا اتفاق رائے اور تمام صحابہ رض کا اجماع: ... آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رض کو بھی شرح صدر عطا فرمایا اور یہ حقیقت ان کی سمجھ میں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رض کی رائے سے متفق ہو گئے۔

① ... ان لوگوں سے مراد ”مرزا“ ہیں اسی طرح آج کل کل ملکہ بے دین ”مُغیانِ اسلام“ بھی اسی کا مصادق ہیں۔ مترجم

اس کا ثبوت کہ: پورے دین پر ایمان لانا ضروری ہے: (۱) چنانچہ اسی سلسلہ میں امام مسلم رض "صحیح مسلم" میں حضرت ابو ہریرہ رض کی روایت نقل کرتے ہیں کہ:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت نہ دیں اور مجھ پر اور "جودین میں لے کر آیا ہوں" اس پر ایمان نہ لے آئیں، جب وہ اس کو اختیار کر لیں گے تو ان کو (مسلمانوں کی طرح) احکام شریعت کے مطابق جان و مال کی ایمان حاصل ہو جائے گی بجز اسلامی حقوق کے، باقی ان کے دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے (کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا کسی خوف و طمع سے)"۔ (صحیح مسلم ج: ۲۷ ص: ۲۷)

(۲).... صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رض کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت کا جو شخص بھی، خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، میری بعثت کی خبر سن کر میرے ذہن میں لے کر آیا ہوں، ایمان لائے بغیر مر جائے گا وہ جہنمی ہے"۔ (ج: ۸۶ ص: ۲۷)

(۳).... مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رض کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کا جو بھی آدمی خواہ یہودی ہو یا نصرانی، میری بعثت کی خبر سن کر مجھ پر ایمان نہ لائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن عباس رض کہتے ہیں کہ: میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد کر دل میں کہنے لگا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے؟ تو آخر آیت ذیل میرے ذہن میں آئی۔

**وَمَنْ يَكُفُّرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ.** (ہود: ۷۱)

ترجمہ:.... "اقوام و مل میں سے جو کوئی بھی (اس دین کا) انکار کرے گا، جہنم اس کی وعدہ گاہ (ٹھکانہ) ہے"۔

(اس آیت کریمہ کے لفظ "احزاب" میں دنیا کے تمام ادیان، مذاہب اور اقوام و مل میں آگئے اور رسول اللہ ﷺ کے قول کی تصدیق ہو گئی)۔ (المستدرک للحاکم ج: ۲ ص: ۳۲۲)

مزید تحقیق کے لئے لفظ "مرجیہ" کے تحت " دائرة المعارف" کی مراجعت کیجئے۔

## ”تو اتر“ اور اس کی چند فسمیں ①

(۱).... تو اتر سند:.... (کسی حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں (شروع سے آخر تک) اتنے لوگ رہے ہوں کہ کسی زمانہ میں بھی ان سب کا کسی بے اصل حدیث کی روایت کرنے پر آپس میں

①.... ضروریات دین کے بیان کے ذیل میں "تو اتر" کا ذکر آیا ہے، اس لئے مصنف رض تو اتر کی فسمیں بیان فرماتے ہیں۔ مترجم

اتفاق کر لینا عادۃ محال ہو) مثلاً حدیث: "من کذب علی متعمداً فليتبواً مقعده من النار" کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" شرح صحیح بخاری (ج ۱ ص ۲۰۳) میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث تیس مختلف ① صحابیوں سے مختلف صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ بے شمار راویوں نے روایت کی ہے۔

حدیث ختم نبوت از روئے سند "متواتر" ہے: ... اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے مولوی (مفتقی) محمد شفیع صاحب دیوبندی نے (ایک رسالہ میں) احادیث ختم نبوت جمع کی ہیں، ان کی تعداد ڈریٹھ سے زائد تک پہنچ گئی ہے، ان میں سے تقریباً تیس روایتیں تو "صحاح ست" کی ہیں اور باقی دوسری کتب کی۔

۲) تو اتر طبقہ: ... ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا عمل کو سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہوں، مثلاً قرآن کریم کا تو اتر کہ مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ہر زمانہ اور عہد کے مسلمان اپنے سے پہلے عہد اور زمانہ کے مسلمانوں سے بعینہ اسی قرآن کو نقل کرتے، پڑھتے پڑھاتے اور حفظ و تلاوت کرتے چلے آئے ہیں، تم عہد بعد پڑھتے اور بڑھتے چلے جاؤ، جناب رسالت مآب ملکیت کم تک پہنچ جاؤ گے، نہ کسی سند کی ضرورت ہے، نہ کسی راوی کا نام لینے کی۔

باقی ہر عہد کے لوگوں کا دوسرا عہد کے لوگوں سے یہ نقل کرنا اور اپریلیقین کرنا کہ یہ قرآن بعینہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی، اس میں تو سب ہی مسلمان شریک ہیں، چاہے انہوں نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو (اس لئے کہ اس یقین کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا)

۳) تو اتر عمل یا توارث!: ... ہر زمانے کے لوگ جن "امور دین"، "عمل کرتے چلے آئے ہوں اور وہ ان میں جاری و ساری رہے ہوں وہ سب امور و احکام "متواتر" ہیں (مثلاً وضو، پھر و صو میں مساوک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نماز باجماعت، اذان و اقامۃ وغیرہ)

فائدہ ۱: بعض احکام میں تینوں قسم کا "تو اتر" جمع ہو جاتا ہے، مثلاً وضو میں مساوک کرنا، کلی کرنا، اور ناک میں پانی دینا کہ یہ احکام ایسے ہیں جن میں تینوں قسمیں تو اتر کی جمع ہو گئی ہیں۔

فائدہ ۲: بعض لوگ (تو اتر کی تینوں قسموں کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے) یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ "متواتر" احادیث و احکام بہت کم ہیں، حالانکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواترات اتنے بے شمار ہیں کہ انسان ان کے گئنے اور فہرست بنانے سے عاجز ہے۔

① حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر سے زیادہ صحابہ سے اور بکواں امام ذوقی رحمۃ اللہ علیہ دو سو صحابیوں سے اس حدیث کے مردی ہونے کا ذکر کر رہا ہے۔ مترجم

فائدہ ۳:..... بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں کہ ہم ان کے "تو اتر" سے غافل اور بخبر ہوتے ہیں، لیکن جب توجہ اور تحسیس کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ متواتر نظر آتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بسا اوقات انسان "نظری" مسائل کے سمجھنے اور محفوظ کرنے میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ "بدیہیات" اس کی نگاہ سے بالکل اوچھل ہو جاتے ہیں (اور جب توجہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو "بدیہی" ہیں)۔

### ضروریاتِ دین سے کسی متواتر امر "مسنون"

#### کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے

ضروریاتِ دین اور متواترات کی اس تشریح و تحقیق کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً:

(۱) .... نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز سیکھنا بھی فرض ہے اور نماز سے انکار یعنی اس کو نہ مانتا یا نہ جانتا کفر ہے۔

(۲) .... اور مسوأ کرنا سنت ہے، مگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کی سنتیت کا انکار کفر ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور علم حاصل کرنا سنت ہے اور اس کے علم سے ناقص رہنا حرام شواب کا باعث ہے اور اس پر عمل نہ کرنا (رسول اللہ ﷺ کے عتاب یا (ترک سنت کے) عذاب کا موجب ہے۔ (دیکھا آپ نے ایک سنت کی سنتیت کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے)۔

ضروریاتِ دین میں "تاویل" کرنا بھی کفر ہے:.... ہم آنے والی فصلوں میں زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ثابت کریں گے کہ ارباب حل و عقد علماء کا اس پر اجماع ہے کہ "ضروریاتِ دین" میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی کفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تو اتر سے ثابت ہے اور جواب تک ہر زمانہ کے خاص و عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں اور جس پر امت کا تعامل رہا ہے۔①

علماء احناف کے نزدیک تو کسی بھی "قطعی" امر کا انکار کفر ہے:.... علماء احناف تو اس پر اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی "قطعی" اور "یقینی"، "حکم شرعی" یا "عقیدہ" کا انکار کفر ہے، اگرچہ وہ ضروریاتِ دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے "مسایہ" ص: ۲۰۸ طبع جدید، مصر میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علماء احناف کی یہ رائے

① جیسے اس زمانہ کے بعض بے دین ملک لفظ "صلوٰۃ" کو عربی کے لفظ "صلوٰۃ" (معنی دوڑ میں دسرے نمبر پر آنے والے گھوٹے) سے مشتق مان کر "صلوٰۃ" کو ایک "ورزش جسمانی" قرار دیتے ہیں اور "اقامت صلوٰۃ" کے معنی "جسمانی ورزش کرنا" کہتے ہیں یا اسی طرح ربوا (سود) کو تجارتی منافع سے تعبیر کر کے سود کو جائز کہتے ہیں، یہ ب کفر نہیں ہے۔ مترجم

غایت درجہ قوی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہر وہ ”قطعی“، اور ”یقینی“، امر شرعی، جو اس قدر واضح ہو کہ اس کے تعبیر کرنے والے الفاظ اور ان کے معنی کو ہر اعلیٰ، ادنیٰ اور متوسط درجہ کا آدمی پاسانی جانتا اور سمجھتا ہو اور ان کی مراو بھی اتنی واضح ہو کہ اس کے معین کرنے کے لئے دلائل و برائین کی کھنچ تان کی ضرورت نہ ہو ایسا ”امر شرعی“، جب صاحب شریعت علیہ السلام سے بطور ”تواتر“ ثابت ہواں پر بعینہ اور ہو بہوای طاہری صورت میں بغیر کسی تاویل و تصرف کے ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار یا اس میں کوئی ”تاویل و تصرف“ کرنا کفر ہے۔

ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تاویل کفر ہے۔ مثلاً ختم نبوت کا عقیدہ کہ اس کے سمجھنے اور جاننے میں کسی بھی شخص کو کوئی دشواری یا اشکال نہیں، چنانچہ ہر زمانے میں تمام روئے زمین کے مسلمان حدیث ذیل کے الفاظ سے اس عقیدہ کو بخوبی سمجھتے رہے ہیں

”ان الرسالة والنبوة وقد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى۔“

(جامع الترمذی ج: ۲ ص: ۵۱)

ترجمہ: ”بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پس میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہو گا، نہ کوئی نبی۔“

یا حدیث شریف کا مذکورہ ذیل جملہ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ہر خاص و عام شخص کے لئے کافی دوافی ہے:

”ذهبَ النُّبُوَّةُ بِقِيَّةِ الْمُبَشِّرَاتِ“۔ (ترمذی ج: ۲ ص: ۵۱)

ترجمہ: ”نبوت تو ختم ہو گئی اب تو صرف ”بشارت دینے والے خواب“ رہ گئے ہیں۔“

اس لئے کہ ان ہر دو حدیثوں کے ظاہری الفاظ اور ان کے متبادل معنی ختم نبوت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے (اور ہر عالم وغیر عالم آدمی بغیر کسی ترد و تذبذب اور اشکال و دشواری کے ان احادیث کے الفاظ سے یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو چکا، اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول)۔

ختم نبوت کا اعلان بر سر منبر:.... جب یہ عقیدہ ”شهرت و تواتر“ کے اس مرتبہ کو پہنچ چکا ہے کہ خود صاحب نبوت علیہ السلام بر سر منبر ایک سو پچاس مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بار واضح اور غیر مبهم الفاظ (احادیث) میں مختلف موقع اور مجامع میں اس کا اعلان اور تبلیغ فرماتے ہیں اور کبھی ادنیٰ اشارہ بھی اس طرف نہیں فرماتے کہ اس میں کسی ”تاویل“ کا امکان ہے اور عہد نبوت سے اب تک امت

محمدیہ کا ہر حاضر و غائب فرد عہد بعهد اس عقیدہ کو سنتا، سمجھتا اور مانتا چلا آتا ہے حتیٰ کہ ہر زمانہ میں تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان رہا ہے کہ: "خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا"۔ بجز اس کے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ قیامت کے قریب اسی امت کے ایک "عادل حاکم" کی حیثیت سے اس وقت آسمان سے اُتریں گے جب کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان عالمگیر خون ریز لڑائیاں اور ہولناک خونی حادثے پیش آچکے ہوں گے۔ اس وقت حضرت مہبدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑہ انہما میں گے اور حضرت عیسیٰ ﷺ انصاری کی اصلاح فرمائیں گے اور یہودیوں کو ترقی کریں گے ان ہر دو بزرگوں کی برکت اور مساعی سے پھر ایک مرتبہ تمام نوع انسانی صرف خدا نے وحدۃ لا شریک کی پرستار اور فرمائی بردوار بن جائے گی۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کا قیامت کے قریب آسمان سے اُترنا "متواتر" ہے: .... چنانچہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے "فتح الباری"، ج: ۲، ص: ۳۹۳، ۳۹۴، اسی طرح "التلخيص الحبیر باب الطلاق" میں اور حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے تفسیر ابن کثیر ج: اص: ۵۸۲، سورۃ نساء اور ج: اص: ۱۳۲، سورۃ زخرف میں حضرت عیسیٰ ﷺ کے نزول پر امت کے "اجماع" اور "توازیر" کی تصریح نقل فرمائی ہے۔

**پنجاب کا ایک ملحد اور دعویٰ نبوت و عیسویت:** ..... لیکن تیرہ سو سال بعد پنجاب سے ایک ملحد اٹھتا ہے جو ان تمام نصوصِ صحیح میں، ماضی کے زندیقوں کی طرح بتئی تحریفیں اور تاویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ: "الله تعالیٰ نے "ابن مریم" میر انام رکھا ہے اور وہ "عیسیٰ ابن مریم" میں ہی ہوں جس کے آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہونے کی پیش گوئی احادیث میں کی گئی ہے اور وہ یہودی، جن کو ابن مریم قتل کریں گے اس سے مراد عہد حاضر کے وہ علماء اسلام ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہ لائیں، اس لئے کہ وہ یہودیوں کی طرح ظاہر پرست اور روحاںیت سے محروم ہیں"۔

**اس ملحد کی حقیقت:** ..... حالانکہ اس ملحد کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اگلے زمانہ کے وہ "زندیق و ملحد"، جن کا نام و نشان بھی آج صفحہ ہستی سے مت چکا ہے وہ اس "روحاںیت" میں (اگر یہ "بے دینی" ہی روحاںیت ہے)، اس ملحد سے بہت بڑھ چڑھ کر اور غیر معمولی قوتوں کے مالک تھے۔

چنانچہ اس بے دین کا روحاںی بآپ اور پیر و مرشد "باب" اور اس کے بعد "بہاء" اور "قرۃ العین" (یعنی بابی اور بھائی وغیرہ لیڈر) جن کو ہلاک ہوئے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے یہ (صفحات تاریخ پر) ہمارے سامنے ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی قسم کے دعوے کئے تھے، جن کی نقل یہ زندیق اُتار رہا ہے ان کے ماننے والے اشقیاء اور ان کے پیروؤں تعداد تو اس بے دین کے ماننے

والوں سے بدرجہ ازائد تھی اور اس بے دین کو تو وہ جاہ و جلال بھی نصیب نہیں ہوا جو ان کو میسر تھا خون ریز لڑائیوں اور جان لیوا معرکوں میں ان کی ثابت قدمی اور پامردی، رائفوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کر آنا اور ان کے سینتوں پر گولیوں کا لگنا اور ہلاک نہ ہونا اور پہلے سے اس کی خبر دے دینا (کہ ہم ہلاک نہ ہوں گے) اور پھر اس کے مطابق ہی واقع ہونا (اور ان کا زندہ فتح جانا) وہ حیران کن اور شاندار کارنا می ہیں جو اس بزدل کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔

بھلا اس زندیق کو وہ سحر آفرینی، شیریں زبان اور ولہ انگیز شاعری کہاں نصیب؟ جس کی مشہور خاتون "قرۃ العین" مالک تھی؟ جس کا تذکرہ ایک عرب شاعر ذیل کے الفاظ میں کرتا ہے:

لها بشر مثل العریب و منطق ☆ رحیم الحواشی لا هراء ولا نزد

ترجمہ: "اس کا جسم تو ریشم کی طرح نرم و نازک ہے اور زبان و بیان بے حد شیریں و دل گداز ہے اور کمی بیشی و بے ہودہ گوئی سے بالکل پاک و صاف ہے۔"

اس بے دین کی توکل پوچھی ہی "تجھی" اور "بروز" جیسے صوفیاء کرام سے سننے چند کلمات اور اصطلاحات ہیں اور بس، ان کی بھی اصلی صورت کو اس ظالم کی تحریفوں نے مسخ کر دیا ہے، یوں سمجھئے شیر و اُنی کو چڑا کر اور کاث پھانٹ کر کے قیص بنالیا ہے، یا پھر جدید فلسفہ اور اہل یورپ کی تحقیقات کو لے کر ان کا نام اپنے شیطان کی بھیجی ہوئی "وحی" رکھ دیا ہے۔

مرزا کے زندقة والحاد کے اصلی بانی اور موجود..... اور یہ بھی کیا دھرا اس زندیق کا نہیں ہے، بلکہ حکیم محمد حسن امر وہی ("غایۃ البرہان فی تفسیر القرآن" کے مصنف) جیسے ملحد اور بے دین زندیقوں نے اس بے وقوف کے لئے نبوت کی زمین ہموار کی ہے، مگر وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھے کہ انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہ ہے اس زندیق اور مدعا نبوت کی وہ حقیقت حال جس کی بنا پر ہم نے (یہ رسالہ لکھا ہے اور) اس کی تکفیر کی ہے اور اس کی مع اس کے قبیعین کے جہنم رسید کیا ہے۔

عرب کے مشہور شاعر "متبنی" کا درج ذیل شعر، اس "متبنی" (جھوٹے مدعا نبوت) پر کس قدر چپاں ہے!

لقد ضلَّ قومٌ باصناهمِهِم ☆ وَامَا بَرْقٌ رِّيَاحٌ فَلَا

ترجمہ: "سو نے چاندی کے بتوں سے تو لوگ گراہ ہوتے سنے ہیں۔ لیکن ایک گوز بھری مشک سے تو کوئی بھی گراہ نہ ہوا ہوگا۔"

ایک اور شاعر نے اس سے بہتر اور زیادہ حسب حال ترجمانی کی بے وہ کہتا ہے:

وَكَانَ امْرًا مِنْ جَنْدِ أَبْلِيسِ فَارْتَقَى ☆      به الحال حتى صار أبليس من جنده  
ترجمہ: ..... ”شروع میں وہ شیطان کی فوج کا ایک معمولی سپاہی تھا۔ لیکن ترقی کر کے وہ اس مرتبہ پر  
پہنچ گیا کہ شیطان اس کی فوج کا معمولی سپاہی ہو گیا۔“

امام مالک رض پر بہتان: ..... یہ سب کچھ ایک طرف! مجھے تو اس کے ایک طرف دار اور مرید  
کا ایک قول پہنچا ہے کہ ”امام مالک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قاتل ہیں۔“ میں آگاہ کر دینا  
چاہتا ہوں کہ امام مالک رض کی طرف اس قول کی نسبت صریح جہالت اور بہتان ہے، چنانچہ ابی  
شارح ”صحیح مسلم“ اپنی شرح ص: ۲۶۳ میں لکھتے ہیں کہ ”امام مالک رض نے بھی ”عجیبیت“ میں عیسیٰ  
علیہ السلام کے نزول کی تصریح فرمائی ہے، جیسا کہ جمہور امت کا اس پر اجماع ہے۔“

**خلاصہ کلام:** ..... الغرض وہ ضروریاتِ دین اور امور شرعیہ متواتر جن کی مراد اور معنی اتنے واضح  
ہوں کہ کسی افہام و تفہیم کی حاجت نہ ہو، جیسے ختم نبوت یا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا یا ان میں کوئی  
تاویل کرنا یقیناً کفر ہے۔

اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منکر کا فرنہیں ہوتا: ..... ہاں وہ امور ضروریہ اور اعتقاد  
حق جو اتنے دیقان اور بعید از فہم ہوں کہ ان کا سمجھنا اور سمجھانا عام عقول انسانی کے بس کا نہ ہو، مثلاً اقتدار کا  
مسئلہ، عذاب قبر کی حقیقت اور کیفیت استواء علی العرش کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخر شب میں آسمان دنیا پر  
اُترنے کی حقیقت و کیفیت اور اسی قسم کے ”مشایہ“ امور، نیز ذات و صفات الہیہ کی نوعیت وغیرہ، اگر  
ایسے امور ضروریہ حد شہرت و تواتر کو پہنچ جائیں تو جو شخص ان سے واقف ہونے کے بعد سرے سے انکار  
کرے گا (کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں) بلا تردود، تم اس کو کافر کہیں گے اور اگر بالکل انکار تو نہیں کرتا مگر  
ان کی نوعیت اور کیفیت کی بحث و تجھیص اور چھان بین کے تحت اس کا قدم پھسل جاتا ہے اور اپنی رائے  
سے کوئی ایک صورت متعین کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ بس ”یہی حق“ ہے اور وہ اہل حق کے نزدیک باطل  
ہے (مثلاً عذاب قبر کو صرف روحانی عذاب کہے، یا استواء علی العرش کے معنی ”عرش پر بیٹھنا“ کرے  
اور کہے خدا عرش پر ”بیٹھا ہے“ تو ایسے گمراہ مسلمان کو ہم مخدور سمجھیں گے اور اس کی گمراہی کو  
جہالت کا نتیجہ قرار دیں گے، مگر اس کی بنا کر اس کو کافرنہ کہیں گے۔

ندگورہ بالا تحقیق و تفصیل کے لئے ابن رشد الحفید کے رسالہ ”فصل المقال والکشف عن منابع  
الاولاء“ کی مراجعت کیجئے، اس نے منطقی طرز پر ایسے گمراہ شخص کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایسا مسلمان  
گمراہ اور ضرور جاہل ہے، مگر کافرنہیں۔

مرزا جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام..... یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ نے مذکورہ ذیل آیت میں مرزا غلام احمد جیسے بے دینوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے المناک انجام اور رسول کن حشر کا حال بیان فرمایا ہے:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَا يُوحِي إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزَلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ، أَخْرِجُوهُ أَنفُسَكُمْ، الْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوَنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ اِيمَانِهِ تُسْكِبُرُونَ۔“ (سورہ الانعام ۹۳)

ترجمہ: ”اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے (۱) جو خدا پر جھوٹا بہتان لگائے (کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے)۔ (۲) یا جو کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس وہی بھیجی گئی ہے (اور میں صاحب وہی نبی ہوں) حالانکہ اس کے پاس قطعاً کوئی وہی نہیں بھیجی گئی ہو۔ (۳) اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اے مخاطب! اگر تو اس منظر کو دیکھے جب یہ ظلم کرتے والے سکرات موت کی حالت میں ہوں گے اور (موت کے) فرشتے ان سے ہاتھ بڑھائے کہہ رہے ہوں گے: لا وَلَا لَوْلَا أَنِّي جَاءْتُمْ، آجْ تَمْ كَوَاللَّهِ تَعَالَى پر تناحق بہتان لگائے اور اس کی آیات پر ایمان لانے سے تکبر (اور انکار) کرنے کی پاداش میں رسول کن عذاب دیا جائے گا۔ واضح ہو کہ مرزا غلام احمد ان تمام دعوؤں کا صاف اور صریح الفاظ میں جگہ جگہ اپنی تصانیف میں دعویٰ کرتا ہے اور یہی اس کا انجام ہے۔

## مرزا غلام احمد کے بعد مرزا نیوں میں پھوٹ اور

### ”لا ہوری، قادریانی“ کی تقسیم

اس بے دین کے جہنم رسید ہونے کے بعد اس کے دم چھلوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ہر گروہ ”اپنی اپنی بنی، اپنا اپناراگ“، الا پنے لگا، چنانچہ ایک گروہ (لا ہوری مرزا نی) تو اس کی امت سے بالکل ہی الگ ہو گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ: ”مرزا غلام احمد نبی نہ تھے، نہ بھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو مہدی آخر الزماں تھے اور (پناہ بخدا) مسیح محدث تھے (یعنی وہ عیسیٰ جو امت محمدیہ میں آنے والے ہیں)۔“

دھوکہ: ..... محض ایک فریب ہے اور دھوکہ جس کا مقصد صرف مسلمانوں کے بغض و عداوت اور نفرت و

بے زاری سے بچنا اور مسلمانوں کو مرزا غلام احمد اور اپنی جماعت سے مانوس کر کے خود کو اور مرزا کو مسلمان ثابت کرنا اور ٹھیک آڑ میں سید ہے سادے مسلمانوں کو شکار کرنا تھا، لیکن (مسلمان اس دھوکے میں نہیں آسکتے) ان کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ ”جو شخص مرزا غلام احمد کو بلا تردود مذنب کافرنہ مانے وہ بھی کافر ہے“ اور اس کی وجہ مذکورہ ذیل ہیں۔

## مرزا غلام احمد کی تکفیر کے وجہ

پہلی وجہ! دعویٰ نبوت..... اس ملحد نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں جگہ جگہ نہ صرف ”نبی“ بلکہ ”رسول“ اور ”صاحب شریعت رسول“ ہونے کے ایسے بلند بانگ دنوں کے ہیں کہ آج تک ان سے فضائی رہی ہے اس لئے دعویٰ نبوت کا انکار صرف زبردستی اور رسواکن سینہ زوری ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور جو بھی اس کو کافرنہ کہے وہ خود کافر ہے۔

اچھا میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں: جو شخص مسلمہ کذاب کو کافرنہ کہے اور اس کے صاف و صریح دعویٰ نبوت اور قرآن کے مقابلہ پر کہی ہوئی ”تک بندیوں“ میں تاویلیں کرے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟۔

ای طرح کیا ایک کھلے ہوئے بت پرست کو آپ کہیں گے کہ ”وہ بت کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کو دیکھتے ہی مند کے بل گر پڑتا ہے اس لئے وہ کافر نہیں ہے؟“ کیا یہ کھلی ہوئی زبردستی اور سینہ زوری نہیں ہے؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے اسے بارہا بت کے سامنے سر بخود دیکھتے ہیں تو اس کو کیسے کافرنہ کہیں؟ اور اس کی ”ضم پرستی“ کی تاویلیں اور تو جیہیں کیسے سنیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا! اس قسم کی مہمل تاویلیں قطعاً ناقابل التفات ہیں۔

ملحدوں کے قول و فعل میں تاویلیں کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں: چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”شرح مسلم“ میں اس قسم کے زندیقوں کے اقوال و افعال میں تاویل کرنے والوں کو ان (زنادقه) کی خاطر جھوٹ بولنے والا قرار دیتے ہیں، تیزی کہ ان میں مہمل تاویلوں اور مذبوحی حرکات سے تکفیر کا حکم نہیں بدلتا، چنانچہ فرماتے ہیں:

”تیسری بات یہ ہے کہ زندیق اگر پہلی مرتبہ (اپنی بے دینی سے) توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اگر بار بار توبہ کرتا اور توڑتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔“ (نووی مع مسلم ج: اوص: ۳۹)

حاصل یہ ہے کہ ایسے بے دین کے قول و فعل میں تاویل کرنا، تاویل نہیں اس کی حمایت میں جھوٹ بولنا ہے، جس سے تکفیر کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

دوسری وجہ! انکارِ نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت میں علیہ السلام کے نزول کا شہوت، تو اتر کی حد کو پہنچ چکا ہے، نیز اس پر امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے، لہذا اس میں کوئی تاویل و تصرف یا تحریف کرنا کھلا ہوا کفر ہے، علامہ آلوی محدث جو محققین علماء متاخرین میں سے ہیں ”روح المعانی“ میں تصریح فرماتے ہیں: ”نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ایک امر متواتر کا انکار ہے اور منکر کی تکفیر پر تمام علماء متفق ہیں۔“

مصنف ہبہ فرماتے ہیں کہ میں نے آیت کریمہ ”إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ بِهِ۔“ الآیہ، ذیل میں اس بے دین جھونے مدعی نبوت اور اس کے پیروؤں کا بیان تفصیل سے دیکھا اور پڑھا ہے، خدا سے جہنم رسید کرے، کیسا کئڑ کافر ہے اور اس نے اس آیت کریمہ کی تاویل نہیں تحریف میں کیا کیسا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے؟ لیکن اس سے بات پھر بھی نہیں بنی، بہر حال ان لوگوں کی تکفیر فرض نہیں ہے۔

تیسرا وجہ! تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام... ان مرزاںیوں خصوصاً لاہوریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اوزم نبی کا مرتبہ مرزا جیسے فاسق و فاجر اور بد کار و بد نسب شخص کو بخشنا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید ترین تو ہیں ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ باب ”ما یستحب للعالم اذ سئل أئمۃ الناس اعلم“ کے ذیل میں ”فتح الباری“ میں خوبصورت کلام کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”اگر ہم یہ کہیں کہ خضر نبی نہیں بلکہ ولی ہے اور یہ از روئے عقل و قلع قطعی طور پر مسلم ہے کہ نبی ولی سے بہر حال افضل ہے اور جو اس کے خلاف کہے (اور کسی ولی کو نبی سے افضل مانے) وہ قطعاً کافر ہے، اس لئے کہ یہ ایک یقینی امر شرعی کا انکار ہے (لہذا مرزا غلام احمد جیسے شخص کو عیسیٰ کہنے والے تو یقیناً کافر ہوں گے۔ ناقل)۔“ (فتح الباری ت: اص ۳۶۱ مطبوعہ دارالشراکت اسلامیہ، لاہور)

**مرزاںیوں کا حکم:** جو لوگ ان مرزاںیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے توبہ کرالیں، اگر یہ مرزاںیت سے توبہ کریں تو فہماور نہ قطعاً کافر ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان کے لئے اس سے زیادہ مراءات کی قطعاً گنجائش نہیں، جیسا کہ کتاب میں آنے والے مباحث سے ہم نے بالا جماعت ثابت کیا ہے۔

پھر یہ توبہ کرانا بھی ہر کس دن کام نہیں ہے، بلکہ صرف اسلامی حکومت کا حاکم ہی ان کے ”کفر و اسلام“ کا قطعی فیصلہ کرنے کے وقت ان سے توبہ کر اسکتا ہے تاکہ وہ ان کے کفر یا اسلام کا دو نوک فیصلہ کر سکے، لیکن اسلامی حکومت اور مسلمان حاکم موجود نہ ہونے کی صورت میں ان سے جہنم رسید ہونے تک کفر کے سارے کچھ نہیں، چاہے اسے اوڑھ لیں، چاہے بچھا لیں۔

غلط تاویل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں:.... غرض صاحب شریعت علیہ السلام نے تاویل باطل پر کبھی کسی کو معدود رہنیس قرار دیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے:

۱:.... امیر سریہ (پہ سالار فوج) عبد اللہ بن ابی حذفہؓ کو اپنے فوجیوں کو آگ میں داخل ہونے کا حکم دینے پر فرمایا: اگر وہ لوگ (اپنے امیر کے کہنے پر) آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس سے باہر نہ نکلتے، اس لئے کہ امیر کی اطاعت تو صرف از روئے شرع جائز امور میں کی جاتی ہے (اور جان بوجھ کر آگ میں کو دن خود کشی اور حرام ہے، اگرچہ امیر کے حکم سے کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کہ دخول فی النار کے جواز کے لئے اطاعت امیر کی تاویل باطل ہے)۔

۲:.... ایسے ہی حضور علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے اس کو ناپاکی کا غسل کرنے کا فتویٰ دیا تھا اور وہ غسل کرنے کی وجہ سے مر گیا تھا، فرمایا:

”خدا ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اس غریب کو مارڈا۔“

(و میکھئے! حضور علیہ السلام نے اس غلط فتویٰ دینے والوں کے فتوے اور تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا اور اس کی موت کا ان کو ذمہ دار قرار دیا)

۳:.... اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت معاذؓ پر کس قدر غصہ اور ناراض ہوئے، صرف اس بات پر کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے وقت لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا: ”افتاں انت یا معاذ؟“ (تم فتنہ میں ڈالتے ہو اے معاذ؟) (حالانکہ وہ آپ ﷺ کی ہی نقل اُتارتے تھے اور جو سورتیں آپ ﷺ نماز میں پڑھتے تھے وہ بھی وہی پڑھتے تھے، مگر آپ ﷺ نے ان کی تاویل کی طرف اصلاً اتفاقات نہ کیا اور ان کو فتنہ انگلیز قرار دے دیا۔)

اسی طرح نماز میں طویل قراءت کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ابی بن کعبؓ پر بھی ناراض ہوئے (اور ان کا بھی کوئی عذر نہ سنا)۔

۴:.... اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت خالدؓ پر ان لوگوں کو قتل کر دینے کی بنا پر سخت برہم ہوئے، جنہوں نے ”اسلمنا اسلمنا“ نہ کہہ سکنے کی وجہ سے ”صَبَّثَا حَسِبَثَا“ کہہ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا تھا، مگر حضرت خالدؓ نے سمجھے اور ان کو قتل کر دیا (حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت خالدؓ کی غلط فہمی پر ان کو معدود رہنے قرار دیا)

اسی طرح حضرت اسامہؓ نے سفر جہاد میں ایک بکریاں چرانے والے چہوڑا ہے کہ ”کلمہ پڑھنے کو ایک حیلہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ یہ اپنی جان و مال بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر آپ ﷺ ان پر بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا ”هلا شفت قلبہ“ (تونے اس کا دل چیز کر کیوں نہ دیکھا؟)

(غرض آپ ﷺ نے خالد بن عزریٰ اور اسامہ بن عزیٰ کے اس بظاہر عذر اور جائز تاویل کا قطعاً مخالف انتہیں کیا) ۵: اسی طرح آپ ﷺ اس شخص پر بے حد ناراض اور غصہ ہوئے جس نے مرض الموت کے وقت اپنے تمام غلام آزاد کر دیئے، حالانکہ وہی اس کی تمام پونچی اور سرمایہ تھا اور آپ ﷺ نے اس شخص کو ورشہ کی حق تلفی کا مرتب قرار دے دیا (اور اس کا کوئی عذر نہ سنا)۔

ان کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جن آپ ﷺ نے "بے جاتا ویل" اور "بے معنی عذر" کا قطعاً اعتبار نہیں کیا۔


تاویل کہاں معتبر ہے: ... فقہاء کی اصلاح میں چونکہ یہ تاویلیں امر مجتہد فیہ (محل اجتہاد) میں نہ تھیں اس لئے آپ ﷺ نے ان کا اعتبار نہ کیا اس کے برعکس ایسے امور میں آپ نے تاویل کو عذر قرار دیا اور تسلیم کیا ہے جو محل اجتہاد تھے، مثلاً

(۱) ... جن صحابہؓ میں آپ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ: "عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھنا" اور انہوں نے عصر کی نماز راستہ میں صرف اس لئے نہ پڑھی اور قضا کر دی کہ آپ ﷺ نے بنی قریظہ میں نمازِ عصر پڑھنے کا حکم دیا ہے (آپ ﷺ نے ان لوگوں کو نماز عصر قضا کر دیئے پر کچھ نہ کہا)۔

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۵۹)

(۲) ... اسی طرح ایک موقع پر دو صحابی سفر کر رہے تھے، راستہ میں پانی نہ ملا، اس لئے انہوں نے تنگ کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پانی مل گیا، وقت باقی تھا ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہ پڑھی، جب آپ ﷺ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سرزنش نہ فرمائی، صرف اس لئے کہ ان امور میں تاویل کی گنجائش تھی۔

خلاصہ: ... رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اس باب میں مسلمانوں کے لئے اسوہ حسنہ اور روشن لائج عمل ہونے چاہیے اور صرف انہی امور میں تاویل اور عذر کا اعتبار کرنا چاہیے جن میں تاویل کی گنجائش ہو۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، وہی جس کو چاہے ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو تو کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔



## زندلیقین، ملحدین و باطنییہ کی تعریف اور ان کے کفر کا ثبوت

کافروں کی قسمیں اور نام: علامہ تفتیاز انی بھرپور "مقاصد" ج: ۲ ص: ۲۹۸ کے خاتمہ نمبر: ۳ میں گمراہ فرقوں کی اقسام، تعریفات اور نام بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

کوئی کافر اگر زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور اندر سے کافر ہو تو اس کا نام "منافق" ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کا نام "مرتد" ہے اور اگر چند معبودوں کا قالب ہو تو اس کا نام "مشرک" ہے اور اگر کسی دوسرے آسمانی مذہب کا پیرو ہو تو اس کا نام "کتابی" ہے اور حادث عالم کو زمانہ کی جانب منسوب کرے اور اس کو قدیم مانتا ہو (یعنی زمانہ کو ہی خالق عالم اور ازلی ابدی مانتا ہو) تو اس کا نام "دہریہ" ہے اور اگر خالق عالم کا سر سے منکر ہو تو اس کا نام "معطل" (خدا کا منکر) ہے اور اگر مسلمان کہلانے کے باوجود ایسے عقیدے رکھتا ہو جو متفقہ طور پر کفر ہیں تو اس کا نام "زندلیق" ہے۔ (بالفاظ دیگر سات قسم کے کافر ہیں منافق، مرتد، کتابی، مشرک، دہریہ، معطل، زندلیق اسی کو "باطنی" اور "ملحد" بھی کہتے ہیں)

"شرح مقاصد" میں اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں:

"یہ واضح ہو چکا کہ کافر ہر اس شخص کا نام ہے جو مومن نہ ہواب اگر وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا خاص نام "منافق" ہے اور اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا تو اس کا خاص نام "مرتد" ہے، اس لیے کہ وہ اسلام سے پھر گیا (ارتداد کے معنی ہیں لوٹ جانا، پھر جانا) اور اگر ایک سے زیادہ معبود مانتا ہے تو اس کا خاص نام ہے "مشرک" اس لیے کہ وہ خدا کا شریک مانتا ہے (یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک کہتا ہے) اور اگر کسی منسون آسمانی مذہب اور کتاب کا پیرو ہے تو اس کا خاص نام "کتابی" ہے جیسے بیوی، نصرانی اور اگر زمانہ قدیم (کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا) مانتا ہے اور دنیا کے تمام واقعات موجودات کو اسی کی جانب منسوب کرتا ہے (گویا زمانہ کو ہی خالق کائنات مانتا ہے) تو اس کا خاص نام "دہریہ" ہے (دہر کے معنی ہیں لامحدود زمانہ) اور اگر خالق عالم کا وجود ہی نہیں مانتا (اور عالم کو باقتضاء مادہ آپ سے آپ پیدا ہو جانے والا سمجھتا ہے) تو اس کا خاص نام "معطل" ہے اور اگر نبی ﷺ کی نبوتوں کا اقرار اور اسلامی شعار کا اظہار کرنے کے باوجود ایسے عقیدے رکھتا ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں اس کا خاص نام "زندلیق" ہے "زند" اصل میں اس کتاب کا نام ہے جسے "قباد" پادشاہ اپنے کے عہد میں مزدک نے پیش کیا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ یہ محبوبیوں کی اسی کتاب کی تغیری ہے جس کو زرشت لے کر آیا تھا، محبوبیوں کا تقدیم ہے کہ زرشت نبی تھا، اسی زند کی جانب یہ

زندیق منسوب ہے (یعنی زندیق زندگی کا مغرب ہے جس کے معنی ہیں زندگو مانے والا، اہل اسلام نے ہر اس بے دین آدمی کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جو کفر یہ عقائد رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اسی کو عربی میں "مُلْكَ" ۱ اور "باطنی" کہتے ہیں۔ "باطنی" انہی زندیقوں اور ملحدوں کے ایک خاص فرقہ کا نام ہے)۔

**زندیق کی تعریف اور باطنی کی تحقیق:** صاحب "ردا المختار" علامہ شامی ہبہ "باطنی" کی تحقیق کے ذیل میں شامی ج: ۳۳ ص: ۲۰۹ پر قول "المعروف" کے تحت لکھتے ہیں:

"زندیق اپنے کفر پر اسلام کا مبلغ کرتا ہے اور فاسد عقائد کو ایسی صورت میں پیش کرتا اور رواج دیتا ہے کہ وہ سرسری نظر میں صحیح معلوم ہوتے ہیں، "ابطان کفر" (کفر کو چھپانے) کا مطلب یہی ہے لہذا اعلانیہ گمراہی کو اختیار کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا باطنی ہونے کے منافی نہیں ہے (یعنی باطنی ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر یہ عقائد اور گمراہی کو لوگوں سے چھپاتا ہو، بلکہ اسلام میں کفر کو غیر محسوس طریق پر داخل کرنا اور چھپانا ہی باطنی ہونے کے معنی ہیں اسی لئے ایسے گمراہ لوگوں کو "باطنی" کہتے ہیں)۔"

"حضرت مصنف ہبہ میں السطور میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہبہ کی "فتح الباری" ج: ۲۰ ص: ۲۲۰ میں "ابطان کفر" کی تفسیر کی مراجعت کیجئے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر و چھپانے کے معنی ہیں: "اسلام کے ساتھ کفر کو ملا دینا"۔

**زندیقوں اور باطنیوں کا حکم:** امام تووی ہبہ "شرح منہاج" ص: ۱۲۱ میں زندیقوں اور باطنیوں کے مرتد کے حکم میں ہونے اور ان کی تو بے کے قبول نہ ہونے کی تصریح فرماتے ہیں:

"بعض علماء کا تول ہے کہ اگر کوئی مسلمان زندیقوں اور باطنیوں کی طرح کفر نفی (پوشیدہ کفر) کی طرف لوٹ جائے تو (وہ مرتد ہے) اس کی تو بے قبول نہیں کی جائے گی۔"

حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شخص کے کفر کو چھپانے (اور باطنی ہونے) کے معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنے کفر یہ عقائد کو لوگوں سے چھپاتا ہو، بلکہ باطنی ہروہ گمراہ شخص ہے جو اسلامی عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا مدعی ہو

۱ علامہ ابن حبیدین "شامی" (ج: ۳ ص: ۲۰۹) میں مددی تحریک ان الخاظ میں کہتے ہیں: "والصلح هو من مال عن الشرع الفویم الى جهة من جهات الكفر، من العد في الدين حاد وعدل". الح" (عن العلامہ عبدالپاشا) یعنی مدد، شخص ہے جو محکم شریعت سے کسی بھی کفر کی جانب نہ ہو، وہ یہ لفظ "العد في الدين" سے محدود ہے جس کے معنی یہ دین سے مخرج ہو جانا اور دین پاشا (یہ علامہ عبدالپاشا کی تحقیق ہے) مترجم

بھیثیت مجموعی ایسا شخص کافر ہے اور اس کے عقائد کفر محسن ہیں۔

چنانچہ مسند احمد بن حنبل ج: ۲، حس: ۱۰۸، اور ”فتح الباری“ ج: اص: ۱۳۱ میں حضرت عبد اللہ بن عمر بن الجنہ کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سئیہ سے سنا ہے آپ فرمادے تھے کہ: ”(آئندہ زمان میں) اس امت کے اندر بھی مسخ ہوگا (یعنی انسانوں کی صورتیں مسخ ہو کر جانور بن جائیں گے) ہوشیار رہنا! یہ مسخ تقدیر کے منکروں اور ”زندیقوں“ کے اندر ہوگا۔“ (یعنی منکرین تقدیر کی اور زندیقوں کی صورتیں ہی مسخ ہوں گی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ زندیق بھی منکرین تقدیر کی طرح کافر ہیں، اس لئے کہ کافروں کی صورتیں ہی مسخ ہوتی ہیں) ”خصائص“ کے مصنف فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ”منتخب کنز العمال“ ج: ۶، حس: ۵۰ میں درج ایک مرفوغ روایت اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ:

”حضرت علیہ السلام نے فرمایا: میری امت میں ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو خدا اور قرآن کی منکر اور کافر ہو جائے گی اور ان کو پڑھ بھی نہیں چلے گا (کہ جنم کافر ہو گے) جیسے یہودی اور نصاریٰ کافر ہو گے۔ (اور ان کو پڑھ بھی نہ چلا) یہ وہی لوگ ہوں گے جو تقدیر کے ایک جزو کا اقرار کریں گے اور ایک جزو کا انکار کریں گے (یعنی ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ”خیر“ اللہ کی جانب سے ہے اور ”شر“ شیطان کی جانب سے (یعنی خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق شیطان، بالفاظ دیگر دو خدا ہیں ایک ””خداۓ خیر“ او را یک خدائے شر“ جیسے مجوہ ”یزواں“ اور ”بُشْرَ“ دو خدامانتے ہیں) اور اپنے اس عقیدہ کے ثبوت میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے (جیسی اپنے اس عقیدہ کو قرآن سے ثابت کریں گے) چنانچہ یہ لوگ قرآن پر ایمان لانے اور علم و معرفت حاصل کرنے کے بعد محسن اس عقیدہ کی بنابر کافر ہو جائیں گے۔ میری امت کو ان لوگوں سے کس قدر جنت و جدال اور بغض و عناد کا سامنا کرنا پڑے گا (خدائی خوب جانتا ہے) یہی لوگ اس امت کے زندیق (مجوہ) ہیں، ان کے عہد میں حکمرانوں کا ظلم و تم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، پناہ بخدا اس ظلم و جور اور ایسی حق تلافی سے! اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا طاعون بھیجیں گے جو ان میں سے بیشتر لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اس کے بعد ”حسف“ ہوگا (اور یہ لوگ زمین میں ڈھنس جائیں گے) تو شاید ہی ان میں سے کوئی بچے (ورنہ سب ہی ہلاک ہو جائیں گے)

❸ حضرت شیخ نے یہ روایت بطور حاشیہ لکھی ہے۔ مترجم۔

خلاصہ: حضرت مصنف محدث مذکورہ بالا کتب اور حوالوں سے یہ ثابت رہتا چلتے ہیں کہ اسلام میں کفر یہ عقائد کو داخل کرنے والا ہر مسلمان (کہلانے والا) زندیق ہے، یا طبقی ہے اور یہ تعلیم قطعاً ہے اور یہ میز زندگی اور باطنیت کی حقیقت اسلام کے پردہ میں کفر کو چھپانے کے سوا اور پچھے نہیں اور یہ تصور فی قریبینا کافم چ ۔ مترجم

ان دنوں میں اہل ایمان کے لئے خوشی اور سرت مفقود اور غم والم حد سے زیادہ ہو گا۔ اس کے بعد ”مسخ“، ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان میں سے باقی تمام لوگوں کو بندرا اور خنزیر بنادیں گے، پھر اس کے بعد ہی دجال کا ظہور ہو گا۔ ”طبری“ اور ”بیہقی“ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ”بغوی“ نے رافع بن خدجنج (شیعہ) سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

## جن اہل قبلہ کو کافرنہیں کہا جاتا، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ ۰

**علماء اہل سنت کے اقوال:** (علامہ تفتازانی) نے ان اہل قبلہ کی تعریف کے سلسلہ میں کہ جن کو کافرنہیں کہا جاتا، علماء اہل سنت اور معتزلہ کے مذکورہ ذیل اقوال ”مقاصد“ (ج: ص: ۲۶۹ پر بیان فرماتے ہیں):

”ساتویں بحث، ان اہل قبلہ کے حکم کا بیان جوابِ حق کے مخالف ہیں:

- (۱) جوابِ حق (مسلمان کھلانے والے) حق کے مخالف (اور گمراہ) ہیں وہ اس وقت تک کافرنہیں کھلاتے جب کہ ضروریات دین (یعنی ان قطعی اور یقینی عقائد و احکام) کا انکار نہ کریں (جن کے شارع علیہ السلام سے ثابت ہونے پر امت کا اجماع ہے) مثلاً عالم کے حادث (یعنی عدم کے بعد موجود ہونے کا عقیدہ، حشر جسمانی (یعنی مرنے کے بعد جسمانی) اور پردوبارہ زندہ ہونے) کا عقیدہ۔
- (۲) اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں! ہر اہل حق سے اختلاف کرنے والا (مطلقًا) کافر ہے (اس لئے کہ وہ حق کا مخالف ہے)۔

- (۳) استاد جمیلہ کا قول ہے کہ: جو نہیں (یعنی اہل حق کو) کافر کہے گا، ہم بھی اس کو کافرنہیں گے اور جو نہیں (اہل حق کو) کافر نہ کہے گا، ہم بھی اس کو کافرنہ کہیں گے (یہ علماء اہل سنت کے تین قول ہیں)۔

**معترزلہ کے اقوال:** (۱) معتزلہ میں سے متقدیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بندہ کو اپنے اعمال و افعال میں مجبور، اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال و افعال کا خالق مانتے ہیں

❶ عام طور پر مسلمان ایسے لوگوں یا فرقوں کو جو قطعی طور پر کفر یہ عقائد و اہمیات کے مرکب اور کافر چیزیں بھی اس لئے کافر کہنے اور اسلام سے خارج فرار دینے سے اعتناب کرتے ہیں کہ وہ نہ اہم اور قرآن نہ ہم لیتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے سے کام کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ ”اہل قبلہ کو کافر کہنا جائز نہیں“ یہ ایک بہت بڑی نا انسانی یہ حکمرت میں اچھے اچھے مسلمان گرفتار ہیں، درحقیقت ”کلمہ حق ارید بہ الباطل“ کے طور پر یہ ایک چلتا ہو، اقتدار فریب ہے جس کو یہ گمراہ اور کافر لوگ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے اور علماء حق کی تعلیم سے بچنے کے لئے پیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لئے مسٹر قدس اللہ سرہ نے مکہ مدینہ میان قائم کر کے اس غلط فہمی یا فریب کا پردازہ چکر کے فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اس ماذکوری سے بچو۔

(یعنی اساسی عقائد میں معترض کے مخالف ہیں) ایسے لوگ ہمارے نزدیک کافر ہیں۔

(۲) ... لیکن عام معترض کہتے ہیں کہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو (اس کی ذات پر) زائد (الگ) مانتے ہیں، (آخرت میں) اللہ تعالیٰ کے دیدار کے، (گنجائی مسلمانوں کے) جہنم سے نکلنے کے قائل ہیں اور بندوں کی تمام برائیوں اور بدکرداریوں کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تحت داخل اور اللہ تعالیٰ ہی کو ان کا خالق قرار دیتے ہیں۔ (یعنی جملہ عقائد میں معترض کے مخالف ہیں) ایسے تمام لوگ کافر ہیں۔

اسکے اہل سنت کی دلیل: ... ائمہ اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد صحابہؓ جنہوں تابعین ہیں (اس طرح عقائد کی چھان بیں نہیں کیا کرتے تھے (جیسے معترض کرتے ہیں) بلکہ صرف "عقائد حق" سے آگاہ کر دیتے تھے (اور توحید و رسالت، حیات بعد الموت وغیرہ اساسی عقائد کے اختیار کرنے کے لئے کافی سمجھتے تھے)

اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ: پھر تو مجتمع علیہ عقائد کے بارے میں بھی اسی طرح حق کے بیان کردیئے پر اکتفاء کرنا چاہئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ: مجتمع علیہ عقائد و اصول اور ان کے دلائل ان عرب ساربانوں کے معیار فہم کے مطابق (اس قدر) معروف اور ظاہر و واضح تھے (کہ ہر مسلمان ان سے آگاہ و مطمئن ہوتا تھا اور بالاتر دو ان کو قبول کر لیتا تھا) بعض علماء اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ: (قرآن اولیٰ میں) عقائد تفصیلیہ کو اس لئے بیان نہیں کیا جاتا تھا کہ (اس زمانہ میں) اجمانی ایمان ① یعنی تفصیل معلوم کئے بغیر ایمان لے آتا (اس لئے کہ عرب عام طور پر عقلی اور نظری موشکافیوں سے نآشنا ایک سادہ ذہن کی مالک قوم تھی، وہ بالاتر دو اور بدلوں رد و قدر حکم کو قبول کر لیتے تھے) تحقیق و تفصیل کی ضرورت اسی وقت مولیٰ ہے جب یہی تحقیق و تفصیل پیش نظر ہو (یعنی عقائد باطلہ پہلے سے ذہنوں پر مسلط ہوں تو ان کے ازالہ کے لئے تحقیق و تفصیل اور حق کے خلاف

① ... حاصل یہ ہے کہ ایک سادہ لوح اور خالی الذین آدمی ہے مسلمان ہونے کے سیدھے سادے اساسی عقائد اسلامیہ اور ان کے دلائل مثلاً توحید، رسالت، حیات بعد الموت پر ایمان لے آتا ہے اُن کی تحقیق و تفصیل اور دلائل عقلیہ سے واقف نہ ہو اس کے برعکس ایک ذات و صفات الہیہ کے باب میں گم کر دہ رہا ان کے مسلمان ہونے کے لئے تفصیلی طور پر ان عقائد باطلہ سے تائب ہوتا اور ان کے مقابل عقائد حق کو قبول کرنا ضروری ہے، مہمہ نبوت اور قرآن اول میں مسلمان ہونے والے ہو ما پہلی قسم کے لوگ تھے اس لئے منطق علیہ اساسی عقائد کی اجمانی تصدیق صحیح اسلام کے لئے ہمیں تحقیق کیں اس مہمہ کے بعد جب "مرے مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو چونکہ ذات و صفات الہیہ اور مبداء و معاویہ کے باب میں بالبس عقائد پہلے سے ان کے باول میں رائج ہوتے ہیں اس لئے ان کا اسلام ان عقائد باطلہ سے تفصیلی طور پر برآت اور مجتمع علیہ عقائد حق کو قبول کئے بغیر معتبر نہیں۔ سمجھا جاتا اس لئے اس زمانہ میں مجتمع علیہ عقائد حق کے بارے میں محض بیان حق پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ مترجم

اوہام و شکوک کی تردید کی ضرورت ہوتی ہے) اور نہ تو بے شمار ایسے کے اور مخلص مومن موجود ہیں جو قدیم و حادث کے معنی بھی نہیں جانتے (اور وہ راجح العقیدہ مومن ہے)

یہ بحث تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک فرقہ کا دوسرے فرقہ کو کافر کہنا اس قدر معروف ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں (لہذا بقول استاذ جواہیں حق کو کافر کہے گا وہ یقیناً کافر ہے اور ہم اس کو کافر کہیں گے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو)۔

ضروریاتِ دین اور متفق علیہ عقائد کے منکر اہل قبلہ متفقہ طور پر کافر ہیں:  
علامہ موصوف "مقاصد" کی شرح میں "باب الکفر والا بیمان" کے ذیل میں ج: ص: ۲۸۷۰ تا ۲۸۷۲ پر اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

"(اہل قبلہ کے بارے میں) مذکورہ بالا بحث کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو ضروریاتِ دین مثلاً (توحید، تبوت، ختم نبوت، وحی والہام) حدوث عالم اور حشر جسمانی وغیرہ جمیع علیہ عقائد حقہ میں تو اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کے علاوہ اور نظری عقائد و اصول میں اہل حق کے مخالف ہوں، مثلاً صفاتِ الہیہ، خلق اعمال، ارادۃ الہی کا خیر و شر و نوں کے لئے عام ہونا، کلامِ الہی کا قدیم ہونا، روایت پاریٰ تعالیٰ کا ممکن ہونا، ان کے علاوہ وہ تمام نظری عقائد و مسائل جن میں حق یقیناً ایک ہے (اثبات یا نفي) ایسے مخالفین حق کے بارے میں بحث ہے کہ ان عقائد کا معتقد اور قائل ہونے (یا نہ ہونے) کی بنابر کسی اہل قبلہ (مسلمان) کو کافر کہا جائے یا نہیں؟ اور نہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ اہل قبلہ (مسلمان کہلانے والے) جو عمر بھر روزہ، نماز، وغیرہ تمام عبادات و احکام کا پابند رہا ہو لیکن عالم کو قدیم (ازلی ابدی) مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعد الموت کا انکار کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو جز نیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو وہ (قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کے باوجود) بالاشک و شبہ کافر ہے، اسی طرح کوئی اور کفری قول یا فعل اس سے سرزد ہو تو وہ بھی کافر ہے۔

**"لَا يَكُفِرُ أَهْلُ الْقِبْلَةِ، كُسْكَمْلَكْ بِهِ؟"** اہل حق کا یہ مذکورہ بالاقول (کہ جب تک اہل قبلہ میں کوئی شخص ضروریاتِ دین کا انکار نہ کرتے اس کو کافر نہ کہا جائے) یہ شیخ ابو الحسن اشعریؑ اور پیشتر اشاعرہ کامدہ بہبؑ ہے، امام شافعیؓ کے مذکورہ ذیل قول سے بھی یہی متشرع ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں:  
"میں بجز خطابیہ کے اور باقی گمراہ فرقہ والوں کی شہادت روئیں کرتا (یعنی کافر نہیں سمجھتا) اس لئے کہ یہ خطابیہ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں۔"

"متفقی" میں امام ابوحنیفہؓ کے متفق بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ: امام ابوحنیفہؓ نے کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا۔ "یہی اکثر و پیشتر فقہاء حنفیہ کا مسلک ہے، ہاں بعض فقہاء حنفیہ ہر اہل حق کے

مخالف کو کافر کہتے ہیں۔

**اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟** محدث قاری "شرح فتاہ آہر" ص: ۱۸۵ میں فرماتے ہیں:

"یاد رکھو! اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو ضروریات و مہماں دین مثلاً حدوث عالم، حشر بسمانی، ہر بر کلی و جزئی پر علم الہی کے محیط ہونے اور اسی قسم کے اہم اور بنیادی مسائل میں اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، چنانچہ جو شخص تمام عمر شرعی احکام و عبادات کی پابندی کرتا رہے، لیکن عالم کو قدیم مانتا ہو یا حشر بسمانی کا انکار کرتا ہو یا اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا عاملہ نہ مانتا ہو، وہ یہ اہل قبلہ میں سے نہیں سے (وہ تو بدوس اخلاف سب کے مزدیک کافر ہے) نیز علماء اہل سنت سے ہے کہ اسی اہل قبلہ کو کافرنہ سنبھے کا مطلب ہی ہے کہ کسی اہل قبلہ کو اس وقت تک کافرنہ کہا جائے جب تک اس میں کوئی کفر کی علامت یعنی کفر یہ قول یا فعل نہ پایا جائے اور کوئی موجب کفر امر اس سے روزونہ بولا گویا کسی مسلمان سے اگر کوئی بھی کفر یہ قول یا فعل سرزد ہو، یا اس میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے تو وہ اہل قبلہ سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتا رہے اور مسلمانوں کی طرح عبادات و احکام شریعت کا پابند بھی ہو)۔"

**غالی بہر صورت کافر ہے:** ملا عبدالعزیز البخاری رحمۃ اللہ علیہ "تحقيق شرح اصول حسامی" میں بحث اجماع کے تحت ص: ۲۰۸ پر "ان غلافیہ" (ای فی ہواہ) کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگر کسی گمراہ فرقہ والے نے اپنے باطل عقیدہ میں ناکو اختیار کیا اور حد سے تجاوز کر گیا تو اس کو کافر قرار دینا ضروری ہے، ایسی صورت میں اہل حق کے ساتھ اس کی موافقت یا مخالفت کا بھی اعتبار نہ ہو گا اس لئے کہ وہ امت مسلم (مسلمانوں) میں داخل ہی نہیں رہا جس کو جان و مال کی امان حاصل ہے، اگرچہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے اور خود کو مسلمان سمجھتا رہے، اس لئے کہ امت مسلم (مسلمان) ہر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ شخص ہے جس کا پورے دین اسلام اور عقائد مقتضیہ پر ایمان ہو وہ شخص یقیناً کافر ہے اگرچہ وہ خود کو کافرنہ سمجھے۔"

**مصنف** رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "کشف" شریعت "بزدی"، ج: ۳ ص: ۲۳۸ میں اجماع کے تحت اور آمدی کی کتاب "الاحکام"، ج: اص: ۳۲۶ میں "مسئلہ سادسہ" کے تحت یعنی یہی تحقیق مذکور ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ "روائعت"، ج: اص: ۲۷۴، طبع جدید ۱۳۲۲ھ ص: ۵۲۹ میں مسئلہ "امامت" کے تحت اور ج: اص: ۶۲۲ مسئلہ "انکار و تر" کے تحت فرماتے ہیں:

"اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جو ضروریات اسلام (وین کے یقینی اور قطعی عقائد احکام) کا مخالف ہو، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور ساری عمر عبادات و طاعات کا پابند رہا ہو

جیسا کہ (شیخ ابن ہمام بنیان نے) ”تم تجویز میں بیوں یہ ہے۔“

اس کے بعد ج: ا ص: ۵۲۵ پر فرماتے ہیں

”(صاحب البحر الرائق) نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ جنہیں کے اس قول کی مراد کہ ”کسی اہل حق کے مخالف شخص یا فرقہ کو کافرنہ کہا جائے“ یہ ہے۔ وہ شخص یا فرقہ، ان مسلمہ اصولوں کا مخالف نہ ہو، جن کا دین ہونا معروف اور یقینی ہے اس کو اچھی سبب تجویز ہے۔“

موجب کفر عقائد و اعمال اور اہل قبلہ کو کافر کرنے کا مطلب: ”شرح عقائد شیعیٰ“ کی شرح ”نبراس“ کے مصنف س: ۲۷۴ پر یہ ہے: ”متین یہ: کی صداح میں ”اہل قبلہ“ وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین لیجئے ان تمام عقائد و ادکام و رسمت ہوں جن کا ثبوت شریعت میں یقینی اور معروف مشہور ہے لہذا جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو مثلاً: عالم کو حادث نہ مانے، یا جسمانی حیات بعد الموت کا قابل نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کے داعم جزویت ہونے کا منکر ہو یا انداز روزہ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں، اگرچہ تمام تر عبادات و احکام شرعیہ کا بختنی سے پابند ہوا اسی طرح جس شخص میں کوئی بھی ملامت کفر پائی جائے مثلاً: کسی بت (وغیرہ) کو وجہ کرے یا کسی امر شرعی کی توہین کرے اور مذاق اڑائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں ہے، اہل قبلہ کو کافرنہ کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو معاشری اور گناہوں کے ارتکاب کرنے یا غیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کافرنہ کہا جائے، یہی مختلطین کی تحقیق ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھو!۔“

ضروریاتِ دین کا منکر کافر اور واجب القتل ہے: ”جوہرة التوحید“ کا ایک شعر ہے  
(حاشیۃ تہجوری علی جوہرة التوحید ص: ۱۰۳)

و من لمعلوم ضروری جحد

من دیننا یقتل کفرًاليس حد

ترجمہ: ... ”جس شخص نے ہمارے دین کے کسی بھی یقینی امر کا انکار کیا ہو، وہ کفر کی بنا پر قتل کرو یا جائے گا، نہ کہ جد کے طور پر۔“

(اس لئے کہ حد تو مسلمان پر جائز ہوتی ہے اور یہ شخص کافر ہے، لہذا اس کو دوسرا کافروں کی طرح بر بنائے کفر قتل کیا جائے گا) ”جوہرة“ کے شارح اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس منکر کا کفر تو یقینی اور متفق عالیہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ”ما تَرْيِدُ يَهُوْ تو کسی بھی قطعی امر کے منکر کو کافر کہتے ہیں اگرچہ وہ ضروری الشیعات (یعنی متواتر یا مجعع نامیہ) نہ ہجھی ہو۔“

اجماع صحابہ جب قطعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ مصنف ہمیشہ فرماتے ہیں: تمام

حذی علماً اصول اس پر متفق ہیں کہ جس امر پر صحابہؓ کا اجماع ہو چکا ہے اس کا انکار کفر ہے اس لئے کہ وہ اس "اجماع صحابہؓ" کو کتاب اللہؐ مرتباً میں رکھتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن تیمیہؓ میں اقتداء الدلیل، ج: ۳۰ ص: ۱۳۰ میں فرماتے ہیں:

صحابہ کرامؓ کا اجماع قطعی جلت سے اور اس کا اتنا فرض ہے، بلکہ یہ تو سب سے قوی جلت اور دوسرا تمام دلائل پر مقدم ہے اور چہ اس سے اثبات اور تحقیق کا یہ مقام نہیں، تاہم یہ اپنی جگہ نہ صرف تمام فقہاء کے ہاں مسلم ہے بلکہ ان تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے جو حقیقت میں مومن ہیں، اس کی مخالفت صرف انہی گمراہ فرقوں نے ہی ہے جن کو ان کے گمراہ عقائد کی بنابر کا فریا فاسق قرار دیا گیا ہے، صرف یہ بلکہ وہ ان فاسد عقائد ساتھ ایسے بیڑہ گناہوں کے بھی مرتكب ہوئے ہیں جو ان کے فتنہ کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

مصنفؓ میں فرماتے ہیں کہ: لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے نزدیک بھی اجماع صحابہ جلت ہو، جیسا کہ تفسیر "روح المعانی" ج: اص: ۲۷ میں آیت کرہ "أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَاءُ عَلَيْهِمْ" کی تفسیر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ محقق ابن امیر الحاج نے جوشیخ ابن ہمام اور حافظ ابن حجرؓ کے شاگرد رشید ہیں "تحریر" کی شرح میں مسئلہ "تقیم خطا" کے ذیل میں اجماع صحابہ کے جلت قطعی ہونے کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح علامہ تفتازانیؓ نے "تلویح" میں حکم اجماع کے ذیل میں اس مسئلہ کی تصریح فرمائی ہے۔

**کفر یہ عقائد و اعمال:** "شرح التحریر" ج: ۳ ص: ۳۱۸ میں محقق ابن امیر الحاج کی عبارت حسب ذیل ہے:

"اہل قبلہ میں سے وہ مبتدع (گمراہ) جس کو اس کی بدعت (گمراہی) کی بنابر کا فرنہیں کہا جاتا اور کبھی کبھی اس کو گنہ کار اہل قبلہ کے انتہا سے تعبیر لر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مصنف (شیخ ابن ہمام) نے اس سے قبل: "وللنہی عن تکفیر اهل القبلة" کے ذیل میں اشارہ فرمایا ہے، اس سے صرف وہی شخص مراد ہے جو ضروریت: یہ میں تو اہل حق سے متفق ہو، مثلاً حدوث عالم اور حشر جسمانی کا قابل ہوا اور کوئی اور کفر یہ قول یعنی بھی اس سے سرزنش ہوا ہو، مثلاً اللہ کے سوا کسی کو معیود ماننا، یا کسی انسان میں اللہ تعالیٰ کے حوالہ کا قابل ہونا (یعنی کسی کو خدا کا "اوთار" ماننا) یا حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کرنا، یا آپ ﷺ کی نعمت یا توہین کرنا اور اسی قسم کی کفر یہ باتوں کا قابل ہونا، لیکن ان کے علاوہ اور ایسے اظہری مسائل میں اہل حق کا مخالف ہو، جس میں متفقہ طور پر حق ایک

جانب ہے (اشبات یا نقی) مثلاً: صفاتِ الہیہ، حق افعالِ عباد، ارادۃ الہی کا خیر و شر دنوں کے لئے عام ہوتا، کلامِ الہی کا قدیم ہوتا وغیرہ (تو ان مسائل میں اختلاف کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ غرض جو اصولی عقائد و اعمال میں اہل حق سے متفق ہوا اور فروعی مسائل میں مخالف ہو، صرف اس شخص کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے) اور غالباً مصنف <sup>بھائی</sup> (شیخ ابن حمام <sup>بھائی</sup>) نے اس سے قبل اپنے مذکورہ ذیل قول سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے: ”اس لئے کہ یہ مبتدئ بھی قرآن، حدیث یا عقل سے ہی اپنے عقائد پر استدلال کرتا ہے۔“ ورنہ ضروریات دین میں مخالفت کرنے والے کو کافر کہنے کے بارے میں تو اہل حق میں کوئی اختلاف سے ہی نہیں، مثلاً حدودِ عالم یا حشر بسمانی، یا اللہ تعالیٰ کا علم جزئیات وغیرہ یہ تو وہ بنیادی مسائل ہیں کہ ان کا انکار کرنے والا ہستینا کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور ساری عمر عبادات و طاعات اور احکام شرعیہ پر کار بند رہا ہو، اسی طرح وہ شخص بھی بغیر کسی اختلاف کے کافر ہونا چاہئے جو کسی بھی موجب کفر قول یا فعل کا مرتكب ہو، ایسی صورت میں ”خطابیہ“ (کہ جن کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہے) کو بھی ان وجوہ کی بنا پر کافر کہنا چاہئے جن کو ہم ”شرائع راوی“ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ: ”کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر کی ممانعت کا ضابط بھی عام نہیں ہے، اللہ یہ کہ گناہ سے وہ گناہ مراد لیا جائے جو کفر نہ ہو تو وہ شخص جس کی تکفیر کسی موجب کفر گناہ کی وجہ سے کی جائے وہ تو ضرور اس ضابط سے خارج ہو گا (اور اس کو کافر کہا جائے گا) جیسا کہ شیخ تقی الدین <sup>بھائی</sup> اس جانب اشارہ کیا ہے۔“

حضرت مصنف <sup>بھائی</sup> فرماتے ہیں: اس کے بعد محقق ابن امیہ الحاج نے سکلی <sup>بھائی</sup> کا قول نقل کیا ہے جو ہماری اس تحقیق کے لئے قطعاً مندرجہ ہے، اس لئے <sup>بھائی</sup> شیخ <sup>بھائی</sup> اس شخص کے بارے میں بحث کر دے یہی جوز بان سے کلمہ کفر بکہیے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے (کہ یہ شخص کافر نہیں ہے) اور وہ اس شخص کو اس مسلمان کی مانند قرار دیتے ہیں جو مرتد ہو جاتے کے بعد اسلام لے آئے، تاہم محقق موصوف اس کو بھی محل نظر قرار دیتے ہیں اور اس شخص کے مسلمان ہونے کے لئے بھی اس کلمہ کفر سے توبہ اور اظہار براءت کو ضروری قرار دیتے ہیں جو اس نے زبان سے لکھا تھا، یہ شرط سکلی <sup>بھائی</sup> کے کلام میں بھی ملحوظ ہے، لہذا محقق موصوف اور شیخ <sup>بھائی</sup> کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہا۔ ①

① اور دنوں بزرگوں کے نزدیک ضروریات دین کا انہر یا موجہت تحریر، بیکاپ پرست، الائچس ایکٹیو ہو فیسے اورچہ وہاں قبلہ میں سے ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو۔ احکام شرعیہ و عبادات پر کار بند بھی جو نہیں یہ تحریر، بیکاپ پرست دین میں سے اسی ایسہ کا انکار یا موجہات کفر کا ارتکاب اس کو اہل قبلہ سے خارج کر دیا ہے، نہیں یہ کسی اس تحدی و عقبے سے ”عین“ ایک ایسی طرف منجر کئے نہ ہے بلکہ یہ متنے والے ”کمحنا“ تاواقیت کی ولیل ہے، درحقیقت اہل حق نے اسی شخص کے ”تمہارے“ وہیے ”ہے“ سے یہ متوال بطور اصطلاح اتفاق رہیا ہے اور یہ اصطلاح بھی جیسا کہ عقریب معلوم ہو جائے گا۔ ”ماصلہ اصولت اور مستعلو افتبا“ سے، تو، درصاعت تحریرت میڈت ہدایت ہے۔ مترجم

دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی نیخ کرنی کے مراد ف اور موجب کفر ہے:

محقق محمد بن ابراہیم وزیر یمانی اپنی کتاب "ایثار الحق" کے ص: ۲۳ پر فرماتے ہیں: "دوسری فرع یہ ہے کہ معمون ساختاں مسمانوں میں، ہمیں خصوصت و عداوت کا موجب نہ ہونا چاہئے اور یہ "مجموعی ساختاں" ہوتے ہے جو دین کے اساسی اور قطعی امور میں نہ ہو جن سے اختلاف کرنے والے کی تکفیر پر شرعی دلائل قائم ہو چکے ہیں ( بلکہ ان فرعی اور نظری مسائل میں اختلاف ہو جن کا دین ہونا قطعی اور مجمع علیہ نہیں ہے)۔"

یہی محقق کتاب مذکورہ کے ص: ۲۴۵ پر فرماتے ہیں:

"جیسے ان ملحدوں اور زندیقوں کا کفر جنہوں نے کتاب اللہ عز و جل کی تمام تر آیات کی ایسے باطنی امور سے تاویلیں کر کے قرآن کو ایک کھیل بنا لیا ہے، جن میں سے نہ کسی کی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی علامت، نہ ہی سلف صالحین کے عہد میں ان باطنی معانی کی جانب کوئی اشارہ (یعنی قرآن کریم کے الفاظ ① کے من مانے معانی اور مراد یہیں گھرستے ہیں) اسی زمرہ میں وہ تمام اشخاص اور فرقے بھی داخل ہیں جو شریعت الہیہ کا نام و نشان مٹا دیئے اور ان تمام یقینی اور قطعی علوم کو رد کرنے میں ان زندیقوں اور ملحدوں کے نقش قدم پر گامزن ہیں جن کو ہمیشہ سے امت مسلمہ کے پچھلے لوگ اپنے پہلے بزرگوں سے سنتے سناتے اور نقل کرتے چلے آتے ہیں۔"

یہی محقق کتاب مذکورہ کے ص: ۱۶۸ پر فرماتے ہیں:

"پس یاد رکھو! "اجماع" دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ اجماع جس کی صحت قطعی اور یقینی طور پر دین سے اس طرح ثابت ہو کہ اس سے مخالفت کرنے والے کو کافر کہا جائے، یہی وہ صحیح اور حقیقی اجماع ہے جو قطعاً اور یقیناً دین ہونے کی بناء پر بحث سے بالاتر ہے (یعنی اس اجماع کا جھٹ ہونا محتاج بحث نہیں)۔"

### مسئلہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل مأخذ اور حقیقت:

مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: یاد رکھو! اہل قبلہ کو کافر کہنے کی ممانعت کے زیر بحث مسئلہ کا

① مثلاً کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا نہ آیا اس سے مراد "اجماع" ہوتا ہے، ایسے ہی آنکھ کل ہمارے زمانہ کا ایک زندہ یقینی غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ اللہ سے مراد "مرکز ملت" ہے اور کہیں کہتا ہے کہ اللہ سے مراد وہ "سنات علیا" ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہئیں۔ از مترجم۔

اصل مأخذ ”سنن ابو داؤد“ باب الجہاد (ج: اص: ۲۳) کی ایک حدیث ہے، جس میں حضرت انس رض سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”تمن چیزیں اصل ایمان ہیں:

- (۱) .... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبِيرٌ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ (کے جان و مال) پر دست درازی نہ کرنا۔
- (۲) .... کسی ”گناہ“ کا ارتکاب کرنے کی بنا پر اس کو کافرنہ کہنا۔
- (۳) .... کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کرنا۔“

اس حدیث میں شریعت کے عرف کے مطابق ”گناہ“ سے یقیناً وہ گناہ مراد ہے جو کافرنہ ہو اور بالکل اسی طرح یہ جملہ امام ابوحنیفہ رض وغیرہ سے مثلاً امام شافعی رض سے ”الیوقیت“ میں منقول ہے اور سفیان بن عینہ سے حمیدی نے اپنی مند کے آخر میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ انہیں دین کی تعبیرات و اقوال میں ”گناہ“ کی قید کے ساتھ وارد ہو اتے (یعنی جس طرح حدیث میں: ”لَا يَكُفِرُه بِذَنْبٍ“ آیا ہے اسی طرح یہ انہیں بھی: ”لَا يَكُفِرُ أَهْلُ الْقِبْلَةَ بِذَنْبٍ“ فرماتے ہیں) جیسا کہ ”الیوقیت والجواہر“ میں (ج: ۲: ص: ۱۲۳) پر امام شافعی رض سے منقول ہے، لیکن مرور ایام کے بعد کچھ ظاہر پرستوں، کچھ جاہلوں اور کچھ ملحدوں نے ان انہیں کے اقوال میں سے ”گناہ“ کی قید کو اڑا دیا (اور ”لَا يَكُفِرُ أَهْلُ الْقِبْلَةَ“ رہنے دیا) اور ان انہیں کے اقوال کو بے محل استعمال کرنے لگے (کہ ان انہیں کے نزدیک کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، ظاہر ہے کہ یہ کھلی ہوئی تحریف اور ان انہیں پر بہتان ہے)

### ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا تعلق حکمرانوں سے ہے:

مصنف رض فرماتے ہیں کہ: ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا آغاز دراصل امراء اور حکمرانوں سے ہے (یعنی یہ مقولہ دراصل حکمرانوں کے حق میں ہے) چنانچہ حضرت انس رض کی مذکورہ بالا روایت اور اسی قسم کی دوسری روایتیں دراصل امیر اور حکمرانوں کی اطاعت کے وجوہ اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ان کے خلاف بغاوت کی ممانعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ امام مسلم رض نے ”صحیح مسلم“ میں (ج: ۲: ص: ۱۲۵) ان تمام روایات کی تخریج اکابر کے ذیل میں کی ہے اور ان تمام روایات میں خواہ ”صحیح مسلم“ میں ہوں خواہ دوسری کتب حدیث میں مذکورہ ذیل استثناء موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے:

”الَا إِن تَرُوا كُفَّارًا بِإِحْدًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ“

ترجمہ: .... "لَا يَأْتِمْ (ان امراء کے قول و فعل میں) ایسا کھلا ہوا کفر دیکھو کہ اس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل و برہان موجود ہو۔" (صحیح بخاری ج: ۲۰۲۵، اکتاب الحنف)

اور یہی مراد حضرت انس بن علیؓ کی مذکورہ ذیل روایت کی بھی ہے، جس کی تحریخ امام بخاری مبنیۃ

وغیرہ نے کی ہے:

"من شهد ان لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلوتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم." (صحیح بخاری ج: ۱۳، ۵۶)

ترجمہ: .... "جس نے لا إله إلا الله کی شہادت دی اور ہمارے قبل طرف من کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیح کو (حلال جاتا اور) کھالیا وہ مسلمان ہے، اس کے وہی تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں اور اس پر وہی تمام ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان پر ہوتی ہیں (یعنی ایسا حکمران جو ان تمام شعائر اسلام کو مانتا اور کرتا ہو وہ مسلمان ہے اس کی اطاعت واجب اور اس کے خلاف بغاوت ممنوع ہے)۔"

مصنف مبنیۃ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان "اَلَا ان ترُوا كُفُراً بُواحاً عَنْدَكُمْ مِنَ الْأَللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ" ثابت کرتا ہے کہ یہ دیکھنا (اور فیصلہ کرنا) دیکھنے والوں کا کام ہے، ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دیکھ لینا چاہئے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے یا نہیں؟ باقی اس شخص کو اس طرح قاتل کرنا ان پر واجب نہیں کہ وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے اور (اپنے قول و فعل کی) کوئی تاویل ہی نہ کر سکے بلکہ ان پر صرف اتنا واجب ہے کہ خود ان کے پاس اس کے کفر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیل و برہان موجود ہو۔

کفر صریح میں کوئی تاویل مسموع نہیں ہوتی:

اس لئے کہ "طبرانی" کی روایت میں اس حدیث میں "کفرابواحا" کے بجائے "کفراصرحا" ("ص" مضموم اور "ر" مفتوح کے ساتھ) آیا ہے (جس کے معنی ہیں صریح کفر) جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانیؓ نے "فتح الباری" ج: ۱۳، ص: ۶ میں نقل کیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کفر صریح میں کوئی تاویل مسموع نہیں ہوتی۔

کون سی تاویل باطل اور غیر مسموع ہے؟

شah ولی اللہ صاحب مبنیۃ نے ① "ازالت الخنا" کے ص: ۷ پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جواز اور ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کے کافر ہو جانے کے بارے میں مزید وضاحت فرمائی

ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: ”تاویل کے قطعی طور پر باطل ہونے کا مدار اس پر ہے کہ وہ تاویل قرآن کریم کی صریح آیت، یا حدیث مشہور، یا اجماع یا قیاس جلی ( واضح قیاس) کے خلاف ہو (یعنی ہر وہ تاویل جو قرآن و حدیث مشہور، اجماع امت یا واضح قیاس کے مخالف ہو قطعاً نہیں مانی جائے گی؟)۔

## خبر واحد کی مخالفت کی بنابری بھی تکفیر جائز ہے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں ”عندکم من اللہ فیہ برهان“ کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”ای نص آیہ و خبر صحیح لا يتحمل التاویل“ (فتح الباری ج: ۱۳ ص: ۲ کتاب الفتن)  
 ترجمہ: ”یعنی صریح دلیل ہو خواہ (کلام اللہ کی) کوئی آیت ہو یا ایسی صحیح حدیث جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو۔“  
 اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد صحیح کی بنابری تکفیر جائز ہے، اگرچہ مشہور یا متواتر نہ ہو، اور ہونا بھی یہی چاہئے اس لئے کہ جب فقہاء کی شمار کردہ وجہ کی بنابر تکفیر کی جاتی ہے تو کیا ایسی صحیح حدیث کی بنابر جس میں کسی تاویل کی عنجانش نہ ہوان کو کافرنہ کہا جائے گا؟۔

صریح کفر کے مرتكب اہل قبلہ کو کافر کہا جائے گا اگرچہ وہ قبلہ سے منحرف نہ ہوں اور اسلام سے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں

اس حدیث سے یہ ثابت ہو یا کہ اہل قبلہ کافر کہا جا سکتا ہے (جب کہ وہ کفر صریح کے مرتكب ہوں) اگرچہ وہ قبلہ سے منحرف نہ بھی ہوں، یعنی یہ بھی ثابت ہو یا کہ بسا اوقات قصد اکفر اختیار کئے بغیر اور تبدیل نہ ہب کا ارادہ کئے بغیر بھی انسان کافر کہا جاتا ہے (یعنی اگرچہ انسان خود اومسلمان تمجحتا رہے تب بھی کفر یہ قول یا فعل کا ارتکاب نہ ہے وہ فتویٰ جاتا ہے) اگر ایسا نہ ہوتا تو مذکورہ بالا حدیث میں ”مشابہہ کرنے والوں سے پس دلیل و بہتانے“ جو بہتانے کی نہ درست نہ ہوئی“ (بلکہ ان لوگوں سے قصد و ارادہ پر مدار ہوتا) اور ایسے مستحق تہیئے اس جماعتیں سے (یعنی مسلمانوں میں سے ہی) ہوتے ہیں، اجیسا کہ جس بخاری کو آیت و سئی حدیث سے اسناد ظنا ہے کہ رتے ہیں

”عم دعاۃ علی ابوبکر حبیبم من احبابهم اليها قد فوه فيها هم من جلدنا“

(معجم بخاری ن ۲ ص ۱۰۶۹ باب ”تجہیز امر ادای تکن حماعة“)

تمہارے ”پس یہ بہتری ہی ملت میں سے ہیں، ہمدری ہی زبان بولتے ہیں (یعنی مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن و حدیث سے استدلال رہتے ہیں) اسی وجہ پر ہم اور انہوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو

جہنم کی طرف بلار بے ہیں، جو کوئی ان کی آواز پر بیک کہے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے (یعنی ان کے عقائد سراستہ گمراہی اور جہنم میں لے جانے والے ہیں جو ان کا اختیار کرے گا جہنم میں جائے گا)۔“

حافظ ابن حجر بیہقی سے ”من جلدتنا“ کی تفسیر ذیل کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

”معناه انہم فی الظاهر علی ملتنا و فی الباطن مخالفون.“

ترجمہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ظاہر میں تو ہمارے ہی دین پر ہیں (یعنی دیکھنے میں مسلمان ہیں) لیکن باطن میں وہ ہمارے مخالف ہیں (یعنی حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں)۔“

حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حافظ ابن حجر بیہقی ”خوارج“ کو اس حدیث کا مصدق قرار دیتے ہیں (اور مسلمانوں میں ایسے لوگوں کے پائے جانے کی صورت میں) فتح الباری: ج ۱۳ ص: ۷۷ میں ”دجال“ کے حالات کے تحت حسب ذیل، بیان فرماتے ہیں:

”وَامَا الَّذِي هُدِ عَيْهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلًا فِيدِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاحِ ثُمَّ يَدْعُى النَّبُوَةَ ثُمَّ يَدْعُى الْأَلْهَمَيْةَ۔“ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۷۷ باب ”دکر الدحال“)

ترجمہ: ”جو شخص یہ دعویٰ کرے گا وہ ابتداء میں ایمان اور صلاح و تقویٰ کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔“

اور ”ثلاثین دجالاً“ (تمیں دجالوں) والی حدیث اور بعض روایات میں ان کی تمیں سے زائد تعداد کی توجیہ کے ذیل میں ص: ۲۷ پر فرماتے ہیں:

”ہو سکتا ہے کہ نبوت (اور خدائی) کا دعویٰ کرنے والے تو تمیں ہی ہوں اور باقی صرف کذاب ہوں، لیکن گمراہی کی جانب لوگوں کو دعوت یہ بھی دیتے ہوں، جیسے غالی شیعہ، فرقہ باطنیہ، فرقہ اتحادیہ، فرقہ حلولیہ، اور ان کے علاوہ وہ تمام گمراہ فرقے جو ایسے عقائد کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کا رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہونا قطعی اور یقینی ہے۔“

دیکھئے! حافظ ابن حجر بیہقی نے ان تمام فرقوں کو ”دجال“ کی صفت میں داخل فرمائنا کہ صرف اس لئے کافر قرار دیا کہ یہ ضروریات دین کے منکر ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کے مخالف ہیں (بہر حال یہ تمام گمراہ اور کافر فرقے مسلمانوں میں سے ہی پیدا ہوئے اور ہوں گے اس کے باوجود وہ قطعی طور پر کافر ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبلہ اگر کفر یہ عقائد و اعمال یا موجبات کفر کو اختیار کریں تو خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تکفیر واجب ہے)

مصنف مدیہ الرحمۃ (یہ ثابت کردینے کے بعد کہ اگر اہل قبلہ کفر صریح کے مرتكب ہوں تو قبلہ سے منحر نہ ہونے کے باوجود وہ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تکفیر واجب ہے) افرماتے ہیں کہ اس کے

بعد ابن عابدین (علامہ شامی) کی "شرح منح المطلق علی الحج الراوی" ج: اس: ۱۷۳ باب الامامة میں ذیل کی تصریح میری نظر سے گزروی:

"وحرر العلامة نوح آفندی ان مراد الامام بما نقل عنه ما ذكره في  
الفقه الاكبر من عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب اهل  
السنن والجماعات، تأمل."

ترجمہ: .....علامہ نوح آفندی کی تحقیق یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؓ سے جواہل قبلہ کی تکفیر کی  
مانعت منقول ہے اس سے مراد وہی ہے جو "فقہ اکبر" میں مذکور ہے کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر  
نہ کی جائے جواہل سنت والجماعات کا مذہب ہے، اچھی طرح صحیح لو۔"

**امام ابوحنیفہؓ نے کسی گناہ کی بنابر اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا ہے**

پیر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: امام ابوحنیفہؓ سے ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا مسئلہ سب  
نے صرف "منتقی" کے حوالہ سے ہی نقل کیا ہے، جیسا کہ "شرح مقاصد" ص: ۲۶۹ اور "مساریہ"  
ص: ۲۱۳ طبع جدید مصر، میں تصریح کی ہے اور محقق ابن امیر حاج نے "شرح تحریر" ج: ۳ ص: ۳۱۸ پر  
منتقی" کی عبارت امام ابوحنیفہؓ سے حسب ذیل الفاظ میں نقل کی ہے۔

**"ولَا نَكْفُرُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ"**

ترجمہ: ..... "اور ہم تو کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافرنہیں کہتے۔"

دیکھئے! اس عبارت میں "ذنب" کی قید موجود ہے، در حقیقت امام ابوحنیفہؓ کا یہ  
قول (جیسا کہ علامہ نوح آفندی کی تحقیق ہے) صرف "معزلہ" اور "خوارج" کی تردید کے لئے ہے  
(کہ خوارج تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور معزلہ ایمان سے خارج  
اور مخلد فی النار کہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعات نہ اس کو کافر کہتے ہیں نہ خارج از اسلام اور مخلد فی  
النار، بلکہ اس کو مسلمان اور لا نقیض مغفرت مانتے ہیں) اس لئے کہ جملہ کا انداز بتلا رہا ہے کہ امام  
صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر تعریض کر رہے ہیں جو ایک مومن مسلمان کو بغیر کسی کفریہ قول یا فعل کے  
سرزاد ہوئے محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر اور خارج از اسلام قرار دے دیتے ہیں لیکن  
کلمات کفر کہنے پر بھی اگر کسی کو کافرنہ کہا جائے گا تو پھر ان کلمات کو "کلمات کفر" نہ کہنا چاہئے اور یہ محض  
فریب اور مغالطہ ہے۔

حضرت مصنف بیہدہ فرماتے ہیں: اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ بیہدہ کی "کتاب الایمان" طبع قدیم ۱۲۵۰ھ میں مندرجہ ذیل تصریح میری نظر سے گذری:

"ونحن اذا قلنا اهل السنة متفقون على انه لا يكفر بذنب فانما يريد به المعاصي كالزنا".

ترجمہ: "ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ کتنا ہو وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے تو اس گناہ سے ہماری مراد زنا و شراب خوری وغیرہ و معاصی ہوتے ہیں۔"

علامہ قوتوی بیہدہ نے "شرح عقیدہ طحاویہ" ص: ۲۳۹ میں پوری طرح اس کی دضاحت کی ہے۔

**ملدوں اور زندیقوں کا دجل و فریب:**

(غرض ائمہ کرام کے قول "لانکفر اهل القبلة" سے ملدوں اور زندیقوں نے از راہ دجل و فریب بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیشہ تکفیر سے بچنے کے لئے ائمہ کے اس قول کو بطور پر استعمال کیا ہے) اسی لئے بہت سے ائمہ تو یہ کہنے سے بھی احتراز کرتے ہیں:

**"لانکفر احدا بذنب"**

(ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافرنیں کہتے)

پلکہ وہ کہتے ہیں:

**"انا لانکفر هم بكل ذنب كما يفعله الخوارج"**

(شرح فقہ اکبر: ۲۰۰ طبع جہانی، دہلی)

ترجمہ: "ہم ہر گناہ کی وجہ سے ان کو اس طرح کافرنیں کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں۔"

چنانچہ "فقہ اکبر" ص: ۱۹۶ میں بحث ایمان کے تحت علامہ قوتوی بیہدہ سے (اسی مشہور و معروف مقولہ "لانکفر احدا بذنب" کے تحت صرف "فساد عقیدہ" کی صورت میں) تکفیر کو نقل کیا ہے۔

"وفي قوله بذنب اشارة الى تکفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المحسنة والمشينة ونحوهم لأن ذلك لا يسمى ذنب والكلام في الذنب -"

ترجمہ: "... "بذنب" کے لفظ میں اس امر کی جانب اشارہ موجود ہے کہ فساد عقیدہ کی بناء پر ضرور کافر کہا جائے گا جیسا کہ مشہد اور مجسم وغیرہ کے فاسد عقیدے کی ان کو ان کے فاسد عقائد کی بناء پر کافر کہا جاتا ہے (نہ کہ کسی گناہ کی بناء پر اور ظاہر ہے کہ فساد عقیدہ کو گناہ نہیں کہا جا سکتا) اور ہماری بحث گناہ (یعنی معصیت) سے ہے۔"

یہی فرق امام طحاوی بیہدہ کے کلام سے المعتصر باب الفیر میں ص: ۳۲۹ پر منقول ہے اور امام

غزوی بھائی نے 'اقتصاد' کے آخر میں بھی یہی فرق بیان فرمایا ہے۔

(حاصل یہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافرنہ کہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کفر یہ عقائد و اعمال کی وجہ سے بھی اس کو کافرنہ کہا جائے بلکہ "بدنہ" کی قید سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تکفیر سے ممانعت کا حکم صرف "گناہ تک" محدود ہے اور صرف مسلمان کے لئے ہے اور کفر یہ عقائد و اعمال اختیار کر لینے کے بعد تو وہ مسلمان اور اہل قبلہ میں سے ہی نہیں رہتا)۔

خلاصہ حاصل کلام۔ مصنف نور الدین مرشد اس باب میں حملاء امت کی مذکورہ بالاعبارات و تصریحات سے مندرجہ ذیل امور کو ثابت فرماتا چاہتے ہیں

۱۔ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ضروریاتِ دین یعنی وہ مجمع علیہ عقائد و احکام جن کا دین رسول اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہونا قطعی اور یقینی ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور مکر قطعاً کافر ہے اگرچہ وہ قبلہ سے محرف نہ بھی ہو اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہو۔

۲۔ کفر صریح یعنی کفر یہ عقائد و اقوال و اعمال کا ارتکاب قطعاً کفر اور ان کا مرتكب۔ یعنی کافر ہے اگرچہ وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور صوم و صلوٰۃ و غیرہ عبادات و احکام شرعیہ کا پابند ہو۔

۳۔ مُنكَرِینَ کی اصطلاح میں "اہل قبلہ" سے مراد وہ موسویں کامل ہے جو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے پورے دین پر ایمان رکھتا ہو، کفر یہ عقائد و اعمال کا ارتکاب کرنے والے یا ضروریاتِ دین کا انکار کرنے والے انسان کو "اہل قبلہ" میں سے ماننا یا کہنا یا تو ناواقفیت پر میں ہے یا فریب اور دھوکہ ہے۔

۴۔ "اہل قبلہ" کی اصطلاح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جس روایت سے مانخوا ہے اس کا تعلق امیر یا حاکم سے ہے، نہ کہ عام مسلمانوں سے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر یا حاکم جب تک "شعاڑوں" کا احترام کرتا رہے اس کی اطاعت واجب اور اس کے خلاف بغاوت منوع ہے لیکن اگر وہ بھی "کفر صریح" کا ارتکاب کرے تو اسلام سے خارج اور اس کے خلاف بغاوت جائز ہے۔

۵۔ "لا نکفر اہل القبلة" یا "اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں" یہ ائمہ اہل سنت میں سے ہرگز کسی کا قول نہیں بلکہ جاہلوں، زندیقوں اور ملحدوں کا گھر اہوا مقولہ ہے۔

۶۔ ائمہ کا مقول "لا نکفو احدا بدلب" ہے اور "ذنب" سے مراد گناہ اور معصیت ہے اس لئے کہ ائمہ سے یہ مقولہ "خوارج" اور "معتزہ" کی تردید کے ذیل میں مقول ہے جو کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہر موسوی مسلمان کو کافر اور ایمان اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اس مقول کو کسی کفر صریح کا ارتکاب کرنے والے یا ضروریاتِ دین کا انکار کرنے والے مسلمان کے حق میں استعمال کرنا کھلا ہوا فریب اور دھوکہ ہے، یا خالص ناواقفیت اور لا علمی۔

۷۔ ضروریاتِ دین کے انکار میں کوئی تاویل مسموع اور معتبر نہیں اس لئے کہ جو تاویل قرآن، حدیث اہم امت یا قیاس جلی کے خلاف ہو وہ قطعاً باطل ہے۔

نوٹ: اس تحقیق کے مطابق جو لوگ "تجارتی سوڈ" کو علاں اور "سودی کاروبار" کو جائز کہ رہے ہیں وہ ضروریاتِ دین کے مکر اور کافر ہیں، اعادہ اللہ "اس لئے کہ" "احلَّ اللَّهُ الْيَعْ وَحْرَمَ الرَّبُوَا" قرآن کی نص صریح ہے اور رسول اللہ ﷺ کے عبده سے لے کر آج تک امت کا اسی پر اتفاق ہے کہ "رب" "محلقاً بعین" یہ ہو کسی بھی صورت میں "وَحْرَمَ" ہے، نہ صرف یہ بلکہ مذاہب ار بعده کے فقہاء، ہر اس معاملہ اور کاروبار کو فاسد اور ناجائز قرار دیتے ہیں جس میں "ربو" (سوڈ) کا شانہ بھی ہو۔ فاغتربوا یا اولی الابصار!۔ از مترجم۔

## حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”فتح الباری شرح بخاری“ کے اقتباسات<sup>۱</sup>

جو سہل انکار اور تسامح پسند علماء کے شکوک و شبہات کے ازالہ اور  
ملحدوں کے دندان شکن جوابات پر مشتمل ہیں:

کسی بھی فرض شرعی کا انکار، اتمام جحت کے بعد منکر کے کفر اور اس سے بازنہ آنے پر  
قال کا موجب ہے: ..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”فتح الباری“، ج: ۱۲، ص: ۲۲۸ میں حدیث ”رَدَّتْ“<sup>۲</sup>  
کی مفصل شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

۱۔ چونکہ اس زمان میں آئے دون مسلمانوں میں تو نولی اور زندیق افراد اور فرقے پیدا ہو رہے ہیں اور اسلام کے نام پر کفر پھیلانے اور  
امت کو گراہ کرنے پر تکمیل ہوئے ہیں، اس لئے علماء امت کے لئے ”ملدین اہل قبلہ کی عکفی“ کا مسئلہ خایت درجہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، لہذا  
حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ نے اس مسئلہ میں ملا، امت کے ہر طبقہ کے علماء اعلام کی تحقیقات کو پورے استیعاب کے ساتھ جمع کرنے کا  
عزم فرمایا ہے اور پیونک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ جامع العلوم والفنون ہونے کے باوجود طبقہ محدثین میں اپنے عبد کے اندر آئی من آیات اللہ  
کے مقام پر فائز اور حجۃ اللہ علیٰ اخلاق کی جیشیت کے مالک ہیں اس لئے اول محدثین کے طبقہ میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی  
تحقیقات کو سرفہرست رکھتے ہیں اس لئے کہ حافظ موصوف متاخرین میں مسلم طور پر علوم حدیث کے کیتائے زمانہ امام اور حافظ حدیث ہیں  
لہذا اس مسلم میں ”فتح الباری“ (ج: ۱۲) کے ذکر کردہ اقتباسات پیش فرماتے ہیں۔ امتحن

۲۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ”باب“ من ابی قول الغرائض وما نسبوا من الودة۔“ کے ذیل میں حضرت ابو بیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتے ہیں:  
”لماتوفي النبي صلی اللہ علیہ وساتحہ واستحلف ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ كفر من العرب قال عمر رحمۃ اللہ علیہ ابا بکر اكيف لقاتل الناس وقد قال  
النبي صلی اللہ علیہ وساتحہ امرت ان اقتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم من ماله ونفسه الا بحقه،  
وحسابه على الله قال ابو بکر والله الا لا قاتلن من فرق بين الصلة والزكوة، فإن الزكوة حق المال والله لو منعوني  
عاقا كانوا يغدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وساتحہ الماتلهم على معينا قال عمر: قوله بما هو الا ان رأيت ان قد شوح الله  
صدر ابی بکر للقتل فعرفت انه الحق.“ (بخاری ج: ۲، ص: ۱۰۲۳)

ترجمہ: — جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وساتحہ وفات پا گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور عرب کے جو قاتل کافر ہونے تھے ہو گئے (اور  
حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا) تو حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کہا اے ابو بکر! تم ان لوگوں سے جنگ کیوں کر سکتے  
ہو؟ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وساتحہ فرمایا ہے کہ ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا اله الا الله کا اقرار کر لیں پس  
جس شخص نے لا اله الا الله کا اقرار کر لیا، اس نے اپنی جان و مال و بخشے پچالی بیجیں رحمۃ اللہ علیہ کے (کہ اگر وہ حق اللہ کو اوانہ کرے تو بے شک اس  
کو قتل کروں گا) اور اس کا حساب (کہ اس کے دل میں کیا ہے) اللہ تعالیٰ کے پر دہے (وہ جانے)۔ تو اس پر ابو بکر نے کہا، بخدا میں ہر اس  
محض سے جنگ کروں گا جو قاتل اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا (ایک کو مانتے اور ایک کو نہیں) اس لئے کہ زکوٰۃ ”مال“ کا حق ہے (جیسے نماز  
”جان“ کا حق ہے) خدا کی قسم! اگر وہ ایک بکری کا پیچ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وساتحہ کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں اس کے منع کرنے  
پر ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پس بخدا میں نے دیکھ لیا اگر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کو  
شرح صدر (او، الظیمان قلب) عطا فرمادیا ہے تو میں نے بھی سمجھ لیا کہ یعنی حق ہے (مجھے بھی ان کی اطاعت کرنی چاہئے)۔

"مرتدین پر غلبہ حاصل ہونے کے بعد سبیلہ کرامہ شیخ مسیح میں اختلاف ہوا کہ آئی کافروں کی طرح ان مرتدین کے اموال کو نیمت اور ان کے بیوی بچوں کو نیام بنایا جائے یا نہیں؟ یا ان کے ساتھ مسلمان باغیوں کا سامعاملہ کیا جائے؟" حضرت ابو بکر صدیق (رض) پہلی رائے کے حامل تھے اور انہوں نے (اپنے عہد خلافت میں) اسی پر عمل کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب وسری "رأى" کے حامل تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق (رض) سے اس پر مناظرہ کیا جس کی تفصیل کتاب "الاحکام" میں آئے ان اور ان کے عہد خلافت میں اور سبیلہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے (بہر حال اس وقت تو تمام سبیلہ کرامہ شیخ مسیح متفق ہو گئے، ہر وہ شخص (یا قوم) جو کسی بھی فرض شرعی کا کسی شہر کی بنی اپر انکار کرے اس سے اس انکار سے باز آئے کا مطالبہ کیا جائے، اس پر اگر وہ لڑنے کے لئے تیار ہو جائے تو اعتمام جحت کے بعد اس سے جنگ کی جائے اگر وہ (جتھیارڈالنے کے بعد) انکار سے باز آجائے تو فہما ورنہ اس صورت میں اس کے ساتھ کافروں کا سامعاملہ کیا جائے، (یعنی خود اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے اموال کو مال نیمت اور اس کے بیوی بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے) اور کہا جاتا ہے کہ مالکیہ میں سے ابھی پہلے ہی قول (رأى) کے قائل ہیں، اسی لئے ان کو نادر (منفرد) مخالف شمار کیا گیا ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "عوْمَلْ مُعَالَمَةُ الْكَافِرِ" سے مراد قتل بر بنا کفر ہے، اس لئے کہ حافظ حجر بن سیدہ اس سے پہلے اسی صفحہ پر فرمائے چکے ہیں:

"وَالَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِاَصْلِ الْاسْلَامِ وَمَنْعَوْا الزَّكُوْةَ بِالشَّهِيْهَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ هَالِمَ

يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بِالْكُفَّرِ قَبْلَ اِقْاْمَةِ الْحِجَّةِ." (فتح الباری ج: ۱۲، آیہ: ۲۷۸)

ترجمہ: "جو لوگ اصل اسلام پر قائم رہے لیکن مذکورہ بالشہیہ کی بنی اپر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے رہے، ان پر اعتمام جحت سے پہلے ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا (یعنی اعتمام جحت کے بعد کافر قرار دے دیا گیا)۔" اسی طرح آگے چل کو حافظ نے امام قرطبی (رض) سے "اس شخص کے بارے میں جو کسی بدعت (غمراہی) کو دل میں پوشیدہ رکھتا ہو، یہی (فیصلہ) نقل کیا ہے (کہ اعتمام جحت کے بعد کافر قرار دے دیا جائے گا)"

**ضروریاتِ دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی:** نیز مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ "شہیہ" سے حافظ علیہ الرحمۃ کی مراد "تاویل" ہے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ متوال سے بھی توبہ

❶ حافظ علیہ الرحمۃ ج: ۱۲، آیہ: ۲۷۵ پر ان لوگوں کا شہر اور تاویل حسب ذیل بیان کرتے ہیں:  
وَصَنَفَ مَنْعَوْا الزَّكُوْةَ وَنَأَوْلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: خَدْمُنَ اَمْوَالِهِمْ ..... الْآيَة، وَزَعَمُوا ان دفع الزَّكُوْةَ خاص بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا ان غَيْرَهُ لَا يَطْهُرُهُمْ وَلَا يَصْلِي عَلَيْهِمْ۔ (فتح الباری ج: ۱۲، آیہ: ۲۷۷)

ترجمہ: مرتدین کی ایک تسمیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے قول خدمت اموالہم ..... الْآیَة، سے استدلال کیا تھا کہ زکوٰۃ دینا صرف رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے کہ آپ کے ملاودہ اور کوئی نہ پاک کر سکتا ہے اور انہوں نے (سکون آفرین) دعا دے سکتا ہے (پھر کسی اور کو زکوٰۃ کیوں دیں جائے؟)۔"

کے لئے کہا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو فیما ورنہ اسے کافر قرار دے، ادا نے ۵، یہی تاویل کا انتہائی فائدہ ہے (کہ توبہ کا موقع دیا جاتا ہے) لیکن تاویل کی بنابر حکم کفر سے فی جا ہے۔ یہ مذکور نہیں (الہذا حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام قرقطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مذکور جو عنہ کرنے کی صورت میں کافر قرار دے دیا جائے گا اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو، نیز یہ کہ تاویل حکم کفر سے نہیں بچاتی)۔

خوارج اہل قبیلہ ہونے کے باوجود کافر ہیں: حافظ ابن حجر عسقلانی (اص: ۲۶۹ و ۲۷۰) پر فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی (مدحورہ بخاری) روایت ۱۰ (کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے) ان لوگوں کی دلیل ہے جو "خوارج" کو کافر کہتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عملہ کا تقاضا بھی یہی ہے اس لئے کہ ابھوں نے ترجمۃ الباب میں خوارج کو ملحدین کے ساتھ رکھا ہے (اور فرمایا ہے: "بَابُ قَتْلِ الْخُوَارِجِ وَالْمُلْهِدِينَ ... إِلَّا") اور "متاؤلین" کے لئے علیحدہ باب قائم کیا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوارج اور ملحدین کا حکم ایک ہے، دونوں کافر اور مستحق قتل ہیں)۔

خوارج کے کفر کے دلائل: ..... حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح ترمذی میں اس کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں: "صحیح یہ ہے کہ خوارج کافر ہیں اس لئے کہ:  
۱: حضور ﷺ نے فرمایا: "وہ دین سے نکل گئے"۔

۲: نیز حضور ﷺ نے فرمایا: میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل (اور نیست و نابود) کروں گا۔ بعض روایات میں "عاد" کے بجائے "ثمود" کا لفظ آیا ہے اور یہ دو تو قومیں کفر کی بنابر ہلاک ہوئی ہیں۔

۳: نیز حضور ﷺ نے فرمایا: "هم شر الخلق" اور یہ عنوان صرف کفار کے لئے استعمال

❶ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بباب "قتل الخوارج" کے ذیل میں دوسری حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ علیہ کی لائے ہیں جس کے الفاظ ذیل ہیں: "قال... سمعت النبي ﷺ يقول يخرج في هذه الامة ولم يقل منها قوم تحقرن صلوتون مع صلوتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حلوقهم او حاجزهم، يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية فينظر الرامي الى سهمه الى نصله الى رصاف، فيصارف في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟" (بخاری ج: ۲، نس: ۱۰۲۳)

ترجمہ: ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یقین تھا کہ اس امت میں "آپ نے" اس امت سے "نہیں فرمایا" (یعنی مسلمان نہ ہوں گے) ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نہادوں کو ان کی نہادوں سے بختابدھیں لے جائیں گے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے یا (فرمایا) بسیار سے بچپن اتر جاؤ گا (یعنی بال ملمقراً آپ سے باکش کرے ہوں گے) وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے (سچانہزاد کا) تم ذہر کے جسم سے صاف نکل جاتا ہے اس تینہ ادا اپنے تینہ مخفی تینے آپ سے بچپن کو بخیاں کے سامنے پر شک کرتا ہے کہ انہیں کچھ دن و نیز دن اسی سنبھالیں۔"

کیا جاتا ہے۔

۳: نیز حضور ﷺ نے فرمایا (خوارج) اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ مبغوض ہیں۔

۵: نیز یہ خوارج ہر اس شخص و جوان کے عقائد کا مخالف ہو ”کافر“ اور ”مخلد فی النار“ (بمیشہ کے لئے جہنمی) کہتے ہیں اس لئے یہ خود ہی اس نام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں (یعنی کافر اور مخلد فی النار ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے)۔

شیخ سکلی جو شیخ کا استدلال اور منافقین کے شبہات کا جواب: حافظ بیہقی: ص: ۲۶۷ پر فرماتے ہیں متاخرین میں سے جو حضرات خارجیوں کو کافر کہتے ہیں شیخ تفتی الدین سکلی ہمینہ بھی ان میں شامل ہیں، چنانچہ وہ اپنے ”فتاویٰ“ میں فرماتے ہیں:

”جو لوگ خارجیوں اور غالی رافقیوں (تربرائی شیعوں) کو کافر کہتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اعلام صحابہ بن نبی (چوتی کے صحابہ بن نبی) کو کافر کہتے ہیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے۔ (علامہ) سکلی ہمینہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک ان کی تکفیر کے لئے یہ استدلال بالکل صحیح ہے، باقی جو لوگ ان کو کافرنہیں کہتے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تکذیب اس وقت لازم آسکتی ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان صحابہ کبار کی تکفیر سے پہلے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کا یقینی طور پر علم تھا (اور اس کے باوجود انہوں نے ان صحابہ کرام بن نبی کو کافر کہا ہے) مگر (سکلی ہمینہ کہتے ہیں) میرے نزدیک یہ دلیل محل نظر ہے اس لئے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام بن نبی کو کافر کہا ہے جن کے مرتے و مرمتک کفر و شرک سے بری ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے (اور ایسے قطعی اور یقینی امور میں عدم علم غدر نہیں ہوتا) اور یہ علم و یقین انہوں نے کسی شخص کی تکفیر پر اعتقاد رکھنے کے لئے جو ان کبار صحابہ کو کافر کہے کافی ہے، فرماتے ہیں اس استدلال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا (یعنی اگر وہ کافرنہیں ہے تو کہنے والا ضرور کافر ہو گیا)۔“

صحیح مسلم میں ص: ۵ پر اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”من دعا رجلاً بالكفر أو قال: ”عدوا الله“ وليس كذلك الا حارث عليه.“  
(مسلم: ص: ۵)

ترجمہ: ”جس شخص نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کا اتهام لگایا“ ”الله کا دشمن“ کہا وہ خود کافر ہو گیا۔“ اس کے بعد سکلی ہمینہ فرماتے ہیں:

”یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ (خارجی اور غالی شیعہ) اس جماعت پر کفر کا اتباہ مگا تے ہیں جن کے مومن ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے، لہذا واجب ہے کہ شارع ﷺ کے فرمان کے مطابق ان کو کافر کہا جائے اور یہ (کبار صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے خارجیوں اور رافضیوں کو کافر کہنا) ایسا ہی ہے جیسے علماء (متفقہ طور پر) کسی شخص کو بت یا کسی اور چیز کو سجدہ کرتے دیکھ کر اس کو کافر کہتے ہیں اگرچہ وہ صراحةً اسلام سے انکار نہ بھی کرے، حالانکہ تمام علماء کفر کی تفسیر ”جحود“ (انکار) سے کرتے ہیں (گویا جحود و طریق پر ہے ایک قولی اور ایک فعلی، ساجدہ صنم کا فعل و عمل زبانی انکار کے مراد فوائد اور ”جحود فعلی“ ہے، اسی طرح ان خارجیوں اور غالی شیعوں کا یہ عمل، تکفیر صحابہ و مومنین، بھی جحود فعلی ہے، لہذا ان کو بھی کافر کہنا چاہئے) بلکی ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر یہ حضرات غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے کافر کہنے کا باعث ”اجماع“ کو قرار دیں (کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر ہے) تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ساجد صنم کو زبان سے انکار کئے بغیر اجماع امت کی بنا پر کافر کہا جاتا ہے ایسے ہی ان احادیث صحیح ”متواترہ“ کی بنا پر جوان خوارج کے بارے میں آئی ہیں ان کو کافر کہنا چاہئے اگرچہ یہ لوگ ان صحابہ کرام ﷺ کے کفر سے بری ہونے کا عقیدہ نہ بھی رکھتے ہوں جن کی تکفیر کرتے ہیں، (اجماع اور خبر متواتر دونوں یکساں طور پر قطعی جست ہیں) اسلام پر اجمانی اعتقاد اور فرائض شرعیہ پر عمل ایسے ہی ان کو کفر سے نہیں بچا سکتا جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے کا اسلام پر اجمانی اعتقاد اور فرائض شرعیہ پر عمل اس کو کفر سے نہیں بچا سکتا۔ (حاصل یہ ہے کہ کفریہ اقوال و افعال کا ارتکاب مطلقاً موجب کفر ہے اگرچہ وہ شخص خود کو مسلمان کہتا ہو اور فرائض شرعیہ پر عمل بھی کرتا ہو)۔“

اہل قبلہ قصد و ارادہ کے بغیر بھی کفریہ عقائد و اعمال کی بنا پر اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں: ..... حافظ بن عبد اللہ اسی صفحہ پر فرماتے ہیں کہ امام طبری رض کا رجحان بھی ”تهذیب الآثار“ میں کچھ اسی طرف ہے، چنانچہ احادیث باب تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”یہ احادیث ان لوگوں کے قول کی تردید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد اہل قبلہ میں سے کوئی فرد یا گروہ اس وقت تک اسلام سے خارج (اور کافر) نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جان بوجھ کر اسلام سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے، یہ قول بالکل باطل ہے اس لئے کہ حضور ﷺ اسی حدیث میں فرماتے ہیں:

”يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام لا يتعلّقون منه بشيء.“

ترجمہ: ”وہ حقیقت بات نہ بان سے کہتے ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے اس کے باوجود وہ اسلام سے نکل جائیں گے اور ان کو اسلام سے کوئی ملا قہ باقی نہ رہے گا۔“

قرآن کی مراد کے خلاف باطل تاویلیں اور حرام و حلال قرار دینے والے کافر ہیں:- اس کے بعد طبری فرماتے ہیں: ”اور یہ حکمی ہوئی بات ہے کہ یہ خوارج مسلمانوں کے جان و مال کو حلال بھٹھنے کے مرتكب صرف ان باطل تاویلات کی بنا پر ہوئے ہیں، جو انہوں نے قرآن کی آیات میں اس کی اصل مراد کے بر عکس کر رکھی تھیں، (لہذا وہ مسلمانوں کو کافر کہنے اور ان کے جان و مال کو حلال قرار دینے کے مرتكب ہو چکے ہیں اس لئے وہ خود کافر ہو گئے اگرچہ اسلام سے نکلنے کا قصد نہ بھی کیا ہو)۔“

اس کے بعد طبری فرماتے ہیں اپنے بیان کی تائید میں حضرت ابن عباس رض کی مذکورہ ذیل روایت بسند صحیح نقل کی ہے:

”وَذِكْرُ عِنْدِ الْخَوَاجَ وَمَا يَقُولُونَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ الْقُرْآنَ فَقَالَ يَؤْمِنُونَ بِمَحْكَمَهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ.“

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رض کے سامنے خوارج کا اور قراءت قرآن کے وقت جو وہ تاویلیں کرتے ہیں ان کا ذکر آیا تو اس پر فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی محکام ( واضح ) آیات پر تو ایمان لاتے ہیں اور قشایر (غیر واضح ) آیات ( کی باطل تاویلات ) میں لاک ہوتے ہیں۔“

طبری فرماتے ہیں کہ جو لوگ خوارج کو کافر کہتے ہیں ان کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ان کے قتل کر دینے کا حکم آیا ہے:

”فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قُتِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

(فتح الباری ج: ۱۲ ص: ۲۸۸)

ترجمہ: ”پس یہ تمہیں جہاں ملیں ان کو قتل کر دو، بے شک جو شخص ان کو قتل کرے گا، قیامت کے دن ان کے قتل کرنے کا اجر پائے گا۔“

باوجود یہ کہ عبد اللہ بن مسعود رض کی روایت میں تصریح آچکی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا تمیں وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے بغیر جائز نہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت اسلامیں سے الگ ہو جائے (معلوم ہوا کہ خارجیوں کے قتل کر دینے کا حکم اسی وجہ کے ذیل میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے الگ ہو گئے) چنانچہ امام قرطبی رض ”المفہوم“ میں فرماتے ہیں:

”خارجیوں کے کافر ہونے کی تائید حدیث ابوسعید خدریؓ کی تمثیل سے بھی ہوتی ہے (جس کے مختلف طرق ص: ۲۵۳ اور ۲۶۱ پر مذکور ہیں اور سابقہ حاشیہ میں ہم اس حدیث کو نقل کرچکے ہیں) اس لئے کہ اس تمثیل کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلام سے اس طرح صاف نکل جائیں گے اور ان کا اسلام سے ایسے ہی کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا جیسے تیر انداز کا تیر اپنی تیز رفتاری اور تیر انداز کی قوت کی وجہ سے شکار کے جسم سے صاف نکل جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر تیر پر باقی نہیں رہتا، چنانچہ حضور ﷺ نے اسی ”علاقہ“ کے متعلقاً باقی نہ رہنے کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے (دیکھو حدیث ابوسعید باب ”من ترك قتال الخوارج“ کے ذیل میں)

### ”سبق الفرث والدم“

ترجمہ: ”وہ تیر شکار کے خون اور لید سے بھی صاف نکل گیا، (یعنی خون وغیرہ تک کا اس پر کوئی اثر نہیں، اسی طرح خوارج اسلام سے نکل جائیں گے کہ اسلام کا نام و نشان تک بھی ان میں نہ رہے گا)۔“

امت کو گراہ یا صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں:.....  
چنانچہ قاضی عیاض بنیانیؓ اسی حدیث کے ذیل میں ”شفاء“ کے اندر فرماتے ہیں:  
”اسی طرح ہم ہر اس شخص کے کافر اور اسلام سے خارج و بے تعاقب ہونے کا قطعی یقین رکھتے ہیں جو کوئی ایسی بات کہے جس سے امت کی تعلیل یا صحابہ ﷺ کی تکفیر ہوتی ہو۔“  
مصنف ”الرودۃ“ نے کتاب ”الرودۃ“ میں قاضی عیاض بنیانیؓ کے اس قول کو نقل کیا ہے اور اس کی تائید بھی کی ہے۔

### خوارج کے متعلق علمائے کلام کی احتیاط کوئی:..... حافظ بنیانیؓ فرماتے ہیں:

”اہل سنت میں سے علمائے کلام (متکلمین) عام طور پر خارجیوں کو ”فاسق“ کہتے ہیں (کافرنہیں کہتے) اور یہ کہ کلمہ شہادت پڑھ لینے اور ارکانِ اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے (وہ مسلمان ہیں اور) ان پر اسلام کے احکام جاری ہیں۔ فاسق بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک باطل تاویل کی بنابر اپنے سواتمام مسلمانوں کو کفر قرار دے دیا اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہی اپنے مخالفین کے جان و مال کو حلال اور مباح سمجھ لینے اور ان پر کفر و شرک کی شہادت دے دینے کا موجب ہوا ہے۔“  
خطابیؓ فرماتے ہیں:

”علمائے اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ خارجی اپنی مشہور و معروف گمراہی کے باوجود مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور ان سے شادی بیاہ کرنے اور ان کا ذیجہ کھانے کو وہ جائز کہتے ہیں اور

یہ کہ جب تک وہ اصل اسلام (یعنی توحید و رسالت، حیات بعد الموت کے عقیدہ) پر قائم ہیں اس وقت تک کافرنہ کہا جائے گا۔“

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ (تکفیر خوارج کا) مسئلہ متكلمین کے لئے سب سے زیادہ اشکال کا موجب بن گیا ہے، چنانچہ فقیہ عبدالحق نے جب امام ابوالمعالی سے اس مسئلہ کو دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دینے سے معدور ت ظاہر کی کہ: کسی کافر کو اسلام میں داخل کر دینا (اور مسلمان کہہ دینا) اور کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کر دینا (اور کافر کہہ دینا) دینی اعتبار سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔“

نیز قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابوالمعالی سے پہلے قاضی ابو بکر بالقلانی نے بھی اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ: ان خوارج نے صراحت تو کفر کا ارتکاب نہیں کیا، ہاں! ایسے عقائد ضرور اختیار کئے ہیں جو کفر تک پہنچادینے والے ہیں۔“

”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ“ **”فیصل التفرقة بین الایمان والزندقة“** میں فرماتے ہیں:

”جهاں تک ہو سکے کسی کو کافر کہنے سے احتراز کرنا چاہئے، اس لئے کہ توحید کا اقرار کرنے والے نمازوں کی جان و مال کو مباح (اور ان کو کافر) قرار دے دینا بہت بڑی غلطی ہے اور ہزار ہا کافروں کو (مسلمان کہہ دینے اور ان کو) زندہ سلامت چھوڑ دینے میں غلطی کرنا، ایک مسلمان کو (کافر کہہ دینے اور اس کا) خون بھانے میں غلطی کرنے کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔“

**مخالفین کے دلائل:.....حافظہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:**

”خوارج کی تکفیر نہ کرنے والے علماء ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تیسری (اور بخاری میں دوسری) حدیث <sup>❶</sup> میں رسول اللہ ﷺ نے ان کے دین سے نکل جانے کو تیر کے شکار سے نکل جانے کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا:

”فِيَتْمَارِي فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلَقَ بِهَا شَيْءٌ؟“

ترجمہ:..... ”پس تیر انداز تیر کے سرے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ لگا بھی ہے؟ (یا نہیں، یعنی یہ تیر جسم سے نکلا بھی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ان لوگوں کے متعلق شک ہو گا کہ یہ دین سے نکلے بھی ہیں یا نہیں؟)۔“

<sup>❶</sup> یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ اس سے قبل حاشیہ میں نقل کی جا چکی ہے۔

چنانچہ ابن ابطال نے فرماتے ہیں:

”جمهور علماء کی رائے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قول: ”فِتْمَارِيٌ فِي الْفُوْقَةِ۔“ سے ثابت ہوتا ہے کہ خارجی مسلمانوں کی جماعت سے خارج اور (کافر) نہیں ہیں، اس لئے کہ ”فِتْمَارِيٌ“ شک کی دلیل ہے اور جب ان کا کفر مشکوک ہوا تو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا حکم قطعی طور پر کیسے لگایا جاسکتا ہے؟ اس لئے کہ جو شخص قطعی اور یقینی طور پر اسلام میں داخل ہو چکا وہ قطع و یقین کے بغیر اسلام سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔“

حضرت علیؑ کی روایت: ...ابن بطال نے فرماتے ہیں: حضرت علیؑ سے ”اہل نہروان“ (خوارج) کے کفر کے متعلق سوال کیا گیا (کہ کیا وہ کافر ہیں یا نہیں؟) فرمایا: ”مِنَ الْكُفُّرِ فُرُوا“ (کفر سے توبہ بھاگے ہیں) (یعنی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کفر سے بچنے کے لئے ہی مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی ہے تو جو شخص کفر سے اس قدر بچتا ہو وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟)

محمد شیعین کی جانب سے جواب: ...حافظ نے فرماتے ہیں:

”اگر حضرت علیؑ کا یہ قول (اشر) از روئے سند صحیح ثابت ہو تو اس کو حضرت علیؑ کے خارجیوں کے ان کفری عقائد سے واقف نہ ہونے کے زمانے پر محمول کیا جائے گا جن کی بنابر تکفیر کرنے والوں نے ان کو کافر کہا ہے (یعنی حضرت علیؑ نے یہ اس وقت فرمایا ہوگا جبکہ ان کو ”نہروانیوں“ کے کفری عقائد کا علم نہ تھا، ورنہ وہ تو خود بخاری میں رسول اللہ ﷺ سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس میں ”فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَاتَلَهُمْ“ ① کی اصرائی موجود ہے اور اسی بنابر انہوں نے خوارج سے خونزیز لڑائیاں لڑی ہیں اور ان کو بے دریغ قتل کیا ہے)۔“

نیز حافظ نے فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے قول: ”فِتْمَارِيٌ فِي الْفُوْقَةِ“ سے ان کے کفر کے مشکوک ہونے پر استدلال بھی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ جیسے بعض طرق حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایسے ہی بعض طرق میں جیسا کہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے اور آئندہ بھی آئے گا: ”لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بَشِّيءٌ۔“ (شکار کا خون وغیرہ مطلق لگا ہو انہیں) اور بعض طرق میں: ”سَبْقُ الْفَرْثِ وَ الدَّمِ“ (تیر شکار کے خون اور لید سے بھی صاف نکل گیا) بھی آیا ہے (جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ تیر پر مطلق کچھ لگا ہوا ہے ہوتا ہے) بیان فرمانا چاہتے ہیں نہ کہ شکار کے جسم سے نکلنے یا نکلنے میں میں شک، ظاہر کرتا) لہذا ان میتوں

① یہ الفاظ باب قتل الخوارج۔ اُن کی پہلی حدیث میں موجود یہ جو خوارج سے مردی ہے۔

طریقوں کے (مذکورہ بالا) الفاظ کو بقع کرنے کی صورت یہی ہے کہ تیر انداز اول و بلہ میں تیر کو بالکل صاف دیکھ کر "فوق"، گوشہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ شکار کے بدن سے گزر اور انکا بھی ہے یا نہیں؟ اس سے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ (تیر شکار کے جسم سے گزر اور انکا تو ضرور ہے لیکن) اتنی تیزی سے گزر اب کہ اس کے سرے پر شکار کے خون، لید و غیرہ کا نامہ و شان تک نہیں بالکل صاف نکل گیا۔“ فرماتے ہیں: ”یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث کا اختلاف ان لوگوں کے اختلاف حال پر ہی ہو کہ بعض لوگ تو قطعی طور پر اسلام سے نکل گئے ہوں کے اور بعض کے متعلق شک ہو گا کہ اسلام سے ان کا کوئی علاقہ ہے یا نہیں؟ اور ”فیتماری“ کے الفاظ پچھلے گروہ سے متعلق ہوں۔“ اور لم یعلق اور سبق الفرث والام پہلے گروہ سے متعلق ہوں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ”المفہوم“ میں فرماتے ہیں، ازروئے حدیث خوارج کا کفر (بمقابلہ عدم کفر کے) زیادہ واضح ہے۔

**خوارج کو کافر کہنے اور نہ کہنے کا فرق:** اس کے بعد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خوارج کو کافر کہنے کی صورت میں ان سے جنگ کی جائے گی اور قتل کیا جائے گا اور ان کے بیوی بیویوں کو تبدیل بنایا جائے گا، چنانچہ محدثین کے ایک گروہ کا مسلک اموال خوارج کے بارے میں یہی ہے اور کافر نہ کہنے کی صورت میں باغی مسلمانوں کا سامعاماً ان کے ساتھ کیا جائے گا جو اسلامی حکومت سے بغاوت کر کے لڑنے کے لئے مقابلہ پر آ جائیں (یعنی جو لڑتے ہوئے مارے جائیں گے وہ مارے جائیں گے اور جو نجی جائیں گے ان کو بغاوت کی سزا دی جائے گی یا معاف کر دیا جائے گا، امام کی رائے پر موقوف ہے)۔

آگے فرماتے ہیں:

”لیکن ان میں سے جو لوگ کسی پوشیدہ گمراہی کو دل میں رکھتے ہوں گے اس کے منظر عام پر آجائے کے بعد آیا ان سے توبہ کے لئے کہا جائے گا اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ بلکہ ان کی گمراہی کے ازالہ اور تردید کی کوشش جاری رکھی جائے گی؟ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اسی طرح اختلاف ہے جیسے ان کو کافر کہنے اور نہ کہنے کے بارے میں (یعنی جو لوگ کافر کہتے ہیں وہ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور قتل کا حُصُم دیتے ہیں اور جو کافر نہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں)۔“

لیکن فرماتے ہیں:

”تکفیر کا دروازہ بڑا خطرناک دروازہ ہے، اس سے احتراز اور سلامتی کے پر اپر ہمارے نزدیک

کوئی چیز نہیں (یعنی جہاں تک ہو سکے اس سے احرار نہ ہو جائے)۔

(۱) احادیث خوارج سے مستنبط فوائد و احکام: قرطبی ہمیشہ فرماتے ہیں: ان احادیث میں رسول اللہ ﷺ کی ایک عظیم الشان پیشیں گوئی اور صداقت کی دلیل بھی موجود ہے کہ ایک واقعہ کے پیش آنے سے بہت پہلے آپ نے ہو ہواں کی خبر دے دی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خوارج نے اپنے مخالف مسلمانوں کے کفر کا اعلان کر دیا تو ان کا خون بہانے کو بھی اپنے لئے حلال و مباح سمجھ لیا (اور بے دریغ خون ریزی اور قتل و غارت شروع کر دی) غیرہ مسلم ذمیوں (یہود و نصاری) کی تو جان بخشی کر دی کہ! یہ ذمی ہیں، ان سے ہم (جان و ماں کی سلامتی کا) معابدہ کر چکے ہیں، اس کو ضرور پورا کریں گے۔ مشرکوں سے بھی قتل و قتال ترک اور جنگ بندی کر دی (کہ یہ تو ہیں ہی کافر و مشرک ان سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا) اور اپنے مخالف مسلمانوں سے خون ریز لڑائیاں لڑنے (اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے) میں مشغول ہو گئے (کہ ان سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، مگر اسی پہلیتی ہے، اس لئے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں ان کو صفائحہستی سے مٹانا فرض عین ہے، العیاذ باللہ!) یہ ان جاہلوں کی انتہائی حماقت اور سیہ باطنی کی دلیل ہے، جن کے قلوب علم و معرفت کے نور سے محروم اور تاریک تھے اور ان کے قدم ایمان و یقین کے کسی محکم مقام پر راحنہ تھے (اور یہی رسول اللہ ﷺ کی پیشیں گوئی تھی: "يَقُولُونَ الْقُرْآنُ وَلَا يَحَاوِرُ حَناجِرَهُمْ") اس کے ثبوت کے لئے یہی بہت کافی ہے کہ ان کے سراغنہ (ابن ذی الحویضہ) نے خود صاحب شریعت علیہ السلام کے حکم کو ٹھکرایا اور العیاذ باللہ! آپ ﷺ پر ظلم جو رکا بہتان اگایا تھا (جس پر حضرت عمر بن حنفیہ اس کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے) اللہ بچائے ایسی سرکشی اور گستاخی و بے باکی سے۔

(۲) کفار مشرکین کی بنسیت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے: ابن ہمیرہ ہمیشہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بنسیت کفار و مشرکین کے خوارج سے جنگ کرنا اور ان کے قتنہ کا استیصال کرنا زیادہ ضروری ہے (اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: "إِنَّمَا لَقِيتُهُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قُتِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ") اس کی حکمت یہ ہے کہ ان خارجیوں سے جنگ کرنا دین کے اصل سرمایہ (دین اور دیندار مومن) کی حفاظت کے لئے ہے اور کفار و مشرکین سے جنگ کرنا منافع کمانے (یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسیت زیادہ ضروری اور مقدم ہوتی ہے)

(۳) جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے:..... نیز اس حدیث سے ان تمام لاٹ تاویل آیات کے اپنے ظاہری معنی مراد لینے کی ممانعت بھی نکلنی ہے جو اجماع امت کے خلاف ہوں (یعنی جن آیات میں صحیح تاویل کر کے اجماع امت کے موافق و مطابق بنایا جاسکتا ہے اُن وہ ظاہری معنی مراد نہ لینے چاہئیں جو اجماع امت کے مخالف ہوں، مثلاً ”ان الحکم الا لله“ کے یہ معنی مراد یعنی کہ اللہ کے سوا اور کسی کی حاکیت درست نہیں، لہذا علی بِنِ النَّوْعَ بھی کافر اور واجب القتل ہیں اور معاویہ بِنِ النَّوْعَ بھی، اس لئے کہ دونوں حاکیت کے مدعی ہیں یادوں نے حکم کے فیصلہ کو مان لیا ہے، قطعاً غلط اور اجماع امت و نصوص قرآنیہ کے خلاف ہیں)

(۴) دینداری میں غلو خطرناک ہے:..... نیز ان احادیث میں دینداری کے اندر اس غلو (حد سے تجاوز) کو اور عبادت میں اس نفس کشی کو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی خطرناک قرار دیا ہے، (چنانچہ خوارج کا یہی غلو تمام تر فساد اور کفر و خذلان کا سبب بنے ہے) اس لئے کہ صاحب شریعت عَلَيْهَا نے تو اس شریعت کو انتہائی سہل اور قابل عمل قرار دیا ہے، اسی طرح کفار کے ساتھ خنثی اور تشدید کی اور مومنین کے ساتھ رافت و شفقت کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے، لیکن ان خوارج نے (محض اپنے جہل اور غلو فی الدین کی وجہ سے) بالکل اس کے بر عکس کر دیا تھا (کہ مومنین کے ساتھ ظلم و تشدید اور کفار کے ساتھ شفقت و رافت کو اپنا شعار یہکہ جزا ایمان بنا لیا تھا اور ریاضات شاقد میں غلو کی وجہ سے دین کو انتہائی دشوار اور شریعت کو ناقابل عمل بنادیا تھا)۔

(۵) امام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے، اس سے جنگ کرنا ضروری ہے:..... اسی طرح ان احادیث سے اس فرد یا جماعت سے جنگ کرنے کی اجازت بھی نکلتی ہے جو امام عادل کی اطاعت کو بالائے طاق رکھ کر اس کے مقابلہ پر آمادہ کارزار ہو جائے اور اپنے فاسد عقائد کی بنا پر قتل و عمارت اور خوزیری شروع کر دے، اسی طرح وہ فرد یا گروہ جو رہنمی اور غارتگری اختیار کر کے ملک میں فساد اور بدآمنی پھیلایا دے اور لوگوں کے لئے گھروں سے نکلنا اور سفر کرنا خطرناک و ناممکن بنادے۔ ہاں! جو فرد یا گروہ کسی ظالم حکمران کے ظلم و جور سے اپنی جان و مال اور اہل و عیال کو بچانے کی غرض سے بغاوت کرے وہ شرعاً معذور ہے اس کے خلاف (ظالم حکمران کی حمایت میں جنگ نہ کرنی چاہئے، اس لئے کہ اس مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بقدر طاقت و قوت ظالموں سے اپنے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرے، ”کتاب الفتن“ میں اس کا تفصیلی بیان آئے ہے۔

چنانچہ طبری بْنِ طَبَرِي نے بسند صحیح حضرت علی بْنِ عَلِيٍّ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بْنِ عَلِيٍّ نے

خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: "اگر یہ لوگ امام عادل کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو بے شک ان سے جنگ کرو اور اگر امام ظالم کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو ان سے جنگ ہرگز نہ کرو، اس لئے کہ اس صورت میں یہ شرعاً معدود ہے۔"

حافظہ فرماتے ہیں:

"کربلا کے میدان میں حضرت حسین بن علیؑ کی جنگ یزید سے اور "حرہ" (مدینہ) میں اہل مدینہ کی جنگ عقبہ بن مسلم کی فوج سے (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا) اور "ملہ" میں عبد اللہ بن زبیرؑ کی جنگ حجاج سے، نیز عبد الرحمن بن اشعث کے واقعہ میں قراء قرآن کی جنگ حجاج سے اسی قبیل سے ہیں (یعنی ظالموں کے خلاف ان کے ظلم و جور سے بچنے کے لئے لڑی گئی ہیں، یہ حضرات عند اللہ معدود تھے)۔"

(۶) بلا قصد بھی مسلمان دین سے خارج (اور کافر ہو جاتا) ہے: ابن ہبیرؑ فرماتے ہیں: ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان دین سے خارج ہونے کا قصد اور اسلام کے بجائے کسی اور دین کے اختیار کرنے کا ارادہ کے بغیر بھی (محض اپنے کفر یہ عقائد و اعمال کی بنابر) دین سے خارج اور کافر ہو جاتے ہیں (یعنی کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ قصد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے، بلکہ کفر یہ عقائد و اقوال و اعمال کا اختیار کر لینا ہی اسلام سے خارج اور کافر ہو جانے کے لئے کافی ہے، حدیث خوارج میں "یمرقوں" کا لفظ خاص طور پر اس کو ظاہر کرتا ہے)۔

(۷) خارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے: نیزان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام گمراہ اور باطل پرست فرقوں میں سب سے زیادہ خطرناک خارجی فرقہ ہے، یہ اسلام کے حق میں یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی زیادہ ضرر سا ہے ① (اس لئے کہ یہ اسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہیں)

حافظہ فرماتے ہیں: ابن ہبیرؑ کا یہ آخری استنباط اس قول پر منی ہے کہ خوارج مطلقاً کافر ہیں (گویا حافظ ابن حجرؑ کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے)۔

① ہمارے زمانہ میں بھی اسلام اور قرآن کے نام پر کفر اور دین کا نام لے کر بے دینی پھیلانے والے افراد اور فرقے موجود ہیں اور نوہن پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی مشکل سے مسلمان ان کو اسلام سے خارج اور کافر جانتے اور مانتے ہیں، ان کی تکفیر اور ریخت کرنی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس زمانہ میں خوارج کی تکفیر اور ریخت کی ضروری تھی اور اس رسالہ کو اس وقت اردو ترجمہ اور شائع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سعی کو ملکور اور دین و دینداروں کو ان فتوؤں سے محفوظ فرمائیں، آمين ثم آمين۔ ازمترجم۔

(۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منقبت: نیز ان احادیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت لکھتی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں بہت سخت تھے (اس لئے کہ وہ ابن ذمی الخویصرہ کے رسول اللہ ﷺ کو ظلم و جور کی جانب منسوب کرتے ہی اس قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے)

(۹) کسی کے دین و ایمان کی تصدیق مغض اس کے ظاہر کو دیکھ کر نہ کر دینی چاہئے: نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی فرد یا فرقہ کی تعدیل (دین و ایمان کی تصدیق) میں مغض اس کے ظاہری اقوال و اعمال پر اکتفاء نہ کرنا چاہئے، اگرچہ وہ عبادت و طاعت، دین داری و پرہیز گاری اور زہد و تشقیف میں انتہائی مقام پر کیوں نہ پہنچی ہوا ہو، جب تک کہ اس کے باطنی عقائد و اعمال اور اندر ویں حالات کی تحقیق نہ کر لی جائے (اس وقت تک اس کے دین و ایمان کی تصدیق نہ کی جائے، درحقیقت حضور ﷺ کا مقصد ہی اس حدیث سے امت کو متذمیر کرنے اور دھوکے میں پڑنے سے بچانا ہے)۔

حافظ ابن حجر عسکری ص: ۲۲ باب "قتل من ابی قول الفرائض" کے تحت حدیث "رقدت" کے ذیل میں ایمان و اسلام کے شرعاً معتبر ہونے کے لئے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ "جمع ماجاء به النبی ﷺ پر ایمان لانے اور جملہ احکام شریعت کی پابندی کا اقرار کرنے کا ضروری ہوتا ثابت کرتا چاہتے ہیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی فرض شرعی کا انکار موجب کفر ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روای کے سلسلہ میں جس کی تحریج امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب "قتل من ابی قول الفرائض" کے ذیل میں کی ہے اور ہم حاشیہ میں اس کو قتل کر چکے ہیں:

"اس حدیث رقدت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص صرف "لا اله الا الله" کہے اگرچہ اس پر (محمد رسول الله) اشاعت بھی کرے، اس کو قتل کرنا منوع ہے، لیکن کیا وہ صرف اتنا ہی کہنے سے مسلمان بھی ہو جائے گا؟ یہ مکمل بحث ہے صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہ ہو گا مگر اس کے قتل سے باز رہنا واجب ہے اس کے بعد تحقیق کی جائے اگر وہ اس کے ساتھ رسالت (محمد رسول الله) کی شہادت بھی دے اور تمام احکام شریعت کی پابندی کا اقرار بھی کرے تب اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں: "الا بحق الاسلام" کے استثناء سے اسی جانب اشارہ ہے (یعنی یہ استثناء اسی غرض سے ہے کہ اگر رسالت کی شہادت نہ دے یا کل یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لا اله الا الله" کہنے کے باوجود کافر اور واجب القتل ہے)۔

امام بغوي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"یہ کافر اگر بت پرست ہو یا دو خداوں کا ماننے والا ہو (جیسے مجوہ کہ "بیزاداں" اور "اہر من" )"

دو خدا مانتے ہیں) تب تو صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لینے پر ہی اس کو مسلمان قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد تمام احکام شریعت کے مانتے اور اسلام کے سوا تمام مذاہب سے بے تعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر یہ کافر توحید کا تو قائل ہے مگر رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو نہیں مانتا (جیسے یہودی یا نصرانی) تو جب تک "محمد رسول اللہ" نہ کہے اس کو مسلمان نہ قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد ﷺ رسول تو یہ مگر صرف اہل عرب کے لئے ہیں تو اس کے مسلمان قرار دینے کے لئے "رسول اللہ" کے ساتھ "الی جمیع الخلق" (تمام مخلوق کے لئے) کا اضافہ بھی ضروری ہے اور اگر کسی فرض شرعی کا انکار کرنے یا حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لئے اپنے اس عقیدہ سے تائب ہونے کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔"

حافظ ہبنت شیخ الباری ج: ۱۲ ص: ۲۲۷ میں فرماتے ہیں:

"علامہ یغوثیؒ کے بیان میں "یجبر" کے لفظ کا تفاصیل ہے کہ اگر وہ التزام احکام شریعت کا اقرار نہ کرے تو اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے (یعنی اس کو اسی حالت پر نہ چھوڑا جائے گا بلکہ اقرار نہ کرے تو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کر دیا جائے گا) علامہ قفال نے اس کی تصریح کی ہے:-"

خوارج کے بارے میں امام غزالیؒ کی تحقیق: حافظ ہبنت شیخ الباری ص: ۲۵۲ پر باب "قتل الخوارج" کے ذیل میں خوارج کے مختلف فرقوں اور ان کے عقائد کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"امام غزالیؒ وسیط" میں دوسرے علماء اسلام کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکم خوارج کے سلسلہ میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان پر مرتد کا حکم لگایا جائے، دوسرے یہ کہ ان کو باعثی مسلمان قرار دیا جائے، امام رافعیؒ نے اول صورت کو ترجیح دی ہے... مگر یہ ارتداد کا حکم ہر خارجی پر نہیں لگایا جاسکتا، اس لئے کہ خارجیوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو حکومت سے بغاوت بھی کرتا ہے اور اپنے باطل عقائد کے مانے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے (اور یقیناً کافر ہیں) دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنے عقائد کے مانے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لئے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے پھر اس دوسرے گروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جماعت جن کی بغاوت کا محرك دین کی حمایت و صیانت اور خلق اللہ کو ظالم حکمرانوں کے جور و ستم سے نجات دلانے اور سنت رسول اللہ کو قائم کرنے کا جذبہ ہے، یہ حضرات اہل حق ہیں انہی میں شہید کر بلا حضرت حسین بن علیؑ اور "حرہ" (مدینہ) میں (مردانیوں سے چنگ

کرنے والے ائمہ مدینہ اور (جانشینی سے جنگ کرنے والے) "تو ایسا داخل ہیں (ان کو یقیناً کافر و مرتد نہیں کہا جا سکتا یہ تو غازی اور مجاہد فی کبیس اللہ جس) دوسرا فتح وہ جماعت ہے جو صرف ملک گیری کے جذبے کے تحت (حکومت وقت سے) بغاوت کرتی ہے خواہ کوئی مذہبی گمراہی ان میں پائی جائے، خواہ نہیں، یہ یقیناً باغی ہیں، کتاب الفتن میں ان شاء اللہ ان کا حکم بیان کیا جائے گا۔"

اجماع امت کا مخالف کافر اور دین سے خارج ہے: .... حافظ ابن حجر عسقلانی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ فرائض و احکام شرعیہ جن کا انکار کرنے سے ایک مسلمان کافر و مرتد ہو جاتا ہے، ان کا "متواتر" ہونا ضروری نہیں، بلکہ "مجموع علیہ" عقائد و اعمال کا منکر بھی کافر و مرتد ہے، ج: ۱۲ ایش: ۷۷ پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث "لا يحل دم امری مسلم ..... اخ" کے ذیل میں "التارک لدینہ المفارق للجماعۃ" کی شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ابن دقيق العيد" فرماتے ہیں کہ "المفارق للجماعۃ" سے یہ بھی مستبط ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اجماع امت کا مخالف ہو، اس صورت میں اس سے وہ لوگ استدلال کر سکیں گے جو اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، چنانچہ بعض علماء کی جانب یہ استدلال منسوب بھی ہے لیکن یہ استدلال کچھ واضح نہیں، اس لئے کہ بعض اجتماعی مسائل تو بطور "تواتر" رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں، مثلاً نماز کا فرض ہونا، لیکن بعض اجتماعی مسائل از روئے سند "متواتر" نہیں ہوتے، قسم اول کا منکر تو بے شک کافر ہے اس لئے کہ وہ ایک امر متواتر کا منکر ہے، اس لئے کہ اجماع امت کا مخالف ہے، لیکن قسم دوم کا منکر کافر نہ ہوگا (اس لئے کہ وہ کسی امر متواتر کا منکر نہیں ہے) چنانچہ ہمارے استاذ (حافظ عراقی) "شرح ترمذی" میں فرماتے ہیں:

"صحیح یہ ہے کہ منکر اجماع کو صرف اس صورت میں کافر کہا جائے گا جبکہ وہ کسی ایسے امر اجتماعی کا انکار کرے جس کا وجوب قطعی طور پر دین سے ثابت ہو، مثلاً صلوٰت خمسہ کا منکر۔"

بعض علماء نے اس سے زیادہ محتاط تعبیر اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ جس امر اجتماعی کا "وجوب" تو اتر سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے۔ حدوث عالم کا عقیدہ بھی اسی میں داخل ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض نے وغیرہ علماء دین نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔"

شیخ ابن دقيق العيد فرماتے ہیں:

"اس مقام پر (مسئلہ حدوث عالم کے باب میں) بعض ایسے بزرگوں کے قدم پھیل گئے ہیں جو علوم عقلیہ میں مہارت کے بلند بالگ دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت وہ فلسفہ یونان کی طرف مائل

ہیں، ان کا خیال ہے کہ جو حدوث عالم کا منکر ہواں کو کافرنہ کہا جائے، اس لئے کہ اس میں صرف ”اجماع“ کی مخالفت ہے اور اہل سنت کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ: ”اجماع کا مخالف مطلقاً کافرنہیں بلکہ جو اجتماعی مسائل بطور تو اتر صاحب شریعت سے ثابت ہوں صرف ان کا مخالف کافر ہوتا ہے۔“ (اور حدوث عالم ان کے خیال میں صاحب شریعت سے بطور تو اتر ثابت نہیں ہے) شیخ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ استدلال ساقط اور ناقابل التفات ہے، یا بصیرت ایمانی سے محرومی اس کا محرك ہے، یا جان بوجھ کر حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا اس کا باعث ہے، اس لئے کہ حدوث عالم ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت کا اجماع بھی ہے اور ازروئے سند متواتر بھی ہے (لہذا اس کا منکر یقیناً کافر ہے)“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ص: ۱۸۰ اپر اس بحث کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ:  
”اجماع کا مخالف“ مفارق للجماعة، میں داخل (اور کافر) ہے۔“



حافظ ان حجر عسلی کے مذکورہ بالا اقتباسات سے

جو امور حق ہوتے ہیں ان کا بیان

اور مصنف عسلی کی ان پر تنبیہ اور دوسرے مأخذ سے مزید تائید

اول: خوارج و ملحدین کی تکفیر کے بارے میں امام بخاری عسلی کی رائے:..... امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری عسلی "خوارج" کے ان بعض فرقوں کی تکفیر کی جانب مائل ہیں جو متحقک نکفیر ہیں، چنانچہ وہ اپنی کتب "خلق افعال العباد" میں اس کی تصریح کرتے ہیں، نیز حق کو منوادی نے اور تو بہ کرانے کے بعد (بھی اگر وہ بازنہ آئیں تو) ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں اور یہ ان سے منوانا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ان کو حق کے قبول کرنے پر مجبور و مضطرب کرو یا جائے، یعنی انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ کسی منکر حق کے دل میں اس طرح یقین و ایمان پیدا کر دے اور حق کو دل میں اتاردے کہ اس کے بعد اس غناد اور سینہ زوری کے علاوہ اور کوئی مرتبہ باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ان طبق عقل والوں کا زعم ہے جو ائمہ دین کے اقوال و کتب کے علم و مطالعہ سے محروم ہیں اور انہوں نے اپنے اس خیال کی بنیاد صرف اس زمانہ میں رائج آزادی فکر و رائے ① اور عقلی حسن و بیان پر رکھی ہے (یعنی ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار عقل انسانی ہے جس کو انسان کی عقل حق کہے وہ حق ہے اور جس کو باطل کہے وہ باطل اور آزادی فکر اور رائے کی بناء پر کوئی کسی کا پابند نہیں اور نہ کوئی کسی کو اسلام سے خارج و کافر قرار دے سکتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک کسی منکر حق کو جب تک وہ خود قابل نہ ہو جائے اسلام سے خارج، کافر اور مستحق سزا قرار دینا درست نہیں) چنانچہ مرتد کے بارے میں علماء مذاہب اربعہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مرتد سے توبہ کرائی جائے، اس کے شر کو (جو

① اسی نظریہ کی بناء پر آن ہر ہمومی اردو و ان بھی حق الامان فتح ق آن ہدیت بہ اپنی مثل و فہم کے معیار پر قرآن کی مراد متعین کرنے میں مصروف اور مصروف ہے اور دین کے قطبی اور تینی انعام میں نہایت آزادی کے ساتھ پویا ہیں اور تحریکیں لمرد ہائے نہایت پہ بارکی سے حراثم کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہے اور مدحی ہے کہ اسلام یہی ہے جو میں نے صحابہ اور میں کہتا ہوں۔ حالانکہ علوم قرآن و حدیث اور اصول دین مذہب سے بالکل کو اور بابل مختص ہے قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کی روایات علمی تک سے قطعاً نا آشنا ہے اور علماء اگر اسکے خلاف لب کشائی کرتے ہیں تو بر ما کہتا ہے کہ "قرآن صرف علماء کے لئے نہیں اترابت اور دوائی ہی دین کے تھیک دار نہیں ہیں، ہم ان کی ہدروی کیوں گریں؟ ہمیں بھی خدا نے عقل و فہم دی ہے۔" غرض رسول اللہ ﷺ کی تھیں وہ اس اعجائب کل ذی رائی برائیہ۔" اس زمانہ میں پوری پوری صادق آرہی ہے العیاذ اللہ از متر جم۔

باعث ارتدا دیے) دور کیا جائے، یعنی اس کے سامنے ایسے دلائل بیان کئے جائیں جو اس کے شہر کو دور کرنے کے لئے کافی ہوں، نہ یہ کہ یہی خواہی خواہی اس کے دل میں حق کا یقین اتار دے اور اس کے مائنے پر اس کو مجبور کرو دے، اس کے بعد بھی اگر وہ بازنہ آئے تو اس کو کفر کی بنابر قتل کر دیا جائے۔

شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ "مسایرہ" میں ص: ۲۰۸ طبع جدید مصر، پر ایسے امر قطعی کے انکار کے بارے میں جو ضروری (متواتر) نہ ہو، فرماتے ہیں:

"مگر یہ کہ اہل علم اس منکر کو سمجھا نہیں اور بتلا نہیں کہ یہ قطعی (یقین) امر ہے اس پر بھی اگر وہ (انکار پر) اذار ہے تو اس کو کافر قرار دے کر قتل کر دینا جائز ہے۔"

حموی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "الجمع والفرق" میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور "البحر الرائق" میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول "فرقہ جاہلہ" کی تعلیم کے ذیل میں اور "فتاویٰ بندیہ" (علمگیری) میں ج: اص: ۲۶۹ پر کتاب "المیہمہ" سے نماز کے متعلق جو قول نقل کیا ہے، ان تمام اقوال سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مخالف کے سامنے دلائل بیان کر دینا اور اس کے شکوہ و شبہات کا ازالہ کر دینا کافی ہے، اس کے دل میں حق کو اتار دینا اور منوادینا ضروری نہیں کہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔

اب آپ "صحیح بخاری" کے تراجم لیجئے اور دیکھئے کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جس رجحان کا دعویٰ کیا ہے (وہ کس طرح ظاہر و ثابت ہے) "صحیح بخاری" میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

**"باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامۃ الحجۃ عليهم وقوله تعالى:**

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْلِلْ قَوْمًا بَعْدَ أَذْهَمْهُمْ حَتَّىٰ يَبْيَنَ لَهُمْ مَا يَتَّقَوْنَ" (ن: ۲۰۲۳)

ترجمہ: ..... "خارجیوں اور ملحدوں پر جنت قائم کر دیے کے بعد ان کے قتل کر دینے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اس کا ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ کسی قوم کو وہ بدایت کر دینے (اور راہ حق دکھادیئے) کے بعد گمراہ کر دے، یہاں تک کہ ان پر وہ طریقے واضح فرمادے جن سے وہ (گمراہی سے) بچ سکیں۔"

اس کے بعد وہ دوسرا باب ان "اعذار" کو بیان کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں جن کی بناء پر ان لوگوں کے قتل کو ترک کیا گیا، جہاں بھی ترک کیا گیا اور فرماتے ہیں:

**"باب من ترك قتال الخوارج للتألف والكلا ينفر الناس منه"** (ن: ۲۰۲۳)

ترجمہ: "خوارج سے جنگ ترک کرنے کا بیان تایق قلب کی غرض سے اور اس لئے کہ لوگ اسلام سے نفرت نہ کرنے لگیں۔"

اس کے بعد تیسرا باب ص: ۲۵ اپر "تاویل" پر قائم کرتے ہیں (کہ کون اسی تاویل معتبر اور مؤثر

بے اور کون سی نہیں) فرماتے ہیں:

”باب ما جاء في المتأولين“ (تاویل کرنے والوں کا بیان)

واضح ہو کہ اس تاویل سے ”خوارج“ کی تاویلوں جیسے تاویلیں کرنے والے مراد نہیں ہیں، اس لئے کہ ”خوارج“ کے متعلق تو باب پہلے قائم ہی کرچکے ہیں (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رض کے نزدیک خوارج متأولین میں داخل ہی نہیں اور ان کی تاویل معتر نہیں، یعنی ان کو کفر اور قتل سے نہیں بچا سکتی) بلکہ صاحب ”فتح الباری“ کے الفاظ میں: ”ان سے وہ تاویلیں مراد ہیں جن کی کلام اہل عرب میں گنجائش ہوا اور ازروے علم دین ان کے لئے جواز و صحت موجود ہو۔“ (فتح الباری ج: ۱۲، اس: ۲۶۰)

چنانچہ حافظ ابن حجر رض کے شاگرد رشید شیخ الاسلام زکریا انصاری ”تحفة الباری“، شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

”ولَا خلاف ان المتأول معدور بتاؤيله اذا كان تأويله سائغا.“

ترجمہ: ”اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تاویل کرنے والا اپنی تاویل کی وجہ سے معدور (اور جاہل) سمجھا جائے گا، بشرطیکہ کام عرب میں اس تاویل کی گنجائش ہو۔“

لہذا معلوم ہوا کہ اس سے مطلق تاویل (چاہے کام عرب میں اس کی گنجائش ہو، چاہے نہ ہو) مراد نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ محض تاویل (خواہ کسی بھی ہو) موقول قتل سے نہیں بچا سکتی بلکہ کفر سے بھی نہیں بچا سکتی (جیسا کہ حکم خوارج سے ظاہر ہے)۔

ثانی: کسی بھی قطعی امر کا انکار کفر ہے، اگرچہ منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جانتا ہو۔ کسی بھی قطعی (یقینی) امر کا انکار کفر ہے اور یہ بھی شرط نہیں کہ اس کے قطعی ہونے کو وہ جانتا ہو پھر انکار کرے اور تب ایک قطعی امر کا (جان بوجھ کر) انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جیسا کہ بعض وہم پرستوں کا توبہم ہے بلکہ اس امر کا فی الواقع قطعی ہونا شرط ہے (خواہ منکر کو اس کا علم ہو یا نہ ہو) ایسے واقعی امر قطعی کا جو شخص بھی انکار کرے گا (کافر ہو جائے گا) اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اگر توبہ کر لی تو فہمہ اور نہ کفر کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے گا اور بتقول شاعر:

ولیس وراء الله للمرء مذهب!

ترجمہ: انسان کے لئے اللہ (پر ایمان لانے اور اس) سے ذرتنے کے سوا کوئی راہ نہیں۔

(ایک کافر و مرتد کے لئے بھی توبہ کے سوا اور کوئی راہ (نجات) نہیں) یہ تفہیح شیخ تفتی الدین سکل رض کے بیان سے بھی جس کو حافظ رض نے ج: ۱۲، اس: ۲۶۷ پر نقل کیا ہے، مستبط ہوتی ہے۔

**ثالث:** کسی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کافر ہونے کے لئے تبدیل مذہب کا قصد ضروری نہیں..... حافظ ابن حجر عسکری کا مذکورہ بالا بیان ان لوگوں کے قول کی بھی تردید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ: ”اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد کسی اہل قبلہ مسلمان کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ خود جان وجہ کر اسلام سے نکلنے (اور مذہب تبدیل کرنے) کا ارادہ نہ کرے۔

یہ تفہیح حافظ عسکری کے ج: ۱۲ ص: ۲۶۷ پر نقل کردی طبری عسکری کے بیان سے نیز قرطبی عسکری کے بیان کے آخری حصے سے بھی نکلتی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ عسکری کے مذکورہ ذیل بیان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ ”الصارم المسلط“ کے ص: ۳۶۸ پر (مرتد کی توبہ کے معتبر نہ ہونے کے ذیل میں) فرماتے ہیں:

”غرض یہاں یہ ہے کہ جیسے ارتداد سب و شتم کے بغیر بھی محقق ہو سکتا ہے اسی طرح تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارادہ کے بغیر بھی محقق ہو سکتا ہے (یعنی کسی بھی موجب ارتداد قول فعل کا ارتکاب انسان کے مرتد ہو جانے کے لئے کافی ہے، قصد وارادہ کا مطلق دخل نہیں) جیسے کہ ابلیس ”انکار ربوبیت“ کا قصد کئے بغیر (محض حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار و استکبار کی وجہ سے) کافر ہو گیا (حالانکہ ”یارب“ کہہ رہا ہے) اگرچہ اس قصد (تبدیل مذہب وارادہ تکذیب رسول) کا نہ ہونا اس شخص کے لئے ایسا ہی مغایر نہیں جیسا کہ کلمہ کفر کہنے والے قصد کفر کا نہ ہونا مفید نہیں (یعنی جیسے کلمہ کفر کا زبان سے کہنا ہی موجب کفر ہے، خواہ کہنے والا کافر ہونے اور مذہب تبدیل کرنے کا قصد وارادہ کرے یا نہ کرے، ایسے ہی محض زبان سے موجب ارتداد کلمہ کا کہنا ہی مرتد ہونے کے لئے کافی ہے تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارادہ کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی فائدہ)۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”(علاوه ازیں) اس شخص نے (موجب ارتداد قول یا فعل کا ارتکاب کر کے) محض اعتقاد کی تبدیل کا اظہار نہیں کیا کہ دوبارہ اس عقیدہ کی جانب رجوع کر لینے (اور توبہ کرنے) سے اس کی جان و مال محفوظ ہو جائے اور پاداش ارتدا (یعنی قتل سے نجی جائے) بلکہ یہ تو ہیں دین اور ایذا مسلمین کا مرتكب ہوا ہے (اس کی سزا اس کو ضرور دی جائے گی) اور یہ قول (یعنی زبان سے کلمہ ارتداد کہنا) تغیر اعتقاد کے لئے لازم بھی تو نہیں (ہو سکتا ہے کہ اعتقاد بدلا ہوا اور محض ایذا مسلمین کے لئے یہ کلمہ کہتا ہو یا اعتقاد بدل جائے اور زبان سے اظہار نہ کرے) تاکہ اس قول (کلمہ ارتداد) کا حکم تغیر اعتقاد کے حکم کی مانند ہو جائے (اور توبہ قبول کر لی جائے، ورثتیقت موجب ارتداد قول یا فعل کا ارتکاب بجائے

خود ارتدا اور اس کی پادا ش میں قتل کو موجب ہے، اعتقاد کی تبدیلی کا اس میں کچھ خل نہیں)۔ آگے چال کر فرماتے ہیں:

”اور اس جہت سے کہ اس شخص کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے یا کہا جاسکتا ہے کہ: ”اعتقاد برقرار ہونے کے باوجود ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے۔“ تو پھر ایسے شخص سے یہ بھی کلمہ ارتدا درزد ہو سکتا ہے جو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کا ارادہ نہ کرے (تو اس کو بھی مرتد اور واجہب الشتم نہ کہنا چاہئے) اور ظاہر ہے کہ اس کا فساد قصد ارتبدیل مذہب کے فساد سے بہت زیادہ ہے اس لئے ارتبدیل مذہب کو توهہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے، لہذا کفر کے نتائج بد اس کو تبدیل مذہب سے باز رکھیں گے اور اس (زبان سے کلمہ کفر وارتداد کہنے) کو وہ اس وقت تک کفر (وارتداد) نہیں سمجھتا جب تک حلال جان کر سرزد نہ ہو، بلکہ اس کو وہ صرف معصیت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا کفر ہے (حاصل یہ ہے کہ اگر زبان سے کلمہ ارتدا و کفر کہنے والے کی تکفیر و حکم ارتدا و لگانے میں تبدیل ہے) مذہب کے قصد و ارادہ کی شرط کو معتبر مان لیا جائے گا تو ایک عظیم تر کفر یعنی تو ہیں دین واپسیاء مسلمین کا دروازہ کھل جائے گا اور زبان سے کلمہ ارتدا و کفر کہنے کا خوف دلوں سے نکل جائے گا)۔“

حافظ اہن تیمیہ نہیں کی اس تحقیق کو نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ حافظ اہن  
حجر نہیں کے اس فیصلہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کی مددورہ بخاری حدیث میں افظع "مروق" کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین سے نکل  
جائیں گے اور ان کو پڑھنے بھی نہ چلے گا، اس لفظ کے لغوی معنی کا تقاضا اور حق بھی یہی ہے (یعنی "مروق"  
اور "خروج" میں فرق ہی یہ ہے کہ "مروق" ایسے نکل جانے کو کہتے ہیں کہ نکلنے کا احساس نہ ہوا اور نکل  
جائے، بخلاف "خروج" کے کہ اس میں یہ شرط معتبر نہیں ہے لہذا حضور ﷺ کا "خروج" کے بجائے  
"مروق" سے تعبیر کرنے میں اسی کی جانب اشارہ ہے کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے  
کہ ان وہ پڑھنے نہیں چلے گا کہ ہم دین سے خارج ہو گئے، چنانچہ "مروق سہم" کی تتمیل اور اس کی  
تفصیل بھی اسی امر کی نشاندہی کرتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دین سے نکل جانے اور کافر ہو جانے کے  
لئے تبدیل مذہب کا قصد یا اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے)

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

اور جو اے تغیر میں قصد، ارادہ کا اعتبار کرنے کے قابل ہیں، ممکن ہے وہ اس کے بھی قابل ہوں کہ اسلام سے حلاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اُنہوں کے معاملہ ہوں تو بلاک (یعنی مخلد فی النار) نہ ہوں گے، (اس لئے کہ وہ اسلام کی مکملیت کا قصد نہیں کرتے) چنانچہ بعض علماء کی جانب یہ قول منسوب بھی ہے، حالانکہ قاضی ابو بدر بقلائی ہی سے یہ فرماتے ہیں کہ: "یہ قول سراسر کفر ہے۔" جیسا کہ

قاضی عیاض نے "شفاء" میں ذکر فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس (قصد و لرادہ کا اعتبار کرنے والے) قائل کی دلیل اگر بالفرض ثابت ہو جائے تو یقیناً عامم ہوگی اور ان تمام لوگوں کو شامل ہوگی جو معاند ہوں، خواہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم، (حالانکہ یہ قطعاً غلط اور باطل ہے اس لئے کہ غیر مسلم خواہ معاند ہو، خواہ نہ ہو، یقیناً کافر اور مختلف فی النار ہے، جیسا کہ نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، لہذا اکلم کفر کرنے والے کی تکفیر میں قصد و لرادہ کا اعتبار کرنا سراً سر غلط ہے۔

**رائع و خامس:** تکفیر خوارج کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اور "خوارج" کا مصدق:

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ رحمۃ اللہ کا ان لوگوں کے دلائل کا جواب دینا جو خوارج کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں اور اس کے بعد خود ان کو دو قسموں پر تقسیم کرنا، ایک وہ جو کافر ہیں اور ایک وہ جو کافر نہیں ہیں اور "وسیط" سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس کی تائید میں نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ اگر حافظ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً تکفیر خوارج کے قائل نہ بھی ہوں تب بھی وہ عدم تکفیر کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ دلائل عدم تکفیر کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں)۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود فیصلہ کرتے ہیں:

حق یہ ہے کہ جو لوگ کسی امر متواتر کا انکار کریں ان کی تکفیر کی جائے گی اور جو کسی امر متواتر کا انکار نہ کریں ان کو کافرنہ کہا جائے گا، نیز یہ بھی حق ہے کہ "یمرقوں" (والی حدیث کا مدلول یہ ہے کہ فرقہ مارقة (وین سے غیر محسوس طریق پر نکل جانے والا فرقہ) ایمان کی بُشیت کفر سے زیادہ قریب ہے ① اور اس (تکفیر خوارج کے) مسئلہ میں صریح تر روایت جو مجھے ملتی ہے وہ "سنن ابن ماجہ" کی ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے جس میں تصریح ہے:

"قد کان هؤلاء مسلمین فصاروا كفاراً" ترجمہ: (یہ لوگ مسلمان تھے اس کے بعد کافر ہو گئے)۔ راوی کہتا ہے: "میں نے کہا: اے ابو امامہ یہ تمہاری اپنی رائے ہے؟" ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں! بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے۔"

حافظ محمد ابراہیم یمانی "ایشار الحق" میں ص: ۳۲۱ پر فرماتے ہیں: "اس حدیث کی سند صحیح ہے۔" امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو مختصر آرروایت کیا ہے اور تحسین کی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ (علامہ شامی) وغیرہ بعض قدماء نے ج: اص: ۵۲۳ پر مسئلہ امامت کے ذیل میں خوارج

① مزید تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل آیات کے تحت "مصحح القرآن" کی مراجعت کیجئے: "هُمْ لِلَّكَفَرِ يُوْمَنُدُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ" ۲ و "لَقَدْ قَالُوا كَلْمَةُ الْكُفَّارِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ" ۳ لٹو نعلم قالا لَا تَعْلَمُونَ أَنْ يَعْرِفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" از مصنف

کی تفسیر ان لوگوں سے کی ہے جو اہل سنت کے عقائد سے خارج اور منکر ہیں (اور ان میں معزز لہ، شیعہ وغیرہ تمام فرق باطلہ کو شامل قرار دیا ہے)۔

”خوارج کے مصدقہ کی تفہیم کو ثابت کرتے ہوئے حضرت مصنف ہبہ فرماتے ہیں:

نسائی ہبہ نے ابو بزرہ اسلامی ہبہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتب رسول اللہ ﷺ کے پاس (صدقہ کا) کچھ مال آیا، آپ ﷺ نے اس کو تقسیم فرمادیا، اس کے بعد (ابن ذی الحنیفہ کے اعتراض کرنے پر) حضور ﷺ نے فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایک قوم نمودار ہوگی (اس شخص کے قول فعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ) گویا یہ شخص بھی انہیں میں سے ہے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر قرآن (صرف ان کی زبانوں پر ہوگا) ان کے حلقہ میں سے تجاوز نہ کرے گا (یعنی دل اس کے معانی و مطالب سے نا آشنا ہوں گے)۔“ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ لوگ برابر نمودار ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص متوجه دجال کے ساتھ نمودار (اور اس کا ہم نوا) ہوگا۔“ (اس روایت سے خوارج کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے اور ان کی تشخیص بھی ہوتی ہے کہ ”وَهُوَ غَيْرُ مَحْسُوسٍ طَرِيقٌٍ پَرِ اسْلَامٍ سَيَخْرُجُونَ“ ہے، ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات ہوں گی مگر دل تعلیمات قرآن سے کوئے ہوں گے۔ لہذا جس طرح خوارج کا فراور دین سے خارج ہیں، ایسے ہی جو بھی افراد یا فرقے ان صفات کے ساتھ متصف ہوں وہ کافر اور دین سے خارج ہیں نیز یہ کہ ایسے لوگ ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ دجال کے علمبردار بھی یہی لوگ ہوں گے)۔

حافظ ابن تیمیہ ہبہ نے ”الصارم المسلول“ میں حصہ اے اد ۲۸۷ اپر ”ستہ ربیعہ عشر“ کے ذیل میں خوارج کے کافر ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور وہاں ان تمام دلائل و اعتراضات کے جوابات بیئے ہیں جو اس سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں، نیز ”پندرہ ہویں حدیث“ کا بھی جواب دیا ہے (دیکھئے ”الصارم“، صفحہ مذکور) نیز فرماتے ہیں کہ ابو بزرہ اسلامی ہبہ کی مذکورہ بالا روایت کے شواہد ”کنز العمال“، ج: ۶ ص: ۲۸ میں، اور ”مترک حاکم“، ج: ۲۶ ص: ۳۸ میں موجود ہیں۔

سادس: خوارج کی طرح اس زمانہ کے ملدوں کی تکفیر بھی غیر مسلموں کی بسبت زیادہ ضروری ہے: ””مشرکین کی بسبت خوارج کے ساتھ جنگ کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔“ یہ ابن ہبیرہ ہبہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک بالکل اسی طرح اس زمانہ میں معاندوں (اسلام کے کھلے دشمنوں یعنی غیر مسلموں) کی بسبت ملدوں اور باطل تاویلیں کرنے والوں کی تکفیر زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لئے کہ مَوْلَ کی تاویل کو تو لوگ عین دین قرار دے لیتے ہیں، جیسا کہ اس لعین (وجال قادریان) کے

پیر و ول نے اس کی باطل تاویلوں کو ہی دین سمجھ رکھا ہے (اور ”مرزا جیت“ اس کا نام ہے)۔ بخلاف اس مخالف اسلام شخص کے جو علائیہ اور بالقصد اسلام کا مخالف اور دشمن ہے (کہ اس کو سب دین کا مخالف اور دشمن جانتے ہیں اور اس کی کسی بات کو دین نہیں سمجھتے اس لئے ان سے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان ان بے دینوں سے پہنچتا ہے)۔

**ضروریات دین میں تاویل مسموع نہیں:** ... امام بخاری رض اس سے قبل ج: ۲ ص: ۱۰۲۳ پر بعض ضروریات دین کا انکار اور اس کے موجب ارتداہ ہونے پر باب قائم کر چکے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”باب قتل من ابی قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة“

ترجمہ: ان لوگوں کے قتل سے متعلق باب جو ضروریات دین کے ماننے سے انکار کریں اور ان کا ارتداہ کی جانب منسوب یعنی مرتد ہونا۔“

اور اس باب کے ذیل میں حضرت ابو بکر صدیق رض کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی حدیث بیان کی ہے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی تھی (اور کہا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے) مگر حضرت ابو بکر صدیق رض نے ان کو ”مرتد“، قرار دیا، حالانکہ وہ بھی تاویل کرتے تھے (کہ زکوٰۃ یعنی کا حکم تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا اور ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً“ الآلیة، سے استدال کرتے تھے) پس ثابت ہوا کہ ضروریات دین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکتا اور زیادتے زیادہ جو اس میں خجاش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو (جاہل اور) معذور قتل دیا جائے (اور اس گمراہی کے نتائج بدستے ذرایا جائے) اور توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لیں تو فہمہ اور نہ قتل کرو یا جائے گا۔

توبہ کرانا، جبر واکرہ مذموم نہیں ہے: واضح ہو کہ یہ توبہ کرانا وہ جبر واکرہ نہیں ہے جو عقلاء و شرعاً مذموم ہے، بلکہ یہ تو اس حق کے قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے جس کا حق ہونا اظہر میں الشمس ہو، لہذا یہ تو سرتا سرہدایت و ارشاد و رعدل و صواب اور خیر شخص ہے (جیسے ایک بیمار کو زبردستی دو اپلانا اور پر ہیز کرانا کہ یہ عین صواب اور سرتاسر خیر خواہی ہے) اسی طرح حق کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور کرنا سراسر حق پرستی اور خیر خواہی ہے (جیسے وَا كَرَاهَة مَذموم وَهُوَ تَابٍ اور بدی پر ہو) (جیسے کوئی کسی کفر و شرک یا بدکاری پر مجبور کرے)۔ قاضی ابو بکر بن اعرابی رض نے ”تفسیر احکام القرآن“ کے اندر ”لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”المسئلة الثانية: قوله تعالى: لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ. عموم في نفي اكره“


**الباطل فاما الا كراه بالحق فانه من الدين وهل يقتل الكافر الا على الدين؟**  
**قال رسول الله ﷺ: "أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله"**  
**وهو ما حوذ من قوله تعالى: وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيُكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ"**  
 ترجمہ: "وَمَرْسَأْتُكُمْ لَا كراه فی الدین" کا مصراط ہر وہ اکراہ ہے جو امر باطل پر ہو، باقی حق کے قبول کرنے پر اکراہ تو یعنی دین ہے، آخر کافر کو دین (کے قبول نہ کرنے) پر ہی قتل کیا جاتا ہے، خود رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: "مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے برابر جنت رہتا رہوں یہاں تک کہ لا اله الا الله کا اقرار کر لیں (اور دین میں داخل ہو جائیں)۔" اور حضور ﷺ کے اس قول (حدیث) کا مأخذ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ: تم کا فروں سے جنت رہتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل باقی نہ رہے اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔"

سورہ المحتنہ کی تفسیر میں پھر اس تحقیق کا اعادہ کرتے ہیں اور اس میں تائید میں فرماتے ہیں:  
**"فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَجَزَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يَقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ"**  
 ترجمہ: "صحیح حدیث (قدسی) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ان لوگوں پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف ائے جاتے ہیں (یعنی احمد بن زبردی اس سے ایسے کام کرایتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ جنت میں جائیں گے)۔"

مصنف نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ:  
 تحقیق یہ ہے کہ اس حق کے قبول کرنے پر مجبور کرنا جس کا حق ہونا بدیکی ہوا کراہ ہے ہی نہیں، علامہ آلوی نبی ﷺ نے بھی "رسخ المعانی" میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (ج ۳ ص ۱۲)۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: اکثر ویژٹر یہی (مذکورہ بالا) شبہات اس مسئلہ (تکفیر) پر غور کرنے والوں کی راویں حاصل ہوا کرتے ہیں، اور چند نظرات ان جبراہی کی مذکورہ بالاتحقیقات نے ان کی کما حقہ بخ کرنی کردمی ہے اور ان کا تاریخ پودبھیر دیا ہے، مگر تو مج پسند لوگ بحلا کب مانتے ہیں؟ وہ تو اپنے وہی خیالی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے اور فریب نفس ان بھول بخلیاں اور تمباویں کی واڈیوں میں سرگردال رہیں گے، بدایت بخششے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس کو خدا ہی بدایت سے محروم کر دے اس کو کوئی بدایت دینے والا نہیں۔

ایں سعادت بزرگ بازو نیست تا نہ بخش خدا نہ بخشندہ  
 منکر ہیں تو نور الہی کا چراغ بجھاؤ نیا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے نور (دین حق) کو کامل کئے بغیر نہ چھوڑے گا۔



کفریہ عقائد رکھنے والے زندیقوں کے بارے میں انہے  
اربعہ اور دوسرے انہے مثلًا امام ابو یوسف، امام محمد، امام  
بنخاری وغیرہ حمّهم اللہ کے اقوال اور ان کی آراء  
کفریہ عقائد رکھنے والے زندیق مستحق قتل ہیں، ان کی توبہ بھی معتبر نہیں  
حضرت مصنف قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

۱: ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ "احکام القرآن" میں ج: اص: ۵۳ پر اور حافظ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ  
"عمدة القارئ" میں ج: اص: ۲۱۲ پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے بندیلیمان بن شعیب عن ابی یوسف،  
ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے "نوادر" کے ذیل میں اپنی "اماں" میں بھی  
شامل کیا ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: چھپے ہوئے زندیق کو (جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے) قتل کرو، اس  
لئے کہ اس کی توبہ کا پتہ نہیں چل سکتا (اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں)۔"

۲: ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ:  
"کوئی مسلمان جب جادوگری کا پیشہ اختیار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ بھی نہ  
کرائی جائے، اس لئے کہ مسلمان جب باطنی طور پر مرتد ہو جائے (جس کا ثبوت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے  
نزویک عمل سحر ہے) تو زبان سے اسلام کا اظہار کرنے سے اس کی توبہ کا پتہ نہیں چل سکتا۔" (احکام  
القرآن ج: اص: ۵)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرتد کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فیصلہ (کہ مرتد کی توبہ معتبر  
نہیں) "موطا" میں "باب القضاۓ فی من ارتد عن الاسلام" بھی مذکور ہے۔

۳: ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ "احکام القرآن" (ص: ۵۳ پر) فرماتے ہیں:  
"زندیق کی توبہ نہ قبول کرنے کے بارے میں انہے دین کے فیصلہ کا تقاضا ہے کہ تمام زندیقوں  
کی طرح فرقہ اسماعیلیہ اور ان تمام ملحدین کے فرقوں سے بھی توبہ نہ کرائی جائے جن کا اعتقاد کفر سب کو  
معلوم و معروف ہے اور یہ کہ اظہار توبہ کے باوجود ان کو قتل کر دیا جائے۔"  
ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے "احکام القرآن" میں ج: ص: ۲۸۲ تا ۲۸۸ پر اس مسئلہ کو از روئے روایت

ودرایت، اس سے بھی زیادہ شرح و سط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ایسے زندیقوں کے پچھے نماز جائز ہے، نہ ان کی شہادت مقبول ہے، نہ ان کا احترام کرنا درست ہے اور نہ سلام و کلام کرنا صحیح ہے، نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے، نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے

استاذ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ”الفرق بین الفرق“ کے ص: ۱۵۲ پر فرماتے ہیں:

”ہشام بن عبیداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ”جس شخص نے کسی معزولی کے پچھے نماز پڑھ لی، اسے اپنی نماز لوٹانی چاہئے۔ انہی ہشام نے برداشت تیجی بن اکشم قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے معزولہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: ”وہ تو زندیق ہیں“۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”كتاب القياس“ میں معزولہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کی شہادت قبول کرنے سے رجوع کیا ہے (یعنی اس سے قبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطابقاً گمراہ فرقوں کی شہادت قبول کرنے کا فتویٰ دے چکے تھے مگر ”كتاب القياس“ میں اس سے رجوع کیا ہے، امام شافعی کا مفصل بیان آگے آتا ہے)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہاء مدینہ کا قول بھی یہی ہے (کہ گمراہ فرقوں کی شہادت نہ قبول کی جائے)۔ استاذ ابو منصور فرماتے ہیں:

”پھر انہی اسلام کا قدریہ (معزولہ) کو کافر کہنے کے باوجود ان کے احترام میں سواری سے اتنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟“

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”كتاب العلو“ کے اندر بھی یہی تکھاہت ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”كتاب الام“، ج: ۶، ص: ۲۱۰ میں اہل اہواء (گمراہ فرقوں) کی شہادت قبول کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

”میں کسی ایسے تاویل کرنے والے کی شہادت کو رد نہیں کرتا جس کی تاویل کے لئے گنجائش موجود ہو۔“

”الیوقیت“ میں مخزوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان گمراہ فرقوں کی شہادت کے متعلق فرمایا ہے جن کی تاویل لئے (از روئے عمر بیت) گنجائش موجود ہو۔

”الفرق بین الفرق“ میں ص: ۱۵۳ پر استاذ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ہشام بن عبیداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا

: جس شخص نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھلی جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل، اس کو نمازوں کی چاہئے۔“

مصنف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں: یہ تو امام محمد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کا فتویٰ ہے، اعادہ کے متعلق، باقی ”فتح القدیر“، باب ”الامامة“ کے ذیل میں خود امام محمد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، ابو یوسف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اور امام ابو حنیفہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے روایت کرتے ہیں کہ: ”اہل اہواء (گمراہ فرقوں) کے پیچھے نماز جائز نہیں۔“

متاخرین صحابہ شَهِيدُنَّمٰ کا اجماع اور وصیت: .... مصنف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں: ”الفرق بین الفرق“ میں ص: ۵۱ پر اور ”عقیدہ سفاریٰ“ میں ج: اص: ۲۵۶ پر مذکور ہے کہ:

”متاخرین صحابہ شَهِيدُنَّمٰ نے جن میں عبد اللہ بن عمر، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، انس بن مالک، عبد اللہ بن ابی او فی، عقبہ بن عامر جہنمی رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں اور ان کے ہم عصر وہ نے اہل اہواء (گمراہ فرقوں) سے اپنی بے زاری اور بے تکلفی کا اعلان کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو وصیت کی ہے کہ قدریہ (معزلہ) کو نہ سلام کریں، نہ ان کے جنازہ پر نماز پڑھیں اور نہ ان کے بیماروں کی عیادت کریں (اس لئے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج اور کافر ہیں)۔“

فرماتے ہیں: اس کے بعد مصنف ”الفرق“ نے تفصیل کے ساتھ صحابہ شَهِيدُنَّمٰ کی ایک جماعت سے مرفوع روایات نقل کی ہیں:-

کسی بھی حکم شرعی کا انکار ”لا الہ الا اللہ“ کی تردید ہے: ... مصنف بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں ”سیر کبیر“، ج: ۲۳، ص: ۲۶۵ پر امام محمد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کا قول منقول ہے کہ: ”جو شخص کسی بھی (قطعی) حکم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہے ہوئے قول ”لا الہ الا اللہ“ کی تردید کرتا ہے۔“

امام بخاری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اپنی کتاب ”غلق افعال عباد“ میں فرماتے ہیں:

میں نے سفیان ثوری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے سنا وہ فرماتے تھے: کہ مجھ سے حماد بن ابی سلیمان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نے کہا:

”ابلُغ ابا فلان المشرک فانی بری من دینه و کان يقول القرآن مخلوق.“

ترجمہ: ..... ”تم ابو فلاں مشرک کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اس کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں میں اس سے بالکل بری ہوں، یہ ابو فلاں قرآن کو مخلوق مانتا تھا۔“

سفیان ثوری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں ”قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔“

علی بن عبد اللہ بن المدینی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فرماتے ہیں:

”القرآن کلام اللہ من قال انه مخلوق فهو کافر لا يصلی خلffe.“

ترجمہ:.... "قرآن اللہ کا کلام ہے، جو سے مخلوق کہے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔" امام ابو عبد اللہ بن حارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"نظرت فی کلام اليهود والنصاری والمجوس فما رأیت اضل فی کفر  
هم منهم وانی لاستجهل من لا يکفر هم الا من لا يعرف کفرهم" ترجمہ: "میں یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کے عقائد پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ خلق قرآن کے ماننے والے ان سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں، سوائے اس شخص کے جوان کے کفر سے واقف نہ ہو، اور جو کوئی بھی ان کو کافرنہیں کہتا، میں اس کو یقیناً جاہل سمجھتا ہوں۔" زہیر سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"سمعت سلام بن مطیع يقول الجهمیة کفار" ترجمہ:.... میں نے سلام بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ساکہ جہنمی (فرقہ والے) کافر ہیں۔"

امام بن حارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ما ابالي صلیت خلف الجهمی والرافضی ام صلیت خلف اليهود والنصاری ولا یسلم عليهم ولا یعادون ولا ینا کحون ولا یشهدون ولا توکل ذبائحهم" ترجمہ: میں ایک جہنمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں اور کسی یہودی یا نصرانی کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا (اس لئے کہ یہ دونوں فرقے یہود و نصاری کی طرح کافر ہیں، اگرچہ یہ خود کو مسلمان کہیں) نہ ان کو سلام کرتا چاہئے، نہ ان کے مریضوں کی عیادت کرنی چاہئے، نہ ان سے شادی بیاہ کرتا چاہئے، نہ ان کی شہادت قبول کرنی چاہئے، نہ ان کا ذبح کھانا چاہئے۔"

مصنف فرماتے ہیں کہ امام بن حارمی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی اور دوسری عبارت کتاب "الاسماء والصفات" میں بھی موجود ہے اور دوسری عبارت کو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی نقل کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب العلو" میں بند ذیل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کی ہے:

وقال ابن ابی حاتمہ الحافظ ثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا علی بن الحسن الکراعی قال قال ابو یوسف: ناظرت ابا حنیفة ستة اشهر فاتفق رأينا علی ان من قال القرآن مخلوق فهو کافر۔"

ترجمہ: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے کامل چھ ماہ تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ

کیا، تب ہم دونوں اس پر متفق ہوئے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق مانتا ہو وہ کافر ہے۔

اسی "کتاب العلو" میں امام محمد بن عاصی کی حسب ذیل روایت بھی موجود ہے، فرماتے ہیں احمد بن القاسم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ابو سلیمان جوز جانی نے فرمایا کہ میں نے امام محمد بن الحسن سے نامہ فرماتے تھے:

"وَاللَّهِ لَا أَصْلَى خَلْفَ مَنْ يَقُولُ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ وَلَا إِسْتَفْتَى إِلَّا أَمْرَتْ بِالْإِعْدَادِ." ۲

ترجمہ: ..... بخدا! میں قرآن کو مخلوق مانے والے کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھوں گا اور اگر مجھ سے استفتاء کیا جائے تو میں نماز کے لوتانے کا حکم دوں گا۔

فُضْلَيَّكَ: ..... حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

قرآن کے مخلوق ہونے سے ان ائمہ کرام کی مراد یہ ہے کہ قرآن کو نہ اللہ کی صفت مانا جائے، نہ اس کی ذات کے ساتھ قائم، بلکہ خدا سے الگ ایک علیحدہ مخلوق چیز قرار دیا جائے (تو یہ کفر ہے اور اس کا قائل کافر ہے) اس لئے کہ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے اور دوسری صفات کی طرح اس کی ایک صفت ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جیسے خدا اور اس کی تمام صفات قدیم اور ازلی وابدی ہیں، اسی طرح قرآن بھی قدیم اور ازلی وابدی ہے، باں نبی ﷺ پر اس کا نازل ہونا اور آپ ﷺ کا اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا بے شک حادث مخلوق ہے، لہذا کلام لفظی (یعنی نبی ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کے اجزاء) کا حادث اور مخلوق ہونا اس کے منافی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے مصنف بہبیت فرماتے ہیں کہ: شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ "مسایرہ" میں ص: ۲۱۲ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے (گمراہ فرقہ جہمیہ کے بانی) جہنم بن صفوان کو خطاب کر کے فرمایا: "اخراج عنی یا کافر!" (او کافر تو میرے پاس سے نکل جا)۔

اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "رسالہ تسعیدیہ" میں بند امام محمد بن عاصی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (کسی موقع پر) فرمایا: "لعن اللہ عمر و بن عبید" (اللہ عمر و بن عبید پر لعنت کرے)۔

شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ "مسایرہ" میں فرماتے ہیں کہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم کو کافر (یا ابن عبید کو ملعون) بطور تاویل کہا ہے (یعنی زجر و توبخ کے طور پر کافر یا ملعون کہہ دیا ہے، نہ یہ کہ امام کے نزدیک جہنم اسلام سے خارج اور کافر ہے، اسی طرح ابن عبید) ۳

حضرت مصنف بہبود شیخ ابن حمام کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”ہمارے خیال میں یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ امام ایک مسلمان کو کافر کہہ دیں، ورنہ آنحضرت کی حدیث شریف میں کسی مسلمان کو کافر کہہ دینے پر شدید وعید آتی ہے، اس لئے امام کی شان سے یہ قطعاً بعید ہے کہ جنم ان کے نزدیک کافر نہ ہو اور وہ اس کو کافر کہہ دیں۔“

امام ابو عبد اللہ بنخاری نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان نبی سے سند حارث بن ادریس نبی امام محمد نبی فقیہ کی ایک روایت سنی ہے کہ امام محمد نبی فرماتے ہیں:

”من قال ان القرآن مخلوق فلا تصل خلفه“

ترجمہ: ”جو قرآن کو مخلوق کہتا ہو تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو (وہ مسلمان نہیں ہے)“

نیز امام بنخاری نبی فرماتے ہیں میں نے ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن ابراہیم نبی و تابع کی کتاب میں محمد بن سابق نبی کی ایک روایت سند قاسم بن ابی صالح الہمدانی عن محمد بن ابی ایوب الرازی عن محمد بن سابق پڑھی ہے، اس میں محمد بن سابق کہتے ہیں میں نے امام ابو یوسف نبی سے دریافت کیا: ”اکان ابو حنیفہ یقول القرآن مخلوق؟“ (کیا ابو حنیفہ نبی قرآن کے مخلوق ہونے کے قابل تھے؟) امام ابو یوسف نے فوراً فرمایا: ”معاذ اللہ! اولاً انا اقوله،“ ”معاذ اللہ (ابو حنیفہ نبی) اور قرآن کو مخلوق نہیں“ اور نہ ہی میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں۔ محمد بن سابق کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ ”اکان یروی رأی جہنم؟“ کیا ابو حنیفہ نبی جہنمی عقائد کے قابل تھے؟ امام ابو یوسف نبی نے فرمایا: ”معاذ اللہ! ولا انا اقوله،“ ”معاذ اللہ! (وہ جنم کو کافر کہتے ہیں)“ اور نہ ہی میں جہنمی عقائد کا قابل ہوں۔

امام ابو عبد اللہ بنخاری نبی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی اثقوہ ہیں۔

نیز امام بہبود شیخ نبی فرماتے ہیں مجھے ابو عبد اللہ الحافظ نبی نے اپنے بطور اجازت سند ذیل میں:

قال انا ابو سعید احمد بن یعقوب الشقیری قال ثنا عبد اللہ بن احمد ابن عبد الرحمن بن عبد اللہ الدشتکی قال سمعت ابی یعقوب سمعت ابو یوسف القاضی:

اور بتایا کہ قاضی ابو یوسف نبی نے فرمایا:

”کلمت ابا حنیفہ سنتہ جرداء فی ان القرآن مخلوق ام لا؟“ فاتفاق رأیہ  
ورأیہ علی ان من قال القرآن مخلوق فهو کافر۔“

ترجمہ: ”کامل ایک سال تک میں ابا حنیفہ نبی سے اس مسئلہ پر بحث کرتا رہا ہوں کہ قرآن

ملحق ہے یا نہیں؟ تب آخر ہم دونوں اس پر متفق ہوئے کہ جو کوئی قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔“ ابو عبد اللہ امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث کے روایت سب ثابت ہیں۔

قاضی عیاض ہمیشہ ”شفاء“ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن منذر رام شافعی ہمیشہ سے روایت کرتے ہیں: ”لایستاب القدریة“ (قدریہ (معزلہ) سے توبہ نہ کرائی جائے) اور بیشتر علماء سلف ”قدریوں“ کو کافر کہتے ہیں۔

تمام کفریہ عقائد رکھنے والے فرقے اگرچہ موؤول ہوں اور قرآن و حدیث سے استدلال کریں تب بھی کافر ہیں، علمائے است اس پر متفق ہیں: قاضی عیاض

”ابن مبارک، اووی، وکیع، حفص بن غیاث، ابو الحسن فزاری، ہشیم اور علی بن عاصم اور ان کے معاویہ علماء اور بیشتر محمد شیخ، فقیہاء اور متكلّمین، جمیلہ، قدریہ، خوارج اور تمام گمراہ عقائد رکھنے والے فرقوں اور باطل تاویلیں کرنے والے ملحدوں کو کافر کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل ہمیشہ کا قول بھی یہی ہے۔

مصنف ہمیشہ فرماتے ہیں ”الفرق بین الفرق“ کے مصنف استاذ ابو المنصور بغدادی نے اپنی کتاب ”الاسماء والصفات“ میں غالباً (حد سے تجاوز کرنے والے) مبتدا میں کی تکفیر پر بہت یہ حاصل بحث کی ہے، جیسا کہ ”شرح احیاء“ میں ج: ۲۵۲ ص: ۲۵۲ پر مذکور ہے۔

حضرت مصنف اور اللہ مرقدہ تنہیہ فرماتے ہیں: ظاہر ہے کہ بدعت اور ہوی وہی گمراہی کہلاتی ہے جو کسی شبہ پر مبنی ہو (یعنی ہر بدعت اور گمراہی کسی نہ کسی شبہ اور تاویل پر مبنی ہوتی ہے) لہذا ان ائمہ محمد شیخ، فقیہاء اور متكلّمین کی اصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ تاویل موؤول کو کفر سے نہیں بچا سکتی (یعنی موؤول تاویل کرنے کے باوجود کافر ہے)۔

سنۃ اور بدعت کا فرق اور معیار محقق محمد بن وزیر ایمانی (کے مذکورہ ذیل بیان سے اس کی تائید و اسنخ ہے: ”ایشان حق میں“ ص: ۳۶۴ فرماتے ہیں:

”بے شرک سنۃ وہی ہے جسیکہ ثبوت انہیں ملک سے حد شہرت و پہنچا ہوا ہو اور نصوص شرعیہ کے طریق پر احادیث صحیحہ سے ثابت ہو اور اگر سنۃ کا معیار یہ ہے کہ انہیں بدعتیں (اور گمراہیاں) سنۃ کے تحت آ جائیں گی اس لئے کہ یہ مہتمم (اویل) اپنی بدعت (اویل) ہ شہرت قرآن و حدیث کی کسی عام یا مختلط نص سے یا اتنہا اس سے تھی پہنچ کر تھے۔“

**قطعی اور یقینی ارکانِ اسلام اور اسماء و صفاتِ الہمیہ کی کوئی (نئی) تفسیر بھی جائز نہیں:** یہی محقق (اسی کتاب کے ص: ۵۵ اپر) فرماتے ہیں:

”باقی تفسیر میں ہم اسلام کے قطعی ارکان اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تفسیر کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لئے کہ وہ بالکل واضح ہیں ان کی مراد اور مصدق (امت کے نزدیک) متعین ہے (ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے) ان کی تفسیر وہی گمراہ لوگ کرتے ہیں جو ان میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، جیسے مخدوب اطنیہ۔“<sup>۱</sup>

**گمراہ فرقہ کس قسم کی آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں:** یہی محقق اسی کتاب کے ص: ۲۶۰ پر فرماتے ہیں:

”یہی وجہ ہے کہ تم اس قسم کی عام یا مختمل آیات و احادیث سے اکثر بیشتر گمراہ فرقوں کو استدلال کرتا ہوا پاؤ گے اور ہر باطل عقیدہ والا اپنی تائید کے لئے اسی قسم کی عام یا مختمل آیات و احادیث کا سہرا لیتا ہے، حتیٰ کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی، جیسے اتحادی فرقے کے غالی لوگ (یعنی وحدۃ الوجود کے غالی قائلین جو ”اللہ“ کے سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے اور ”کل شیء هالک الا وجہہ“ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”هالک“ موجود نہیں معدوم ہوتا ہے)۔“

**احتیاط:** یہی محقق ص: ۳۴۰ پر فرماتے ہیں:

”جو گمراہ فرقہ غالی نہ ہو (مثلاً اپنے سوا اور مسلمانوں کو کافر یا گمراہ نہ کہتا ہو) اس کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ صحیح ہے کہ ان کو کافرنہ کہا جائے مگر ووشرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ اس بدعت ( fasad عقیدہ) اور اس کے ماننے والوں کو قطعی طور پر گمراہ اور برانہ کہا جائے، دوسرے یہ کہ جن علماء نے ان میں سے بیشتر کو کافر کہا ہے ان کو بھی برانہ کہا جائے، اس لئے کہ ان گمراہ فرقوں میں سے بعض فرقے وہ ہیں جن کی گمراہی حد سے زیادہ بڑی ہے ان کو کافرنہ کہنے کا بھی ہم قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، بہر حال دونوں جانہیں برابر اور غیر یقینی ہیں) بلکہ ہم اس مسلمہ میں توقف کرتے ہیں اور ان کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے یقینی علم اور قطعی فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے پسروں کرتے ہیں۔“

**حافظ ابن تیمیہ عَلَیْہِ السَّلَامُ کی رائے:** مصنف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نے بھی

<sup>۱</sup> یا یہی ہمارے زمانے کے ملدوہ آیات قرآنی کے ایسے نو ہمیں پڑتے ہیں اور مراد یہ تھا تھے میں جس سے امت کے کان بالکل نا آشنا ہیں ”اطیعو اللہ“ ایں ”اللہ سے مراد“ نہیں ملت ”یعنی حاکم وقت اور سب ادھمکات ہے۔

"الصارم المصلوٰل" میں ص: ۶۷ اپنی رائے کو اختیار کیا ہے، وہ پندرا ہوئیں حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"ان (خوارج) کے اس مسلک نے ان پر ایسے فاسد عقیدے لازم کر دیئے جن کے نتیجہ میں ان سے ایسے شفیع ترین اعمال و افعال سرزد ہوئے جن کی بناء پر امت کے بیشتر علماء نے ان کو کافر کہا ہے اور بعض علماء نے (ازر اور احتیاط) توقف کیا ہے (اور کافر کہنے سے احتراز کیا ہے)۔"



ملحدین و موّلیٰں کے بارے میں

حضرات محدثین، فقہاء، متنکلمین اور کبار محققین،

نیز مصنفوں کی ایک کثیر جماعت کے بیانات

حدیث خوارج کی تشریح اور اس کا مصدقہ: حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ

”مسویٰ“، ”شرح“ ”موطأ امام مالک“ میں ج: ۲، ح: ۱۲۹ پر ① فرماتے ہیں:

”یہ قوم (جس کے خروج کی رسول اللہ علیہ السلام زیر بحث حدیث میں خبر دی ہے) وہی خارجی ہیں جنہوں نے حضرت علیؓ کے زمانہ میں ان کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علیؓ نے ان کی بخشش کی فرمائی۔

”لا يجاوز حناجرهم“ کے معنی یہ ہیں کہ ان کے قلوب قرآن و قبول نہ کریں اور اعمال صالحہ (عمل بالقرآن) کے لئے سحر کرنے ہوں گے۔

”يمرقون من الدين“ کے معنی یہ ہیں کہ وہوں میں سے (غیر محسوس طبق یقین پر) کل جائیں گے۔ یہ ان کے کافر ہونے کی تصریح ہے، صحیحین کی روایت روایتِ الحذاذ اس سے زیادہ صحتی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فَايْسَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَإِنْ فِي قُلُوبِهِمْ أَجْرٌ الْمَنْ قُتِلُهُمْ“

(ابن ماجہ ح: ۲، ح: ۱۶۳)

ترجمہ: ”جہاں بھی وہ باخواہ آئیں ان قتل مارو، ان قتل سرتے میں قتل رہتے ہے اسے لئے اجر عظیم ہے۔“

”الرمیة“ وہ شکار ہے جس کو تم انشانہ بنانے کا قصد کر، اور اس پر تیر مارو، ”فیضظر“ میں اس تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکار کے جسم سے اتنی تیزی کے ساتھ بکل گیا کہ نہ اس پر ذرا سا خون اکا ن لید، ایسی ہی تیزی سے یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو، فوراً اس سے بکل جائیں گے کہ اسلام سے ان کا کوئی عاقہ باقی نہ رہے گا۔

امام شافعیؒ کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوئی اور اس کے دلائل امام شافعیؒ (خوارج کے بارے میں بہت احتیاط ہیں) فرماتے ہیں:

”اور اگر کوئی فرقہ خوارج کے عقائد اختیار کر لے اور مسلمانوں کی تمام جماعتیں سے عیجادہ ہو جائے اور سب کو ”کافر“ کہنے لگے تو بھی ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ تمیں حضرت علیؓ پرستی روایت پہنچی ہے کہ حضرت علیؓ نے مسجد کے ایک گوشہ میں ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنائے۔ ”ان الحکم الا اللہ“ (حکومت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے) اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا۔ یہ کلمہ حق ہے مگر جس غرض کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ اس کے بعد فرمایا تھا میرے ہم پر تمین حق ہیں۔

- (۱) تم کو اللہ کے گھروں (مسجدوں) میں آنے اور اس کا ذکر کرنے (نماز پڑھنے) سے نہ روکیں۔
- (۲) جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ رہیں (تم ہمارے دوش بدش دشمنان اسلام سے جنگ کرتے رہو) تم کو مالِ فیمت کے حصہ سے محروم نہ کریں۔
- (۳) تم سے جنگ کرنے میں پہلے نہ کریں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمیشہ فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس حنبلی محدثین کا قول ہے کہ (یہ کافر ہیں) ان کو قتل کرنا جائز ہے۔

## امام شافعیؓ کے استدلال کا جواب

از روئے روایت یعنی نقلي دليل: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں اذ روئے روایت یعنی نقلي دليل کی رائے ہے، میرے نزدیک از روئے روایت بھی اور از روئے درایت بھی محدثین کا قول ہی صحیح ہے، از روئے روایت تو صحیح بخاری کی دوسری مرفوئ روایت میں حضور ﷺ صاف اور صریح الفاظ میں فرماتے ہیں: ”فَإِنَّمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ“ باقی رہا حضرت علیؓ نے اس کا اثر تو اس کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ محض امام کی امامت (اور حکومت) پر اعتراض اور طعن و تشنیع کرنا اس وقت تک موجب قتل نہیں جب تک کوئی امام کی اطاعت سے دستِ شہادت ہو، بالآخر اطاعت سے انکار کرے گا تو باغی کہلانے کا یار ہزون (اور ضرور قتل کیا جائے گا) اسی طرح اگر ”ضروریات دین“ میں سے کسی امر کا انکار کرے گا تو اس انکار کی بنا پر ضرور قتل کیا جائے گا لیکن نہ اس وجہ سے کہ امام کی امامت پر اعتراض یا اس کی اطاعت سے انکار کیا جائے ( بلکہ اس لئے کہ اس نے نہ دوسری دین کا انکار کیا ہے، حضرت علیؓ نے کوئی کوئی قول کا مطلب صرف یہ ہے کہ محض امام کی امامت پر اعتراض اور طعن و تشنیع موجب قتل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروریات دین کا انکار یا امام کی اطاعت سے انکار اور بغاوت بھی ان کے نزدیک موجب قتل نہیں)۔

**نمیتیل:** اس کی مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ ایک مفتی کے سامنے جب کسی شخص مثلاً زید کے کسی خاص فعل عمل کا ذکر کر کے فتویٰ دریافت کیا جائے تو وہ اس پر بانٹ ہونے کا حکم لگاتا ہے، لیکن اسی شخص (زید) کے دوسرے فعل عمل کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر فاسق ہونے کا حکم لگاتا ہے اور جب کسی تیرے فعل کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر کافر ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ (ان تینوں فتوؤں میں کوئی تضاد نہیں، اپنی اپنی) جلد تینوں صحیح ہیں، اس لئے کہ جو فعل کا حکم الگ ہے، جس کے متعلق استفتاء کیا گیا، مفتی نے اسی کا حکم بیان کر دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تینوں قسم کے افعال کا مرتبہ ہو تو اس کے حق میں تینوں فتوے درست ہوں گے)

ندکورہ بالا واقعہ میں اس خارجی نے حضرت علی بن بیٹہ کے سامنے صرف مسئلہ "تحکیم" پر اعتماد اپنے کیا ہے، آپ بن بیٹہ نے اسی کا حکم بیان فرمادیا، اگر وہ خارجی ان کے سامنے قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے انکار کرتا، یا حوش کوثر کا انکار کرتا، یا اسی قسم کے کسی اور قطعی و یقینی عقیدہ یا حکم کا انکار کرتا تو آپ بن بیٹہ یقیناً اس پر کافر ہونے کا حکم لگاتے (البذا امام شافعی بھی کا حضرت علی بن بیٹہ کے اس اثر سے خارجیوں کے کافرنہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا)

باقي "اوْلَنِكَ الَّذِينَ نَهَايَ اللَّهُ عَنْهُمْ" والی حدیث منافقین کے حق میں ہے، نہ کہ زندیقوں اور ملحدوں کے حق میں (جیسا کہ عنقریب آتا ہے)

**کافر، منافق اور زندیق کا فرق:** حضرت شاہ ولی اللہ ﷺ نے فرماتے ہیں:

اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ دین حق کا مخالف اگر سرے سے حق کا اقرار ہی نہیں کرتا اور ن ظاہراً حق کو قبول کرتا ہے نہ باطنًا تو وہ "کافر" ہے اور اگر زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے اس کا منکر ہے تو وہ "منافق" ہے، اور اگر بظاہر تو دین حق کا اقرار کرتا ہے لیکن ضروریات دین میں میں سے کسی امر کی ایسی تشریح و تعبیر کرتا ہے جو صحابہؓ شیعہ ہوتا ہے عین کی تعبیر و تشریح کے، نیز اجماع امت کے خلاف ہے تو وہ "زندیق" ہے مثلاً ایک شخص قرآن کے حق ہونے کا تو اقرار کرتا ہے اور اس میں جنت و دوزخ کا جو ذکر آیا ہے اس کو بھی مانتا ہے مگر کہتا ہے کہ جنت سے مراد وہ فرحت و مسرت ہے جو مومنین کو اعمال صالح اور اخلاق فاضل کی وجہ سے حاصل ہوگی، اور نار جہنم سے مراد وہ ندامت و اذیت ہے جو کافروں کو اعمال شیعہ اور اخلاق ذمیمہ کی وجہ سے حاصل ہوگی اور کہتا ہے کہ اس کے سوا اور جنت و دوزخ کی حقیقت کچھ نہیں تو یہ "زندیق" ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے "اوْلَنِكَ الَّذِينَ نَهَايَ اللَّهُ عَنْهُمْ" صرف منافقین کے حق میں فرمایا ہے، نہ کہ زندیقوں (یا کافروں) کے حق میں بھی۔"

**از روئے درایت یعنی عقلی دلیل:** باقی محدثین کا قول عقولاً اس لئے صحیح ہے کہ جس طرح

شریعت نے ارتداد کی سزا قتل اس لئے مقرر کی ہے کہ یہ سزا ارتداد کا قصد کرنے والوں کے لئے ارتداد سے مانع ہو، اور اس دین حق کی حفاظت و حمایت کا وسیلہ بننے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اسی طرح اس حدیث میں (خوارج) زندلیق کی سزا قتل تجویز کی ہے تاکہ یہ سزا زندلیقوں کے لئے زندقة (دین کی تحریف) سے باز رکھنے کا وسیلہ بن سکے، اور دین میں ایسی فاسد تاویلوں کا راستہ بند کرنے کا ذریعہ بن سکے جن کو زبان پر لانا بھی درست نہیں۔

**تاویل کی قسمیں اور ان کا حکم اور زندقة کی حقیقت** حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”یا ورکھئے! تاویلیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ تاویل جو قرآن و حدیث کی کسی قطعی نص اور اجماع امت کے مخالف نہ ہو، دوسری تاویل وہ ہے جو کسی نص قطعی یا اجماع امت کے منافی اور مخالف ہو۔ ایسی تاویل کرنا بھی الحاد و زندقة ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت کا، یا عذاب قبر کا، یا منکروں کے سوال و جواب کا، یا صراط، حساب اور جزاء اعمال وغیرہ کا انکار کرے خواہ یہ کہے کہ میں ان (احادیث کو صحیح اور) ان کے راویوں کو ثقہ نہیں مانتا، خواہ یہ کہے کہ راوی تو ثقہ ہیں مگر یہ احادیث موقول ہیں اور تاویل ایسی بیان کرے جو نہ صرف غلط اور فاسد بلکہ اس سے قبل کبھی نہ سنی گئی ہو تو وہ ”زندلیق“ ہے اس طرح جو شخص مثلاً شیخین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو بکر و عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے کہ یہ ”جنتی نہیں ہیں“، حالانکہ ان دونوں حضرات کے حق میں بشارتِ جنت کی حدیثیں حدتو اتر کو پہنچ چکی ہیں، یا یہ کہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو ضرور ہیں، لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کے نام سے موسوم نہ کیا جائے“ (یعنی کسی کو نبی نہ کہا جائے) باقی نبوت کی حقیقت یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لئے معمouth ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اس کا گناہوں سے معصوم ہونا اور اجتہادی امور میں غلطی پر قائم رہنے سے محفوظ ہونا اور اس کے علاوہ خصائص نبوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اماموں کے لئے ثابت اور محقق ہیں۔ ”تو یہ شخص بھی قطعاً ”زندلیق“ ہے اور تمام خنی، شافعی، علماء متاخرین ایسے شخص کے کفر اور قتل پر متفق ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَحْسَابِ

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا بیان نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

اس بیان سے ”زندقة“ کی حقیقت اور اس کا حکم دونوں معلوم اور واضح ہو گئے، نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ضروریاتِ دین میں تاویل کفر سے نہیں بچا سکتی۔

نیز فرماتے ہیں کہ: امام شافعی رض نے خوارج کو کافر نہ کہنے کے بارے میں حضرت علی رض کی جو روایت پیش کی ہے "الصارم المسلط" میں ص: ۵۷ اپر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "السنة الرابعة عشر" کے تحت پندرہویں حدیث کے ذیل میں اس پر نہایت سیر حاصل بحث کی ہے اور میرے نزدیک حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق "الصارم" میں اس سے زیادہ صحیح اور درست ہے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "منہاج السنۃ" میں اختیار کی ہے وہ ص: ۱۹۳ اپر فرماتے ہیں:

"وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة: أحدهن ما هو كفر، مثل قوله:

ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله. (منہاج السنۃ ص: ۱۹۳)

ترجمہ: "غرض اس (شکوہ رسول کے) سلسلہ میں تین قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک وہ کلمات جو یقیناً کفر مخصوص ہیں، جیسے ذوالخوبی صراحت کا یہ قول کہ: "یقیناً لوجه اللہ تھیں کی گئی ہے۔" (اس لئے ذوالخوبی صراحت ضرور کافر ہے)۔"

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور جب خوارج کا یہ سرگروہ ان کلمات کی بنابر کافر ٹھہرا ہے تو اس کے پیرو اور متبوعین بھی یقیناً کافر ہیں، نیز فرماتے ہیں یہ تو مخالفوں اور دشمنوں کے تکلیف وہ اور تو ہیں آمیز کلماتِ شکایت ہیں جن کا مقصد ہی ایذا رسانی اور توہین ہے، باقی مذکورہ ذیل کلماتِ شکوہ و شکایت: "ان نسائك ينشدنك الله العدل" (بے شک آپ کی بیویاں آپ سے اللہ کے نام پر انصاف چاہتی ہیں) (یہ تو ایک محبت و عظمت اور عقیدت احترام سے لبریز قلب سے نکلی ہوئی انجام ہے ① اس کو مودی ذوالخوبی صراحت کی ہر زدہ سرائی اور زہر افشاٹی سے کیا نسبت) ان کا مقصد صرف ازدواج مطہرات کے درمیان مساوات برتنے کی ورخواست و استدعاء ہے اور اس نے کہ العیاذ باللہ حق سے اخراج اور ظلم و جور کا آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اذراام۔

قضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے "شفا" میں ج: ص: ۳۲۲ پر فصل "فَإِنْ قُلْتُ لَمْ يَقْتَلْ إِنْ -" کے ذیل میں یہی فرق بتایا ہے۔

"حدیث مروق" کی محدثانہ تحقیق اور خوارج کے مرتد کافر ہونے پر استدلال مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

① اس لئے کہ یہ محبت بھرے الفاظ اس شخص کی ذیان سے نکلے ہیں جس کا باطن ایمان و یقین کے نوہ سے رہیں اور وہ محبت و احترام سے لبریز ہے اس لئے یہ یقیناً ایک ایسے امر کی استدعا ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر واجب نہیں، یعنی تقویم اور بیویوں کے درمیان مساوات اس کے بر عکس ذوالخوبی صراحت کے زہر میلے کلمات اس کے خبث باطن اور ظلمت قلب کے ترجیمان ہیں اور اس کا مقصد صرف اتوہیں رسول ہے۔ اذ مرجم۔

یاد رکھئے! ان امور سے متعلق حدیث جن کی بنا پر ایک مسلمان کو قتل کرنا مباح ہے ① "صحیح بنخاری"، "کتاب الدیات" میں باب "قول الله تعالیٰ ان النفس بالنفس" کے تحت صحیح بنخاری گذشتہ نسخوں میں ذیل کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے: ②

”لا يحل دم امرأ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بحادي ثلات: ((النفس بالنفس . (٢) والثيب الزاني (٣) والمفارق من دينه التارك للجماعة .“ (بخارى ن ٢٠١٦)

ترجمہ: جو مسلمان اے اللہ میں اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے دے اس کا خون بہن تھا حلال اور جائز نہیں، مجہ، ان تمیں صورتوں سے (جرموں سے جو مو جب قتل ہیں) (۱) جان کے ہے لئے جان (مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا)۔ (۲) شادی شدہ ہو کر زنا کرے (سنگار کیا جائے گا)۔ (۳) دین سے نکل جائے، جماعت مسلمین سے الگ ہو جائے (زندگی مرمدہ سے قتل کیا جائے گا)۔

حنت مصنف بیفرماتے ہیں کہ: حافظ ابن حجر نے اس "المارق للدینه التارک للجماعۃ" کا اولی مصدق مرتد کو قرار دیتے ہیں اور اس کی تائید میں احادیث سے شواہد پیش فرماتے ہیں، یکن باکل یہی عنوان "المرroc من الدین والاسلام" اور بعین یہی لفظ: "يمرقون من الدين" خوارج کی مشہور احادیث میں آئے ہیں لہذا ان خوارج کا حکم بھی وہی ہونا چاہتے جو مرتدین ہاتے، یعنی کفر اور قتل (ذکر باغی مسلمانوں کا)۔

خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ علیہ السلام کی تحقیق: (حافظ ابن تیمیہ نے اپنے "فتاویٰ

**۱** سخت سخت فرائد مقدور حشریہ میں دو اخونا صدر داورا ہن عیا کے قتل نہ کرنے کے بارے میں ملادے لئے ایک قابل ترقیاتی زبان فرمائتے ہیں

وہ ہے! اللہ جو ہے نے زادخوبی سے اور اتنے عیاد کے واقعہ میں حکم شرعی (قتل گرد ہے) پر تقدیر کی جانب کو ترجیح دیتی ہے (یعنی آپ سے چونکہ عالم ہمیں کہ ان سے قتل نکوئی اختیار سے میرے ہاتھ سے مقدر نہیں ہیں)۔ فرماتے ہیں ”اور اس لئے بھی (آپ ہمیں) نے ان واقعہ نہیں ہے۔“ پھر امورِ نبوت کی تکمیل آپ ہمیں کے خفاء کے باقیوں سے ہوئی بہتر ہے (تاکہ وہ بھی منشا، الہی اور حکمرانی و پورا گرتے ہے۔) اسی سے حملہ میں ایسا ہوا تھا کہ ان کا باقی بھی خداوندی ہاتھ پر اڑان کا فعل ہی آسمانی لٹھا ہو چکا۔ از مصنف ”سر

۲) مولانا ابن حجر العسقلانی "میں نے ۱۲ ص۔ کے اپر کشمیہنی سے بڑا یت ابوذرؑ اسی حدیث و المفارق لدینہ الکافر لمحماعہ" ۔ الفاظ کے ساتھ روایت مرتبے ہے، کہ کشمیہنی کے عادوں ہاتھی تمام حضرات الامام بخاری سے اس ۔ جائے تفرق من الدین "روایت مرتبے ہے، بعی و محسن اور مستحب ائمہ روایت" "العارف لدینہ" کے الفاظ کے ساتھ روایت مرتبے ہے، "یہ حدیثے الہام" بخاری سے تمیں طریق سے مرہلی ہے۔ (۱)) کشمیہنی کے طریق میں "العارف لدینہ" کے انعامات ہیں۔ (۲) اسکے اور مستحبی کے طریق میں "العارف لدینہ" کے انعامات ہیں۔ (۳) اور بخاری کے عام ائمہ میں "العارف من الدین" کے انعامات ہیں اور تجیخت ایک روایت ۔ الفاظ دوسرا کی روایت کے الفاظ کی شرح کرتے ہیں، فرق صرف الفاظ کا ہے بعی اور مراد ایک ہے۔

میں چنگیزی تاتاریوں اور ان کے اعوان و انصار مسلمانوں کے بارے میں ایک استقہاد کے جواب سے تحت ان تمام فرق باطلہ وزانہ کے معتقدات و احکام مع: لائل بیان فرماتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے یا کہلاتے ہیں، مصنف ہبہ دیاں طویل و مبسوط بیان سے اپنے موضوع سے متعلق مذکورہ ذیل اقتباسات پیش فرماتے ہیں)

حافظ ابن حییہ نبیہ اپنے "فتاویٰ" میں ج: ۲۸۵ پر اول خوارج کے متعلق عالمہ احمد

کے وقوف نقائص فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

"تمام امت خوارج کی مدت اور ان کو گمراہ کرنے پر متفق ہے، اختلاف صرف ان کو کافر مٹنے یا نہ کرنے میں ہے، اس سلسلہ میں امام مالک رض اور امام احمد رض کے مذهب میں، وقول ہیں (یعنی مالکی اور نابیہ کے مستقل و قول ہیں، بعض کافر کہتے ہیں اور بعض نہیں)، امام شافعی رض کے مذهب میں بھی ان کو سنکریتی کے بارے میں ایسا ہی اختلاف ہے (بعض شواع کافر کہتے ہیں بعض نہیں) اس لئے امام احمد رض نہیں، ائمہ مجتہدین کے مذهب میں ان خوارج کے بارے میں پہلے طریق کارکی بنایا (کہ تمہارا بھائی فوت یکساں میں اور ان کا حکم بھی ایک ہے) دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یہ باغیوں کی طرح مسلمان ہیں، دوسرے یہ کہ یہ مرتدین کی کافر ہیں، ان کو اہتداء بھی (یعنی آمادہ جنگ ہونے بغیر بھی) قتل کرنا بائز ہے، اسی طرح ان کے قیدیوں کو قتل کرنا بھی درست ہے، بھاگتے ہوؤں کا تعاقب کرنا بھی جائز ہے اور جو قبضہ میں آجائیں ان سے مرتد کی طرح تو پہ کراں جائے اگر تو پہ کر لیں تو فہارند قتل کر دیا جائے، جیسا کہ ان زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق جو امام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں، امام احمد رض کے وقول ہیں ایک یہ کہ وجوب زکوٰۃ کا اقرار کرنے کے باوجود محض امام کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے کی بن پر ان کو کافر و مرتد قرار دیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کو باقی مسلمان کہا جائے۔"

اس کے بعد ص: ۳۰۰ پر حافظ ابن حییہ نبیہ اپنی رائے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

"صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ (چنگیز خانی ترک، تاتاری) تاویل کرنے والے باغیوں میں سے نہیں ہیں، اس لئے کہ ان کے پاس کوئی قابل قبول تاویل جس کی لغتہ گنجائش ہو، قطعاً نہیں ہے، یہ تو بتیہ دین سے نکل جانے والے خارجیوں، زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مرتدوں، مسلمان ہونے والے باغیوں سو، کو حلال کہنے والے اہل طائف، فرقہ خرمیہ اور اسی نوع کے ہے، یہ فرقوں کے قبیل سے ہیں، ان سے اسلام کے احکام شرعیہ سے نکل جانے (اور کافر ہو جانے) کی بنا پر بمعیش بجنگیں کی گئی ہیں۔"

تکفیر خوارج کے باب میں فقہاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ: اس کے حافظ ابن

تیمیہ بیسید فقہاء کو جس چیز سے (خوارج کے بارے میں) دھوکہ لگا ہے (اور انہوں نے ان پر باغی مسلمان ہوتے کا حکم لگایا ہے) اس پر متنبہ فرماتے ہیں:

”یہ ایک مقام ہے جس میں آش و بیشہ فقہاء نے دھوکہ کھایا ہے، صرف اس لئے کہ موئیین مصنفین نے باغیوں سے جنگ کرنے والیں میں مانعین زکوٰۃ اور خوارج کی جنگ کو اور حضرت علی بن ابی ذئبؑ کی اہل بصرہ اور حضرت معاویہ بن ابی ذئبؑ اور ان کے تمنواوں کے ساتھ جنگ کو ایک قرار دے کر ”قال بغاۃ“ کے تحت دونوں کو جمع کر دیا اور ان تمام جنگوں (یکساں اور) شرعاً مامور بقرار دے دیا، اس طرز کے احکام، مسائل مذکورہ کے جیسے یہ تمام لڑائیاں سب یکساں اور ایک نوع کی ہیں اور ان مصنفین کی بہت بڑی نظری ہے، اس سلسلہ میں صحیح رائے (اور فیصلہ) وہی ہے جو امام اوزاعیؓ، ثوریؓ، امام مالکؓ، امام احمدؓ وغیرہ ائمہ حدیث و سنت اور اہل مدینہ کی ہے کہ ان دونوں قسموں لڑائیاں میں فرق کرنا چاہئے۔ (پہلی قسم کے لوگ کافر و مرتد ہیں اور ان سے لڑائیاں ”قال کفار“ کے ذیل میں آئی چاہئیں اور ان پر کفار کے احکام مرتب کرنے چاہئیں، اور دوسری قسم کے لوگ مسلمان باتی ہیں ان سے لڑائیاں ”قال بغاۃ“ کے ذیل میں آئی چاہئیں اور ان پر مسلمان باغیوں کے احکام مرتب کرنے چاہئیں)۔“

(و مکھنے حافظہ ابن تیمیہ بیسید کے اس بیان سے خوارج کا ان کے نزدیک کافر ہونا محقق ہو گیا)

روزہ، نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہو جاتا ہے: حافظہ ابن تیمیہ بیسید ص: ۲۹۱ پر ان نامہ مسلمانوں کے متعلق جوتا تاریوں کا ساتھ دے رہے تھے، فرماتے ہیں:

”اور ان چنگیزیوں کے اعوان و انصار مسلمانوں (میں احکام شرعیہ اسلامیہ سے اتنا ہی ارتدا و موجود ہے جتنا اس (چنگیز خان نے) احکام شرعیہ اسلامیہ سے انحراف کیا ہے، اور جبکہ سلف صالحین (صحابہؓ و تابعینؓ) نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کا نام مرتد رکھا، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور عام مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کرتے تھے (تو ان کو کیوں مرتد کہا جائے؟ یہ صریح کفر یہ شرکیہ ائمماں و افعال کے مرتكب ہیں، معلوم ہوا حافظہ ابن تیمیہ بیسید کے نزدیک موجب ارتدا و قول فعل کا ارتکاب اور ضروریات دین سے انکار کرنے والے، روزہ، نماز کی پابندی کرنے کے باوجود کافر و مرتد ہو جاتے ہیں)۔“

کلمہ شہادت پڑھنے اور خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود انسان کافر و مرتد ہو جاتا ہے: ..... ص: ۲۸۲ پر ”الطريقة الثانية“ (کہ دونوں قسم کی لڑائیوں کو الگ الگ رکھا جائے)

کے تحت فرماتے ہیں:

”بحث ان تاتاریوں کے متعلق ہے جو آئے دن شام پر خونریز حملہ کرتے اور بے قصور مسلمانوں اور ان کے بیوی بچوں کا خون بھاتے رہتے ہیں، حالانکہ زبان سے کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، خوب کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس پہلے کفر سے کنارہ کش بھی ہو گئے ہیں، جس پر پہلے قائم تھے (یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے جان و مال کو مبارج اور لوٹ مار کو حلال سمجھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مسلمان باغی یا کافر و مرتد؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے لئے حلال سمجھے وہ کافر ہے)۔“

ص: ۲۳۲ پر (ان لوگوں کی تردید و تجھیل کرتے ہوئے جو ”جمل“ و ”صفین“ کی جنگوں کو اور خوارج و حروریہ کی جنگوں کو یساں قرار دیتے ہیں) فرماتے ہیں:

”جیسا کہ دین سے نکل جانے والے خارجیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے (کہ وہ بھی رافضیوں اور معترضیوں کی طرح ”جمل“ و ”صفین“ میں جنگ کرنے والے صحابہ کو کافر یا فاسق کہتے ہیں) اس لئے سلف صالحین (صحابہؓ تجھہ و تا بعین جسی) الہامد وہیں کے ان کی تکفیر کے متعلق بھی، قول مشہور ہیں (جن کا تذکرہ سابقہ اقتباسات میں آپکا ہے)۔“

انہیا، یعنی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع اور ان کی توہین و تذلیل کرنے والے مسلمان، کافر و مرتد ہیں: ص: ۲۳۶ پر باطنی فرقہ کے شہابان مصر (فاطمیین) کے کفر واردہ اور بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”پھر ان باطنیوں نے حضرت مسیح (عیسیٰ) علیہ السلام کو ناص طور پر بدف طعن و تشنیع بنایا اور ان کو یوسف نجار (برضی) کی جانب منسوب کیا (کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے) ان کو قتل و مدبرت کورا اور بے وقوف بتایا اس لئے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ آگئے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، لہذا یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرتے میں یہودیوں کے ہمتوں میں ہیں (اس لئے کہ انہیا، یعنی خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کو بدنا صور سو اکرنا بیویش سے یہودیوں کا شیوه رہا ہے) بلکہ یہ تو یہودیوں سے بھی زیادہ برے اور ضرر رہا اس میں کہ مسلمان اور قرآن کے قبیع کیا کرنا ہے، یعنی پر طعن و تشنیع اور ان کی توہین و تذلیل کرتے ہیں (اس لئے یقین کافر و مرتد ہیں)۔“

ص: ۲۹۳ پر اس امر کی (کہ کفار کی نسبت ایک مسلمان کے موجب کافر و مرتد اوقتوں بغل کی

شاعت اور مشرت بہت زیادہ ہے) مزید وضاحت فرماتے ہیں:

”اس لئے کہ اصلی مسلمان جب اسلام کے کسی بھی قطعی حکم یا عقیدہ سے منحرف و مرتد ہو جائے تو وہ اس کافر سے بدر جہاز اند پر رہ ساں ہوتا ہے جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا جیسے وہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مرتدین جن سے حضرت ابو بکر صدیق رض نے (دوسرے تمام کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ کر) جنگ ① کی (اس لئے کہ ان کا کفر و انحراف اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا)۔“

زندیقوں اور بلحدوں کا الحاد و زندقة ظاہر ہو جانے اور منظر عام پر آجائے کے بعد ان کی توبہ بھی مقبول نہیں: (حضرت مصنف مسیح زندیقوں اور بلحدوں کے کفر و ارتداد کو ثابت کرنے کے بعد ان کی توبہ کے معنیر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فقہاء کے اقوال نقش فرماتے ہیں) صاحب ”در مختار“ ان فرقوں کے ذیل میں جن کی توبہ مقبول نہیں فرماتے ہیں:

فتح القدیر میں ہے کہ وہ منافق جو (دل میں) کفر کو چھپاتا اور (زبان سے) اسلام کا اظہار کرتا ہے اس زندیق (بے دین) کی طرح ہے جو کسی دین کو بھی نہ مانتا ہو، (اور جیسے اس کی توبہ مقبول نہیں، ایسے ہی اس کی توبہ مقبول نہیں) اسی طرح اس شخص یا فرقہ (کی توبہ بھی مقبول نہیں) جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ (ظاہر میں مسلمان کہلانے کے باوجود) باطن میں کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، مثلاً شراب کی حرمت کہ ظاہر میں تو اس کے حرام ہونے کے اعتقاد کا اظہار کرے (مگر باطن میں شراب کو حلال جانتا اور سمجھتا ہو) پوری بحث فتح القدیر میں ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جیسے زندیق کی توبہ کا اعتبار نہیں، اس لئے کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ایسے ہی اس منافق کی توبہ پر بھی اطمینان نہیں)۔

علامہ شامی مسیح ”در مختار“ میں ج: ۳ ص: ۲۹ و ۳۰ طبع جدید ۱۳۲۲ھ پر ”در مختار“ کی مذکورہ بالا

عبارت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”وزرعین میں تمہید کے حوالہ سے مذکور ہے کہ ایسے گمراہ فرقے جن کی گمراہی اس طرح ظاہر ہو جائے اور منظر عام پر آجائے کہ (اس کی بنابر) ان کی تکفیر و اجبہ ہو جانے، اگر وہ اس گمراہی سے باز نہ آئیں یا توبہ نہ کریں تو ان سب کا قتل کر دینا جائز ہے، ہاں اگر توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو

① فتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا اقتیادات سے قطعی طور پر واضح و تحقیق ہو گیا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تمام افراد فرقے جو مسلمان کہلانے اور اہل قبلہ میں سے ہونے کے باوجود اسلام کے قطعی اور یقینی عقائد و احکام سے انحراف و انکار کریں، انہیا علیہم السلام خصوصاً حضرت مسیحی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین و تذہیل کریں، وہ تصرف کہ فرقہ مرتد اور اجبہ اقتلیں ہیں بلکہ دوسرے تمام کافروں اور غیر مسلموں سے زیادہ اسلام کے دشمن اور مشرت رہاں ہیں، ان کی کتنی سب سے زیادہ ضرورتی اور مقدم ہے، یہ زیادہ کہ ان کی کوئی تاویل بھی ہوئے، معتبرین سے از مرجم۔

ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، بجز رافضیوں میں سے ابادیہ، غالیہ اور شیعہ فرقوں کے اور فلاسفہ میں سے قرامط اور زنادقہ کے کہ ان کی توبہ کسی حال قبول نہ ہوگی، توبہ کریں یا نہ کریں، توبہ کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہر حال ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس لئے کہ یہ لوگ خالق عالم تو کسی کو مانتے ہی نہیں پھر توبہ واستغفار کس سے کریں گے؟ اور ایمان کس پر لائیں گے؟“

اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح اور اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں:

”بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے گمراہ عقیدوں کا راز فاش ہونے (اور مسلمان حاکم تک معاملہ پہنچنے) سے پہلے تو پہلے کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی ورنہ نہیں۔“  
وہ فرماتے ہیں:

”امام ابوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا تقاضا بھی یہی ہے اور یہی بہترین فیصلہ ہے۔“

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ج: ۳ ص: ۲۸۲ باب المرتد کے ذیل میں زندیق کی توبہ قبول نہ ہونے کے ثبوت کے لئے فرماتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم سے مروی ہے کہ زندیق کی طرح اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی جو بار بار مرتد ہوتا رہا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے بار بار ایسا کیا (یعنی بار بار توبہ کی اور بار بار مخالف و مرتد ہوتا رہا ہو) تو اس کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی گھات میں لگے رہیں، جو نبھی کسی وقت زبان سے گلم کفر کہے تو زد اسے قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرے، اس لئے کہ اس شخص کے طرز عمل سے توبہ واستغفار کے ساتھ استہزا ظاہر ہو چکا (اور ایسے شخص کی توبہ ہی کیا جو توبہ واستغفار کے ساتھ بھی استہزا کرے)۔“<sup>❶</sup>

**ضروریات دین کی طرح ہر قطعی امر کا انکار بھی موجب کفر ہے، ضروری اور قطعی کافر کا فرق:** علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”ردا الختار“ ج: ۳ ص: ۲۸۳ پر فرماتے ہیں:

”بظاہر شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کا حکم صرف ان امور کے انکار کے ساتھ مخصوص ہے جو ضروریات دین میں سے ہوں (یعنی بطور تو اتر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہوں) حالانکہ ہمارے (احناف کے) نزدیک تو تکفیر کے لئے صرف قطعی الثبوت ہونا شرط ہے، اگرچہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول فعل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے

❶ مذکورہ بالا اقتباسات سے محقق ہو گیا کہ ملکہ اور زندیق کی توبہ کسی نزدیک بھی اور کسی صورت میں بھی مقبول نہ ہوگی۔ از مترجم

جو موجب تو ہیں و استخفاف نبی ہو، اسی لئے شیخ ابن ہمام رض نے "مساہیہ" میں فرمایا ہے  
"ما ینفی الاستسلام او یوجب التکذیب فهو کفر"

ترجمہ: "ہرود (قول فعل) جو تسلیم و اطاعت کے منافی ہو یا تکذیب (نبی) کے لئے موجب ہو  
وہ کفر ہے۔"

چنانچہ وہ تمام موجب تو ہیں امور جو ہم حفیہ کی جانب سے نقل کر چکے ہیں، جن میں قتل نبی سب  
سے اہم ہے کہ اس میں دین کی تو ہیں سب سے زیادہ واضح ہے (پہلی شق میں داخل ہیں  
یعنی) اطاعت و تسلیم دین کے منافی ہیں (اس لئے کہ تو ہیں و استخفاف تسلیم و اطاعت کے قطعاً منافی  
ہے) اور ہر اس امر کا انکار جو قطعی اور یقینی طور پر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو (وسری قسم میں داخل  
ہے یعنی) تکذیب (نبی) کا موجب ہے۔ یاتی ان قطعی امور کا انکار جو ضروریات دین کے تحت نہیں  
آتے (یعنی ان کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے قطعی یقینی نہیں ہے) مثلاً متوفی کی لڑکی کے ساتھ اس کی  
پوتی کو بھی حصہ کا مستحق قرار دینا جو جماعت امت سے ثابت (اور یقینی) ہے تو حفظ ① کے بیان  
کے مطابق ان کا انکار بھی موجب کفر ہے (اس لئے کہ یہ انکار اطاعت و تسلیم دین کے منافی ہے) اس  
لئے کہ حفیہ نے تکفیر کے لئے صرف ثبوت من الدین کے قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے (ضروریات  
دین میں سے ہونا ان کے نزدیک شرط نہیں ہے) نیز فرماتے ہیں: اور یہ بھی ضروری ہے کہ منکر کو اس  
کے قطعی ہونے کا علم بھی ہو، اس لئے کہ حفیہ کے نزدیک جن دو چیزوں پر تکفیر کا مدار ہے، یعنی ایک  
تکذیب نبی اور دوسرے استخفاف و تو ہیں دین، یہ اسی وقت متحقق ہوں گے جب کہ منکر کو اس بات کا علم  
بھی ہو (کہ میں اس امر قطعی کا انکار کر کے تکذیب نبی یا تو ہیں دین کا ارتکاب کر رہا ہوں) اور جب  
اس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو تو اس کو کافرنہیں کہا جا سکتا، الایہ کہ اب علم اس کو بتانا نہیں (کہ تم اس امر قطعی  
کا انکار کر کے تکذیب نبی یا تو ہیں دین کے مرتكب ہو رہے ہو) اور اس کے باوجود وہ (باز نہ آئے  
اور) اپنی بات پر اڑا رہے (تو بے شک اس کو کافر کہا جائے گا)"

### تکفیر کا ایک کلیہ قاعدہ: کسی بھی حرام قطعی کو حلال کہنے والا کافر ہے۔ حضرت

① حاصل یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار تو متفق طور پر موجب کفر ہے، یاتی حفیہ دین کے ان قطعی امور کے انکار کو  
بھی موجب کفر کہتے ہیں جو اگر پر ضروریات دین میں سے تو نہ جوں یعنی رسول اللہ ﷺ سے ان کا ثبوت تو قطعی نہ ہو، بل قطعی انکا خال  
اجماع وغیرہ سے وہ ثابت ہوں، اس بیان سے ضروریات دین اور امور قطعیہ: "لَبِحْيَ، لَخْ بُوْيَ، لَقْنَيْ" ہر اس امر کو کہتے ہیں جو دلائل  
قطعیہ سے ثابت ہو اور "ضروری" ہر اس امر تو کہتے ہیں جس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے قطعی ہو، یعنی ابتو تا اتر رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہو  
دلائل قطعیہ چار ہیں: کتاب اللہ، خبر متواتر، اجماع، قیاس جلی۔ بالفاظ: مگر ہر امر ضروری قطعی ہے لیکن ہر امر قطعی کے لئے ضروری ہونا شرط  
نہیں، قطعی عام ہے اور ضروری خاص، یہی ضروری اور قطعی میں فرق ہے۔ ازمترجم۔

مصنف بہبودی، "ستنپری" کے عنوان سے "شامی" کا مذکورہ ذیل اقتباس نقل فرماتے ہیں اور ان بے باگ اوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بے دھڑک حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں:

”الْبُحْرَانِق“ علامہ شامی ”البحر الرائق“ کے حوالہ سے ”رواح التجار“ میں ج: ص: ۲۸۳ پر فرماتے ہیں:

”البحر الرائق“ میں مذکور ہے کہ (تغییر کے باب میں) قائدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی امر حرام کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو اگر وہ امر حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) نہیں ہے تو اس کے حلال کہنے والے کو کافرنہ کہا جائے گا، مثلاً غیر کامل (یعنی کوئی شخص لوگوں کے مال کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہو) اور اگر وہ حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کافر کہا جائے گا، بشرطیکہ کہ قطعی دلیل سے اس کی حرمت ثابت ہو (جیسے کہ شراب و خزیر) ورنہ نہیں، (یعنی اگر اس حرام لعینہ کی حرمت کسی قطعی دلیل سے ثبت نہ ہو تو اس کے حلال ماننے والے کو کافرنہ کہا جائے گا) بعض علماء کی رائے ہے کہ (صاحب البحر الرائق کی بیان کردہ) تفصیل (اور فرق) اس شخص کے حق میں تو درست ہے اور جو (حرام لعینہ اور حرام لغیرہ اور اس کے فرق کو) جانتا ہو لیکن جو شخص اس سے ناواقف ہے اس کے حق میں یہ حرام لعینہ اور حرام لغیرہ کا فرق معترض ہو گا، بلکہ اس کے حق میں صرف قطعی ہونے یا نہ ہونے پر مدار ہو گا اگر امر قطعی کی حرمت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ورنہ نہیں، مثلاً: اگر کوئی کہے کہ شراب حرام نہیں ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، تفصیل کے لئے البحر الرائق کی مراجعت کیجئے۔“

مصنف پسیغفرماتے ہیں: علامہ شامی نے "زکوٰۃ الغنم" کے ذیل میں ج: ۲ ص: ۳۵ پر اصرائیل کی ہے کہ تلیفیر کا مدار قطعی ① ہونے پر ہے، اگرچہ حرام غیرہ ہی ہو۔ (یعنی حرام غیرہ کو ہی حلال کہے اور اس کی حرمت قطعی ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا) فرماتے ہیں: مسئلہ نماز بدوں طہارت کے ذیل میں ج: اص: ۳۷ پر بھی کچھ اس کا بیان آیا ہے۔

اصول دین اور امور قطعیہ کا منکر متفقہ طور پر کافر ہے۔ (علامہ ابن عابدین شامی جسے "رد المحتار" میں ج: ۳ ص: ۳۱۰، ۲۲۸ پر طبع جدید "باب البغا" میں ترک تکفیر خوارج سے متعلق "فتح القدر" کی وہ عبارت جس کا حوالہ صاحب درمختار نے دیا ہے نقل کرنے کے بعد بطور استدراک

**۱** ماذ میں ہو لوگ ۲۰ (مو) جسی قطعی چیز کو حال کہے ہے تیں حالانکہ اس کی حرمت قرآن میں منصوص ہے ”واحد اللہ السمع و حرم الرسم“ اس پتے ایساں لی گلریزی چیز ہے جو آنحضرتؐ کی صرف اسی تحملی ربوپا اہل طائف سے مانا جائے گا۔ اسی اعداء کو عدماں کو پکے تھے اور روز و نیک ۳ قائل تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”یا آئھا دین اماؤ نَفْوَ اللَّهِ وَذَرُوا مَا يَقْنَى مَنْ لِيَدِكُمْ مَكْمُومٌ فَإِنَّمَا يَنْعَلُونَ أَفَدِرْ بَحْرُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ ۴ آئیت انجی اہل طائف کے چیز میں ہائل ہوئی ہے اور ۵ اولاد میں یہی یہ سے اہل طائف ہے۔ (مرادیت شیخ قزوینی این چیزین ۲۸۸، ۲۸۹) (۱۷) جم۔

فرماتے ہیں:

”لیکن شیخ ابن ہمام رض نے ”مسایہ“ میں تصریح کی ہے۔

کہ اصول دین اور ضروریات دین کا مخالف (منکر) متفقہ طور پر کافر ہے، مثلاً جو شخص عالم کو قدیم مانے یا حشر جسمانی کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو (وہ متفقہ طور پر کافر ہے) اختلاف ان (اصول و ضروریات دین) کے علاوہ عقائد و احکام میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کے مبادی کا انکار (یعنی صفاتِ الہیہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم و قدیم ہونے کا انکار) یا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے (خیر و شر و نوں کے لئے) عام ہونے کا انکار (یعنی صرف خیر کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تحت داخل ماننا اور شر کو اس کے ارادہ و مشیت سے خارج کہنا) قرآن کو مخلوق کہنا (یعنی اس قسم کے نظری اور تفصیلی عقائد کے متعلق اختلاف ہے، بعض علماء ان کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں اور بعض علماء کافرنہیں کہتے بلکہ فاسق و مبتدع کہتے ہیں)۔“

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن ہمام رض کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”اسی طرح شرح ”منیۃ المصلى“ میں بیان کیا ہے کہ:

کسی شب (اور تاول) کی بنابری شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر) رض کی خلافت کے منکر اور ان پر (العیاذ بالله!) سب وشت کرنے والے کو بھی کافرنہیں کہا جائے گا (بلکہ فاسق و مبتدع کہا جائے گا) بخلاف اس شخص کے جو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ہونے کا مدعا ہو (جیسے ”حلوی“ فرقہ کا عقیدہ ہے) اور یہ کہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وجوہ لے جانے میں) غلطی کی ہے (جیسے غالی شیعہ کا عقیدہ ہے) ایسے لوگوں کو ضرور کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ عقیدہ یقیناً کسی شب (تاویل) اور تماش حق کی کاوش و جستجو پر مبنی نہیں ہے (بلکہ محض کفر اور خباثت نفس ہے)۔“

حضرت عائشہ رض صدیقہ پر بہتان لگانے والا کافر ہے اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”میں کہتا ہوں کہ اسی طرح، شخص بھی کافر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رض پر بہتان لگائے یا ان کے والد بزرگوار (حضرت ابو بکر صدیق رض) کے صحابی ہونے کا منکر ہو، اس لئے کہ یہ قرآن عظیم کی کھلی ہوئی تکذیب ہے جیسا کہ اس سے پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔“

منکر خلافت شیخین رحمۃ اللہ علیہ قطعاً کافر ہے۔ (حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ منکر خلافت شیخین کے بارے میں شرح ”منیۃ المصلى“ مذکور و بالایمان سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں)

اکثر فقہاء متنگر خلافت شیخین بیرون کو مطلقًا کافر کہتے ہیں، چنانچہ "در منتهی" میں شرط "وہ باشیہ" سے اس کے ثبوت میں ذیل کا شعر نقل کیا ہے:

وصح تکفیر نکیر خلافة الله

عنيق وفي الفاروق داك اظهر

ترجمہ: "خلافت عتیق، یعنی حضرت ابو بکر صدیق (رض) کی خلافت کا منکر صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منکر بھی کافر ہے اور یہی بات قوی ہے۔"

فرماتے ہیں: یہکہ خلاصۃ "الفتاویٰ" اور "صواعق" میں تو نقل ہبایا ہے کہ

"اصل (مبسوط) میں امام محمد بن الحسن نے اس کی تصریح کی ہے (کہ متنگر خلافت شیخین بیرون کافر ہے) اسی طرح "فتاویٰ ظہیریہ" میں بھی اسی کو صحیح کہا ہے جیسا کہ "فتاویٰ بندیہ" (عامگیری) میں مذکور ہے۔"

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا تسلیم: فرماتے ہیں: لہذا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا بیان میں بحوالہ شرح "میثہ امصلی" شبه کی بنابر منکر خلافت شیخین کو کافر نہ کہنے میں تسلیم سے کام لیا ہے چنانچہ "حزانۃ المفتین" میں بھی اسی کو صحیح کہا ہے (کہ متنگر خلافت شیخین مطلقًا کافر ہے) جیسا کہ "فتاویٰ انقردیہ" میں مذکور ہے۔

اسی طرح "فتاویٰ عزیزیہ" میں ج: ۲ ص ۹۲ پر "بربان" سے اور "فتاویٰ بدیعیہ" سے اور اس کے علاوہ دیگر کتب فتاویٰ سے نیز بعض شوافع اور حنابلہ سے بھی نقل کیا ہے (کہ متنگر خلافت شیخین کافر ہے) "بربان" کی عبارت صپ ذیل ہے:

"ہمارے علماء (احناف) اور امام شافعی رحمہم اللہ نے فاسق کی امامت کو اس مبتدع (گمراہ) کی امامت کو جس کی بدعت (گمراہی) پر کفر کا حکم نہ لگایا گیا ہو مکروہ کہا ہے نہ کہ فاسد جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فاسد فرماتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک تمام اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کے پیچھے اقتداء جائز ہے، بجز جہنمیہ، قدریہ، غالی راضی، خلق قرآن کے قائلین، خطابیہ اور مشہبہ کے (کہ ان کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں، اس لئے کہ یہ تمام فرقے کافر ہیں)۔"

فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان اہل قبلہ غالی نہ ہو اور اس کے کافر ہونے کا حکم نہ لگایا گیا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز تو ہے مگر مکروہ ہے اور جو شفاعت، رویت الہی، عذاب قبر، کراما کا تین دغیرہ متواترات کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں اس لئے کہ یہ منکر یقیناً کافر ہے کیونکہ ان امور کا ثبوت صاحب شریعت سے حد تواتر و پنج چکا ہے ہاں جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت

وجہال کی وجہ سے نظر نہیں آسکتے، وہ مبتدع ہے، (کافرنیس، اس لئے کہ یہ نفس رویت کا منکر نہیں بلکہ اپنے قصور و فهم کی وجہ سے رویت الہی کو ناقابل حصول سمجھتا ہے) اس کے برعکس جو شخص "نہیں پرسح" کا منکر ہو، یا حضرت ابو بکر صدیق (رض)، یا حضرت عمر فاروق (رض)، یا حضرت عثمان غنی (رض)، کی خلافت کا منکر ہوا، اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں (اس لئے کہ یہ امر متواتر جمیع علیہ کا منکر اور کافر ہے) باہ جو شخص حضرت علی (رض) کو (خلفائے ثلاثہ سے) افضل مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز ہے اس لئے کہ یہ بھی مبتدع ہے۔ (کافرنیس)

فرماتے ہیں باقی امام محمد (بخاری) تو امام ابو یوسف (بیہقی) رامام ابو حنیفہ (بیہقی) سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے پیچھے مطلقاً نماز جائز نہیں۔

وہ تمام خوارج کافر ہیں جو حضرت علی (رض) کو کافر کہتے ہیں۔ مصنف ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نبیلہ مصنف "تحفہ الشاعر" میں "تحفہ" کے آخر میں ان تمام خوارج کی تکفیر کو ترجیح دی ہے جو حضرت علی (رض) کو کافر کہتے ہیں، چنانچہ "باب التولی والتبیری" کے مقدمہ سادسہ میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن مصنف تحفہ نے اس مقام پر کفر واردہ اور میں فرق کیا ہے، لیکن کتب فدق میں یہ فرق اس شخص کے حق میں، جو مسلمان ہونے کا مدعا ہو، معروف نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قصد ایجاد مذہب کو ارتدا ہو اور تبدیل مذہب کے قصد کے بغیر دین کو کفر کہتے ہیں، باقی ان کے بیان سے دونوں کے حکم میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا، بجز اس کے کہ مرتد کا قتل واجب ہے اور کافر کا قتل جائز۔

"فتاویٰ عزیزیہ" میں حضرت شاہ صاحب کے یہ شریعتیات سے بھی خارجیوں اور ان جیسے لوگوں کی تکفیر ہی ظاہر ہوتی ہے، باقی فتاویٰ کے ج: اص: ۱۹ پر جوان کا بیان ہے وہ خود ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، چنانچہ ج: اص: ۱۲ اور ۱۹ پر خود انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

**التزام کفر اور لزوم کفر میں کچھ فرق نہیں:** حضرت شاہ صاحب "فتاویٰ عزیزیہ" میں ج: اص: ۹۵ پر فرماتے ہیں کہ: "امور یقینیہ میں اتنے ام کفر اور لزوم کفر میں کچھ فرق نہیں (یعنی جو شخص کسی بھی قطعی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب کرے گا وہ بہر صورت کافر ہو جائے گا، خواہ جان بوجھ کر ارتکاب کرے، خواہ نہ جانتا ہو، خواہ قصد کفر کرے، خواہ نہ کرے) چنانچہ "تحفہ الشاعر" میں یہ: ۹۱ کے ذیل میں اور "باب امامت" کے عقیدہ نمبر ۶ کے ذیل میں آیت کریمہ "یا لَهَا الَّذِينَ امْنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ" کے تحت اس کا بیان موجود ہے اور کچھ اس کا بیان "باب توفی و تبری" کے

پانچویں مقدمہ کے اندر بھی آیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد شہوت و رسالت کا دعویٰ موجب کفر وارد تھا ہے۔ علامہ شہاب خفاجی "شرح شفاء" نسیم الریاض (ج: ۲) "فصل الوجه الثالث" کے ذیل میں ص: ۲۳۰ اور ص: ۹۵ پر فرماتے ہیں:

"اسی طرح ابن قاسم مالکی محدث نے اس شخص کو مرتد کہا ہے جو خود کو نبی کہے اور دعویٰ کرتے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، جنون مالکی محدث کا قول بھی یہی ہے، ابن قاسم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مرتد کہا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہو، خواہ عالمی طور پر، جیسے مسلمہ کذاب لعنة اللہ علیہ گزرائے۔ اصح بن اثرب اُنکی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دعویٰ کرتے ہوں میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، وہ مرتد کی مانند ہے (یعنی اس کا حکم وہی ہے جو مرتد ہے) اس لئے کہ وہ کتاب اللہ (آیت خاتم النبیین) کا بھی انکار کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی تجویز کی تکذیب کرتا ہے اس لئے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا" اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھی ہے اور مجھے رسول بنا یا ہے۔ اس یہودی کے متعلق جو خود وہی کہے اور دعویٰ کرے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق و اس کے احکام پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہوں" یا یہ کہے کہ تمہارے نبی کے بعد ایک اور نبی شریعت لے کر آئے گا، اشہب مسیح فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہودی عالمیہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور حکم خطاب کے سامنے کہتا ہے تو اس سے مرتد کی طرح توبہ کرائی جائے گی (اگر چیختا ہے تو نہیں) اگر توبہ کرے اور باز آجائے تو فہماور نہ قتل کر دیا جائے گا، اس لئے کہ یہ شخص نبی ﷺ سے ثقہ راویوں کی روایت کردہ حدیث: "لا تبی بعدی" (میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) کی تکذیب کرتا ہے اور نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ کی صورت و سیرت پر نکتہ چینی اور عیب گیری موجب کفر ہے: علامہ شہاب خفاجی "شرح شفاء" میں ج: ۲ ص: ۲۳۱ پر "فصل الوجه الثالث" کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"سحنون" کے رفیق احمد بن ابی سلیمان جن کے حالات اس سے قبل بیان ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول ﷺ کا رنگ سیاہ تھا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کہ یہ شخص (ایک تو) رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولتا ہے (دوسرا) سیاہ رنگ معیوب بھی ہے (اس لئے رسول اللہ ﷺ کی تو یہی تحریر بھی کرتا ہے) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سیاہ قام نہ تھے بلکہ آپ ﷺ کا رنگ گلاب کی طرح سرخ و سفید اور شلنگ تھا، جیسا کہ حلیہ مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قبل

بیان ہو چکا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی صفات اور حلیہ مبارکہ میں کسی قسم کی کذب بیانی بھی موجب کفر ہے: ... خفاجی نبیت فرماتے ہیں:

”بعض علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ ابن الی سلیمان کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں کذب بیانی کفر اور موجب قتل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کذب کے ساتھ تحقیر و توہین کا شائیبہ ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ مذکورہ بالا صورت میں ہے، اس لئے کہ سیاہ رنگ ناپسندیدہ اور معیوب ہے، خفاجی نبیت فرماتے ہیں: حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا (موجب نقص و عیوب ہو یا نہ ہو) اس لئے کہ حضور ﷺ کی صفات مقدسہ اور حلیہ مبارکہ میں سے کسی بھی صفت کے بیان میں (کذب اور) خلاف واقع صفت کو آپ کی طرف منسوب کرنا شائیبہ توہین و تحقیر سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ آپ ﷺ ایسی کامل ترین صفات کے مالک تھے کہ ان سے کامل تر صفات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ان کے خلاف جو صفت بھی آپ ﷺ کی طرف منسوب کی جائے گی ضرور اس میں آپ ﷺ کی تتحقیق ہو گی، (لہذا آپ ﷺ کی صفات قدیمہ کے باب میں کوئی بھی غلط بیانی اور کذب توہین و تحقیر سے خالی نہیں ہو سکتا) لہذا ایسی صورت میں علماء متاخرین کا مذکورہ بالا اعتراض بے محل ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث یا مخلوق مانا موجب کفر ہے: ملا علی قاری نبیت شرح فقہ اکبر، میں ص: ۲۹ طبع پاکستان سعیدی، صفات الہمیہ کے متعلق فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات حقیقیہ ازلی ہیں، نہ حادث ہیں، نہ مخلوق، لہذا جو شخص بھی ان کو مخلوق یا حادث کہتا ہے یا توقف کرتا ہے (نہ قدیم کہتا ہے نہ حادث)، یا ان میں شک و شبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ (کی صفات) کا منکر اور کافر ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق مانا موجب کفر ہے: ”کتاب الوصیۃ“ میں فرماتے ہیں:

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا منکر اور کافر ہے۔“

”صفت کلام“ کے متعلق ملا علی قاری نبیت شرح فقہ اکبر، میں ص: ۳۰ پر فرماتے ہیں:

”امام فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نبیت سے بسند تحقیق مردی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ نبیت سے (مدت دراز تک) خلق قرآن کے مسئلہ پر مناظرہ کیا، آخر ہم دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے، یہی قول امام محمد نبیت سے (بسند تحقیق) مردی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا آپ ﷺ کی توہین و تنتقیض کرنے والا کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ قاضی ابو یوسف جیلیٰ کتاب "الخراج" ① میں فرماتے ہیں:

"جو مسلمان شخص رسول اللہ ﷺ پر (العیاذ بالله) سب و شتم کرے، یا آپ ﷺ کو جھوٹا کہے، یا آپ ﷺ میں عیوب نکالے، یا کسی بھی طرح آپ ﷺ کی توہین و تنتقیض کرے وہ کافر ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔"

قاضی عیاض جیلیٰ "شفاء" میں فرماتے ہیں:

"رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا کافر ہے اور جو کوئی اس کے معدب اور کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔"

شامِ رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں: "مجمع الانہر"؛ "در مختار"؛ "ہزاری"؛ "درز"؛ اور "خیریہ" میں لکھا ہے کہ:

"انبیاء میں میں سے کسی بھی نبی کو سب و شتم کرنے والے (کافر) کی توبہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اس کے کفر اور معدب ہونے میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔"

مصنف جیلیٰ فرماتے ہیں

دنیوی احکام کے اعتبار سے تو اس کی توبہ کے قبول اور معتبر ہونے یا نہ ہونے میں فرقہا، کا اختلاف ہے، (بعض کہتے ہیں شامِ رسول کی توبہ مقبول نہیں، جیسا کہ مذکورہ بالاحوالوں سے ظاہر ہے اور بعض اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بعض کے خواہ یہ کچھ تفصیل ہے) مگر فیما بینہ و نین اللہ اس کی توبہ مقبول ہے (یعنی اگر صدق دل سے اس تھی تو کی اور اس پر زندگی بھر قائم رہا تو آخرت میں ان شاء اللہ سب و شتم رسول کے مذاب اور کفر سے نجات جائے گا) لیکن "خلاصة الفتاوى" میں منقول "محیط" کی عبارت کی مراد جلت کر لی چاہیے کہ اس میں مشائخ حنفیہ کا قول یعنی نقل کیا گیا ہے کہ: "عند اللہ بھی شامِ رسول کی توبہ قبول نہ ہوگی۔" یہ قول مجھے سوائے محیط کی عبارت کے اور کہیں نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ کتابت کی غلطی ہو۔ ضروری اور قطعی امور وین کامنکرا اگر چہاں قبلہ میں سے ہو کافر ہے، نیز اہل قبلہ کے معنی اور مراد۔ ملاعلیٰ قاری جیلیٰ "شرح فقہا کبر" میں (ص: ۱۹۵) سعیدی پر فرماتے ہیں:

”مواقف میں لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر صرف اسی قول فعل پر کی جائے گی جس میں ایسے امر کا انکار پایا جائے جس کا رسول اللہ ﷺ سے شہوت یقینی طور پر معلوم ہو، یا مجمع عالیہ ہو (یعنی امت کا اس پر اجماع ہو) مثلاً محرمات (وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے) کو حلال جانتا اور کہنا، اس کے بعد قاضی عیاض ہبہ فرماتے ہیں: مخفی نہ رہے کہ علماء احتجاف کے اس قول: ”لَا يجوز تكبير اهل القبلة بذنب“، (کسی بھی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں) کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرتا ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں، اس لئے کہ وہ غالی رافضی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل ﷺ نے وحی کے پہنچانے میں غلطی کی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت علی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس وحی صحیح تھی، انہوں محمد ﷺ کے پاس پہنچا دی، یا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی (العیاذ باللہ) خدا تھے، ایسے لوگ ہرگز مونمن نہیں، اگرچہ ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کر کے تماز میں پڑھتے رہیں، رسول اللہ ﷺ کی حدیث (جو اس اصطلاح کا مأخذ ہے):

”من صلی صلوٰتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم“.

ترجمہ: ”جو شخص ہماری (طرح) نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ہمارے ذبیحہ کو (حلال صحیحہ اور) کھائے وہ مسلمان ہے۔“

کی مراد یہی ہے کہ (تمام دین کو مانتا ہوا اور کسی بھی موجب کفر عقیدہ اور قول فعل کا مرتكب نہ ہو، نہ یہ کہ ہر وہ شخص جو یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے، اگرچہ کیسے ہی کفر یہ عقائد و اعمال کا مرتكب ہو)۔“

**رافضی اور غالی شیعہ:** ”غذیۃ الطالبین“ میں فرماتے ہیں:

”رافضی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی تھے اور (تمام کفر یہ عقائد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوق قیامت تک ان پر لعنت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی آباد بستیوں کو ویران کر دیں اور صفحہ تستی سے ان کا نام و نشان منادیں اور روئے زمین پر ان میں سے کسی تنفس کو زندہ نہ رہنے دیں، اس لئے کہ یہ لوگ اپنے غلو میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور پھر اپنے کفر یہ عقائد پر مصر ہیں، اسلام کو انہوں نے بالکل خیر باد کہہ دیا ہے اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات) کا، نبیوں (کی تعلیمات) کا اور قرآن (کی نصوص) کا انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔“

تحقیر کی نیت سے نبی کے نام کی ”تصحیر“، بھی کفر ہے: ”تحفہ، شرح“ منہاج“ میں فرماتے ہیں:

”یا کسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے، یا کسی بھی طرح ان کی تحریر و توہین کرے، مثلاً تحریر کی نیت سے بصورت تصریف ان کا نام لے، یا ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کو جائز کہے، ایسا شخص کافر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت میسیٰ مسیح کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا گیا ہے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں) (الہذا ان کا آخر زمانہ میں آسمان سے اترنا باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔“

**رافضی قطعاً کافر ہیں۔** عارف باللہ علامہ عبدالغئی نابلسی ہبہ ”شرح فراند“ میں فرماتے ہیں:

”ان رافضیوں کے مذهب کا فساد اور بطلان ایسا بدیہی اور مشاہد ہے کہ اس کے لئے کسی بیان و دلیل کی بھی ضرورت نہیں (یہ عقائد) بھلا کیے (صحیح اور درست ہو سکتے ہیں) جبکہ ان کی بنا پر ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا بعد میں کسی اور کے نبی ہونے کا جواز نکلتا ہے اور اس سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ قرآن تو صاف و صریح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں اور خدا کا رسول کہہ رہا ہے: ”اَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيْ بَعْدِيْ“ (میں (سب کے) پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا) اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا اور جانتا ہے، یہ مسئلہ (تکذیب قرآن و حدیث) بھی ان مشہور مسائل میں سے ایک ہے، جن کی بنا پر ہم نے فلاسفیوں کو کافر کہا ہے (پھر رافضیوں کو کیوں نہ کافر کہیں) خدا ان پر لعنت کرے۔“

**کافر و مبتدع کا فرق، کن امور پر اہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے۔** ”عقائد عضدیہ“ میں فرماتے ہیں:

”ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر صرف ان عقائد کی بنا پر کہتے ہیں، جن سے خالق مختار کا انکار لازم آئے یا جن میں شریک پایا جائے، یا جن میں نبوت و رسالت کا انکار پایا جائے، یا کسی مجمع علیہ قطعی امر کا انکار پایا جائے، یا کسی حرام کو حلال مانا جائے، ان کے علاوہ باقی عقائد فاسدہ کا مانے والا مبتدع (گمراہ) ہے۔“

**جو شخص کسی مدعی نبوت سے مججزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔** ابو شکور سالمی ”تمہید“ میں فرماتے ہیں:

”رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ عالم بھی بھی نبی کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ کھلا ہوا کافر ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ”خاتم النبیین“ کے لقب سے یاد فرمایا ہے، اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے اور جو کوئی (بارا دہ تصدیق) اس سے مججزہ طلب کرتا ہے وہ بھی

کافر ہے، اس لئے مجذہ طلب کرنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی دلیل ہے (اور امکان نبوت کا نماز ہے) رافضیوں کے علی الرغم یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی کوئی نبوت میں آپ ﷺ کا شریک نہ تھا، اس لئے کہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نبوت میں شریک تھے اور یہ صریحی کفر ہے۔“

حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو امت نے قتل کر کے سولی پر لڑکا یا ہے۔ قاضی عیاض ہبیہ "شفاء" میں فرماتے ہیں:

"خلیفہ عبد الملک بن مردان نے حارث نامی مدینی نبوت کو قتل کر کے (عہرت کے لئے) سولی پر لڑکا یا تھا، اسی طرح اور بہت سے خانقاہ اور سلاطین نے ایسے تمام مدعاں نبوت کو قتل کیا ہے اور علماء امت نے اس قتل کی تصویر و تائید کی ہے اور جو کوئی ان تصویر کرنے والے علماء کا مخالف ہے وہ بھی کافر ہے۔"

حضرت مصنف ہبیہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی تفسیر کے تحت "بحر محیط" میں اس پر عملًا اجماع امت نقل کیا ہے۔

متواتر و مجمع علیہ امور کا منکر کافر ہے، نماز کے اركان و شرائط یا اس کی صورت وہیست کا منکر کافر ہے۔ قاضی عیاض ہبیہ "شفاء" میں فرماتے ہیں:

"اسی طرح اس شخص کو بھی قطعی طور پر کافر کہا جائے گا جو شریعت کے کسی بھی اصول کی اور ان عقائد و اعمال کی تکذیب یا انکار کرے جو نقل متواتر کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور ہر زمانے میں ان پر امت کا اجماع رہا ہے، مثلاً جو شخص پانچوں نمازوں کی فرضیت کا یا ان کی رکعتوں اور رکوع و وجود کی تعداد کا انکار کرے اور کہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر مطلقاً نماز فرض کی ہے یہ کہ پانچ ہوں اور اس مخصوص صورت میں ہوں اور ان شرائط کے ساتھ ہوں (جیسا کہ دیانتوں میں ملا کہتے ہیں) اس کو میں نہیں مانتا، اس لئے کہ قرآن میں تو اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث خبر واحد ہے (ثبت کے لئے کافی نہیں)، ایسا شخص قطعاً کافر ہے۔"

کن لوگوں کو کافر کہا جائے؟: "شفاء" کی شرح "خفاہ" ج: ۲۶ ص: ۵۲۷ تا ۵۲۸ "فصل فی بیان ما ہو من المقالات کفر" کے اور شرح "شفاء" ملک علی قاری ہبیہ کے چند اقتباسات (جن میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جن کو کافر کہا جائے گا)۔

ا:..... جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو: خفاہ ہبیہ فرماتے ہیں:

”اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہیں گے جو ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مثلاً مسلمہ کذاب کو یا اسود عنسی کو یا کسی اور کو نبی مانتا ہو، یا آپ ﷺ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت ہے دعویٰ کرے (جیسے مرتضیٰ مرتضیٰ احمد علیہ ماعلیہ کی نبوت کے مدعا ہے) اس لئے آپ ﷺ قرآن و حدیث کی نصوص و تصریحات کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں، الہذا ان عقائد اور دعووں سے ان تمام نصوص کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے، جو تصریح کفر ہے، مثلاً میسوس یہ فرقہ۔ ①

۲: جو شخص خودا پری نبوت کا مدعا ہو۔ ”یا جو شخص ہمارے نبی ﷺ کے بعد خودا پر نبی ہونے کا مدعا ہو جیسے مختار ابن ابی عبید ثقیفی وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے (یا ہمارے زمانہ میں مرتضیٰ قادر یا ان علیہ ماعلیہ نے اپنے نبی اور موحی ایسے ہوتے کا دعویٰ کیا ہے) خفاجی مسیہ فرماتے ہیں: حافظ ابن حجر نبی ﷺ فرماتے ہیں: ہر اس شخص کا کافر ہونا بھی واضح ہے جو ایسے مدعا نبوت کی تصدیق کے ارادہ سے اس سے مجرزہ طلب کرے، اس لئے کہ یہ شخص حضور ﷺ کے بعد کسی کے نبی ہونے کو چاہزہ سمجھ کر ہی اس سے مجرزہ طلب کرتا ہے، ورنہ انحالیکہ آپ ﷺ کے بعد کسی کا نبی ہونا لا مل قطعیہ شرعیہ کی رو سے قطعاً محال ہے (جو اس کو جائز اور ممکن سمجھے وہ کافر ہے) باس اگر کوئی شخص اس مدعا نبوت کی تحریک و تجھیل اور اس کے جھوٹ کو طشت از بام کرنے کی غرض سے اس سے مجرزہ طلب کرتا ہے تو یہ اور بات ہے (ایسا شخص مجرزہ طلب کرنے سے کافر نہ ہو گا)،“

۳: جو نبوت کے اکتسابی ہونے کا مدعا ہو۔ خفاجی مسیہ فرماتے ہیں: ”اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو نبوت کو اکتسابی اور صفاتِ قلب کے ذریعہ مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو ممکن اور قابل حصول مانتا ہو جیسا کہ فلاسفہ اور غالی صوفی (اس کے مدعا ہے)“

۴: جو شخص اپنے پاس وحی آنے کا مدعا ہو۔ فرماتے ہیں: ”اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ: ”میرے پاس وحی آتی ہے۔“ اگرچہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے، فرماتے ہیں کہ یہ تمام مذکورہ بالا اشخاص (اور ان کے ماننے والے) سب کافر ہیں، اس لئے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں، اور آپ ﷺ کی تصریحات کے خلاف دعوے کرتے ہیں، حالانکہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی اطلاع پا کر امت کو خبر دیتے ہیں کہ: ”میں خاتم الانبیاء، (آخری نبی) ہوں اور یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔“

① میسی بن احقیق یہودی کی جانب ملکوب یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو میسی بن احقیق ولی مانتا ہے، ہر ہائیوں سے مدد میں اس متن بن احقیق نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو سرف غرب قوم کا بی کہتا تھا، دولت عرب سے گئے آغاز میں اس دلیل میں یہ آیہ از متوجه۔

قرآن حکیم بھی آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہوئے اور قیامت تک تمام نوع انسانی کے لئے رسول مسجوت ہونے کی خبر دیتا ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ تمام آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں (ان میں کوئی جاز و استعارہ یا تقدیم و تخصیص نہیں ہے) کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور آپ ﷺ کی بعثت عام ہے اور ان آیات و احادیث کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو ان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں، نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تخصیص کی، لہذا امت کے مستند و معتمد علماء کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کی رو سے ان تمام لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ان گمراہ فرقوں کا کوئی اعتبار نہیں جو اس کے مخالف ہیں، یا اجماع کے جھٹ ہونے میں انہیں کلام ہے جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آتا ہے۔

۵: جو آیاتِ قرآن اور نصوصِ حدیث کو ان کے ظاہری اور مجتمع علیہ معانی سے ہٹاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”ای طرح علماء امت کا اجماع ہے ہر اس شخص کی تکفیر پر جو کتاب اللہ کی صریح آیات کو رد کرے، یعنی ان کے ظاہری معنی کا انکار کرے، اور نہ مانے، جیسے بعض باطنی فرقے جو آیات قرآنیہ کے صاف اور صریح معنی کو چھوڑ کر ایسے عجیب عجیب معنی اور مراد بیان کرتے ہیں جو قطعاً ظاہر کے خلاف (اور تحریف کا مصدق) ہیں، یا کسی ایسی حدیث میں تخصیص کرے جس کا مفہوم عام ہے، اور اس کی صحت اور روایوں کے ثقہ ہونے پر اجماع ہے، اور صریح مراد پر اس کی دلالت قطعی اور یقینی ہے، (یعنی با تفاق علماء وہ اپنے ظاہری معنی پر محول ہے) نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تخصیص کی، نہ ہی وہ منسوخ ہے، (ایسے لوگ) اس لئے کافر ہیں کہ صریح آیات و احادیث میں اس قسم کی تاویل و تخصیص کرنا قرآن و حدیث کو کھیل بنانے کے مراد ہے، یا ان کے علماء امت نے خارجیوں کو شادی شدہ زانی مردوں عورت کو سنگار کرنے سے انکار کرنے کی بنا پر کافر کہا ہے، اس لئے کہ اس رجم پر امت کا اجماع ہے، اور یقینی طور پر جم ضروریات دین میں سے ہے، یعنی صاحب شریعت سے اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے۔“

۶: جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کو کافرنہ کہے۔ فرماتے ہیں۔

”ای لئے (یعنی صریح اور مجتمع علیہ نصوص میں تاویل و تحریف کرنے والے کی تکفیر کے یقینی ہونے کی وجہ سے) ہم ہر اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کافرنہ کہے، یا ان کو کافر کہنے میں توقف (و تردود) کرے، یا ان کے کفر میں شک و شبہ کرے، یا ان کے

مذہب کو درست کہے، اگرچہ یہ شخص اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اور اسلام کے علاوہ یہ مذہب کو باطل بھی کہتا ہو، تب بھی یہ غیر مذہب والوں کو کافرنہ کہنے والا خود کافر ہے، اس لئے کہ یہ شخص ایک مسلم کافر کو کافر کہنے کی مخالفت ① کر کے خود اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ دین پر کھلا ہو ٹھعن اور اس کی تکذیب ہے (مختصر یہ ہے کہ کسی بھی دین اسلام کے نہ مانتے والے کو کافرنہ کہنا، دین اسلام کی مخالفت اور تکذیب کے متراویں ہے، بلند ایہ شخص کافر ہے)۔“

۷:..... جو کوئی ایسی بات زبان سے کہے کہ جس سے امت کی تسلیل یا صحابہ

شیعیت کی تکفیر ہوتی ہو۔ فرماتے ہیں:

”اسی طرح ہر اس شخص کی تکفیر بھی قطعی اور یقینی ہے جو کوئی ایسی بات زبان سے کہے جس سے اس کا مقصد تمام امت مسلم کو دین اور صراط مستقیم سے مخالف اور گمراہ ثابت کرتا ہو، اور اس کا قول تمام صحابہ رض اور سلف صالحین کی تکفیر کا موجب ہو، جیسے رافضیوں میں ”کمیلیہ“ فرقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی وفات کے بعد تمام امت کو صرف اس لئے کافر مانتا ہے کہ اس نے حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو خالینہ نہیں بنایا، اور خود حضرت علی صلی اللہ علیہ و آله و سلم کو بھی کافر سمجھتا ہے کہ وہ خود (خلافت حاصل کرنے کے لئے) آگے نہیں بڑھے، اور اپنے حق کو طلب نہیں کیا (العياذ باللہ) یہ لوگ متعدد وجوہ سے کافر ہیں، اس لئے کہ انہوں نے تمام تر مذہب و ملت کا صفائی کر دیا۔“

۸:..... جو مسلمان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جو خاص کفر کا شعار ہے۔ فرماتے ہیں:

”اسی طرح (یعنی مذکورہ بالا لوگوں کی طرح) ہم ہر اس مسلمان شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو کسی ایسے کفر یہ فعل کا ارتکاب کرے، جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، اور حقیقتہ اس کو کافر ہی کر سکتا ہے، اگرچہ خود یہ شخص مسلمان ہی ہو اور اس کفر یہ فعل کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کے بلند بانگ دعوے بھی کرتا ہو۔“

کسی کفر یہ قول کے قابل کی تائید و تحسین کرنے والا بھی کافر ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ خغابی رسی کے آخری قول کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

البحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۳۳ اور اس کے علاوہ کتب فقہ میں لکھا ہے: جس شخص نے کسی گمراہ عقیدہ،

① اس زمان میں جو لوگ کسی بھی نیو مسلم کو کافر ہے سے احتساب کرتے ہیں اور اس ونادیف تکذیب کرنے ہیں، وہ اپنے ایمان پر کہری، کہتیں ان کا ایمان اس ”ہاؤن“ سمعت اظر تکذیب پر ہے تو احسان مفتی پر ہے، اس لئے وہاں۔

والي شخص کے قول کی تحسین کی، یا یہ کہا کہ یہ (عام فهوں کی سطح سے بلند) معنوی کلام ہے (بـ ٹھنض اس کی مراد نہیں صحیح سکتا) یا یہ کہا کہ اس کلام کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں اور (اس کی کوئی خلاف ظاہر تاویل کی) تو اگر اس قائل کا وہ قول کفر یہ (موجب کفر) ہے تو اس کی تحسین کرنے والا (یا اس کو صحیح کرنے والا یا تاویل کرنے والا) بھی کافر ہو جائے گا۔

فرماتے ہیں ابن حجر عسکریؑ بھی "الاعلام" کی فصل "الکفر المتفق عليه" کے ذیل میں حنفیہ کی کتابوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

"جس شخص نے زبان سے کوئی کفر یہ کلمہ کہا، اس کو کافر کہا جائے گا، اور جو شخص اس کی تحسین کرے، یا اسے پسند کرے اس کو بھی کافر کہا جائے گا۔"

بالقصد کلمہ کفر کرنے والے کے قول کی کوئی تاویل معتبر نہیں: "رالمحتر" (شامی) میں ج: ۳ ص: ۳۹۳ بحوالہ "البحر الرائق" "برازیہ" سے نقل کرتے ہیں:

"مگر جب (زبان سے کلمہ کفر کرنے والا) تصریح کرے کہ میری مراد وہی ہے جو موجب کفر ہے تو (وہ کافر ہو جائے گا اور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہیں (کفر سے نہیں بچا سکتی)۔"

کلمہ کفر کرنے والے کی نیت کا اعتبار کس صورت میں ہے اور کہاں ہے؟

"فتاویٰ ہندیہ" (عالیگیری) میں "محیط" وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

"اگر کسی مسئلہ کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہوں، ان میں سب صورتیں تو موجب کفر ہوں اور ایک صورت ایسی ہو جو کفر سے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چاہئے (اور کفر کا حکم نہ لگانا چاہئے) بجز اس کے کہ وہ خود صراحت کہے کہ میری مراد یہ (موجب کفر) صورت ہی ہے، تو (وہ کافر ہو جائے گا اور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہ ہوگی (کفر سے نہ بچا سکے گی) یہ فرماتے ہیں پھر اگر (کلمہ کفر) کرنے والے کی نیت وہ صورت ہے جو کفر سے بچاتی ہے تو وہ مسلمان ہے (اور اس کی تاویل کو تسلیم کر لیا جائے گا) اور اگر اس کی نیت وہی صورت ہے جو موجب کفر ہے (تو وہ کافر ہے) کسی مفتی کا فتویٰ اس کے لئے مفید نہیں (کفر سے نہیں بچا سکتا، حاصل یہ ہے کہ کسی قول کی صحیح تاویل فی نفس ممکن ہو، اس پر مدار نہیں، بلکہ قائل کے ارادہ اور نیت پر مدار ہے، کفر کا قصد کرے گا تو یقیناً کافر ہو جائے گا، اگرچہ صحیح تاویل ہو سکتی ہو، واضح ہو کہ یہ اسی تاویل کے متعلق بحث ہے جو از روئے عربیت صحیح ہو اور اصول شریعت کے منافی نہ ہو، جیسا کہ سابقہ بیانات سے واضح ہے)۔"

مصطفیٰ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حمودی کی کتاب "الاشبه والنظائر" کے حاشیہ میں بھی بحوالہ

"عماویہ" یہی لکھا ہے، اور درختار میں بھی بحوالہ "درد" وغیرہ یہی مذکور ہے۔

ہنسی، دل لگی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعاً کافر ہے، نہ اس کی نیت کا اعتبار ہے، نہ عقیدہ کا۔ "رالختار" (شامی) ج: ۳ ص: ۳۹۳ پر علامہ شامی بحوالہ "بجز" فرماتے ہیں:

"حاصل یہ ہے کہ جو شخص زبان سے کوئی کلمہ کفر کرتا ہے، خواہ ہنسی مذاق کے طور پر یا کھیل تفریح کے طور پر یہ شخص سب کے نزدیک کافر ہے، اس میں اس کی نیت یا عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں (اس لئے کہ یہ دین کے ساتھ استہزا ہے، جو بجائے خود موجب کفر ہے) جیسا کہ "فتاویٰ خانیہ" میں اس کی تصریح کی ہے، (اس سے معلوم ہوا کہ نیت کا اعتبار اسی صورت میں ہے کہ کلمہ کفر ہنسی، دل لگی کے طور پر نہ کہا ہو ورنہ استہزا و تلاعہ ب بالہ این کی بنابر کافر کہا جائے گا اور نیت و عقیدہ کا اعتبار نہ ہو گا۔"

"فتاویٰ ہندیہ" میں ج: ۲ ص: ۱۲۳ اور "جامع لفصولین" میں لکھا ہے:

"جو شخص اپنی مرضی سے کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے وہ کافر ہے، اگرچہ اس کے دل میں ایمان ہو، اور اللہ بھی وہ موسمن نہ ہو گا، "فتاویٰ قاضی خان" میں بھی یہی لکھا ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "خلاصة الفتاویٰ" میں اس مقام پر ناخ (کاتب) سے غلطی ہوئی ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

نیز فرماتے ہیں: "عماویہ" میں اس مسئلہ کو "محیط" کی جانب منسوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی اس کی تائید بولی ہے۔ ⑤

**"وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفَرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ"**

ترجمہ: بے شک ان لوگوں نے کفر یہ کلمہ کہا ہے اور (اس کی وجہ سے) وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔

جو لوگ وحی، نبوت، حشر جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ کے اہل اسلام کی طرح قابل نہ ہوں کافر ہیں: علامہ شامی "رالختار" میں ج: ۳ ص: ۳۹۶ پر فرماتے ہیں

"وہ (فلسفہ) وحی کے فرشتہ کے ذریعہ آسمان سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور (ای طرح اور) بہت سے عقائد کا انکار کرتے ہیں، جن کا ثبوت انبیاء، کرام علیہم السلام سے قطعی و یقینی ہے، مثلاً حشر جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ، حاصل یہ ہے کہ اگرچہ وہ (فلسفہ) انبیاء و رسول کو مانتے ہیں،

⑤ حالانکہ ان لوگوں نے یہی ہنسی دل لگی کا عذر دیش کیا تھا، "کن خوض و نلعلب" مگر اللہ پاک نے اس کو رد فرمایا "ابالله و ایاته و رسولہ کتم تستہزا ون" اور نہ کوہ، ای آیات میں کافر ہونے کا حکم لگایا اسی لئے کہ استہزا بالدین خود موجب کفر ہے۔ (ترجمہ)

مگر اس طرح نہیں مانتے جیسے اہل اسلام مانتے ہیں، الہذا ان کا انبیاء، کو مانتا نہ ماننے کی مانند ہے۔“

جو انبیاء کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہو وہ کافر ہے: ”الاشباہ والنظائر“، میں ص: ۲۶۶ باب ”الردة“، میں فرماتے ہیں:

”جس شخص کو نبی کے چاہونے میں شک ہو، یا نبی کو سب و شتم کرے، یا عیب جو ل کرے یا تو ہیں تحقیر کرے، وہ کافر ہے، اسی طرح جو شخص انبیاء ﷺ کی جانب بدکاریوں کی نسبت کرے، مثلاً حضرت یوسف عليه السلام کی جانب قصد زنا کی نسبت کرے، اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ انبیاء ﷺ کی تو ہیں ہے، اداگر کوئی یہ کہے کہ: ”انبیاء نبوت کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی (گناہوں سے) معصوم نہیں ہوتے۔“ تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ قول و عقیدہ صریح نصوص شرعیہ کی تردید ہے۔“

محرمات شرعیہ قطعیہ کو جو شخص اپنے لئے حلال سمجھے، وہ کافر ہے، اور اس کا جہل عذر نہیں ہے: ... اسی ”الاشباہ والنظائر“ کے فن ”الجمع والفرق“ اور ”التفہم“ کے آخر میں مذکور ہے: ”جس شخص نے اپنی جہالت کے بنا پر یہ گمان کر لیا کہ جو حرام و منوع فعل میں نے کئے ہیں، وہ میرے لئے حلال و جائز ہیں، تو اگر وہ (افعال و اعمال) ان امور میں سے ہیں جن کا دین رسول اللہ ﷺ سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے، (یعنی ضروریات دین میں سے ہیں) تو اس شخص کو کافر کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔“

صحیح بخاری کی ایک حدیث، اوقدرت باری تعالیٰ کے اعتقاد سے متعلق ایک اشکال اور اس کا حل: ..... حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اسی بخشنٹ کے ذیل میں کہ ”جہل شرعاً عذر ہے یا نہیں“، ”بخاری“ کی مذکورہ ذیل حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”فتح الباری“، میں امام سابقہ کے ایک شخص کی حدیث کے تحت جس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور کہا تھا کہ:

”فَوَاللَّهِ! لَئِنْ قَدْرَ اللَّهُ عَلَىٰ لِي عَذَبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا“ (ج: ص: ۳۹۵)

ترجمہ: ”خدا کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہو گا۔“

حافظ جعفر بن حیان فرماتے ہیں ”فتح الباری“، باب ”ماذکر من بنی اسرائیل حدیث ابی هریثہ من طریق معمر عن الزہری.“ (ج: ص: ۳۰۷)

”ورده ابن الجوزی وقال جحده صفة القدرة كفر اتفاقا.“

ترجمہ: ”ابن جوزی نے اس حدیث کو رد کیا ہے، (ضعیف یا موضوع کہا ہے) اور کہا ہے کہ اس شخص کا صفت قدرت کا انکار اتفاقاً کفر ہے، (الہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی)۔“

لیکن ”بخاری“ میں ج: ۲ ص: ۹۵۹ پر باب ”الخوف من الله عزوجل“ کے ذیل میں (ای شخص مذکور کی حدیث کے تحت) حافظہ عارف ابن ابی جمرہؓ سے نقل کرتے ہیں:

”واما ما اوصى به فعله كان جائزًا في شرعاهم ذلك لتصحیح التوبۃ فقد ثبت

في شرع بنی اسرائیل قتلهم انفسهم لتصحیح التوبۃ.“ (فتح الباری ج: ۱ ص: ۲۹۳)

ترجمہ: ”باقی رہی اس کی وصیت تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں توبہ کی صحت کے لئے یہ (لغش کو آگ میں جادو یا جائز ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں توبہ کی صحت کے لئے قتل نفس (جمرموں کا قتل کرنا) ثابت ہے۔“

(گویا حافظہؓ کے نزدیک اگر حدیث صحیح مان لی جائے تو لاش کو آگ میں جلانے کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن ابن جوزیؓ کے اعتراض ”انکار قدرت“ کا جواب باقی رہ جاتا ہے، حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ ”لَنْ قَدْرَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْسِيَّ لَطِيفٍ تَوْجِيهٍ فَرَمَّاتَ إِنَّ كَمْ أَنْجَىَ إِنَّ جَوْزَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَعَتْرَاضَ بَاقِيَ رَهْتَىَ بَهْتَىَ، اور نہ عارف ابن ابی جمرہؓ کی توجیہ (جو احتمال شخص ہے) کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور یہ حدیث مسئلہ زیر بحث یعنی ”جبل شرعاً عذر ہے“ کے تحت آجائی ہے) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

میرے نزدیک ”لَنْ قَدْرَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْسِيَّ“ سے اس شخص کی مراد یہ ہے کہ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے توبہ سے پہلے صحیح سالم موجود پالیا، تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو وہ عذاب نہ دیا ہوگا (اس لئے تم میری لاش جلا کر، اور راکھ کو خاک میں ملا کر، اور خاک کو ہوا میں اڑا کر اس طرح نیست و نایود کر دینا کہ میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہے، لہذا اس کا قول اور وصیت شدت خوف الہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت علی الاحیاء سے ناواقفیت اور جہل پر مبنی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیر نکالی، اسی جہل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا (نہ یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تردید ہے (جیسا کہ ابن جوزیؓ نے سمجھا ہے))

فرماتے ہیں: اسی جہل میں صفات اللہ پر اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت کر دیے۔ میں یہود کی مذمت کی ہے، اور ان کی عقل و خرد پر ماتم فرمایا ہے۔

”وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ“

ترجمہ: اور ان یہود نے جسمی اللہ کی قدر کرنی چاہئے تھی نہیں کی۔

چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی واقع ہے ایسی صورت میں آیت کریمہ کے آخر میں ”سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ“ (پاگ ہے اللہ اور برتر ان تمام شرکیہ امور سے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں) کے اندر یہودیوں کے اسی فعل کو شرک قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی نقص عقل و فہم کے پیمانوں سے ناپا تھا، اور اپنی ذہنی اور خیالی صورتوں پر قیاس کر رکھا تھا، (یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، جیسا کہ اس شخص نے لاش کو جلا کر خاک کر دینے کو اللہ کی گرفت سے بچ جانے کی تدبیر سمجھ کر بذرکورہ بالا وصیت کی تھی)

بر بناءً جهيل حرام كuhlal سمجھ ليناً كن صورتوں میں اور کن لوگوں کے لئے عذر ہے؟  
(حضرت مصنف علیہ الرحمۃ "جهيل عن الاحکام الشرعية" کے عذر ہونے سے متعلق "صحیح بخاری" ج: اص: ۳۰۵ میں "باب الكفالۃ" کی ایک حدیث پیش فرماتے ہیں)

باقي "صحیح بخاری" میں ایک شخص کے اپنی بیوی کی مملوکہ کنیز سے جماع کر لینے کا جو واقعہ مذکور ہے کہ حمزہ بن عمر اسلامی (عامل حضرت عمر بن الخطاب) نے اس شخص سے (بارگاہ خلافت میں پیش ہونے پر) ضامن لے لئے اور حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور اس شخص اور ضامنوں کو پیش کیا) حضرت عمر بن الخطاب سے پہلے اس شخص کو سوکوڑے لگائی چکے تھے، لہذا انہوں نے ان ضامنوں کے بیان کی تصدیق فرمائی اور اس شخص کو (مسئلہ شرعی سے) ناواقف ہونے کی بنا پر معدود قرار دیا۔ (فتح الباری ج: ۲۰ ص: ۳۷۰) تو ظاہر ہے کہ اس (جهیل) سے مراد (جس کی بنا پر حضرت عمر بن الخطاب نے اس کو رجم نہیں کیا تھا) صرف "شبہ فی الفعل" ہے، (یعنی اس شخص نے اپنی بیوی کی کنیز سے جماع کرنے کو اپنی بیوی سے جماع کرنے کی طرح حلال سمجھ لیا تھا) جو "باب رجم" میں (حفیہ کے نزدیک بھی) معتبر ہے، (یعنی حفیہ بھی "شبہ فی الفعل" کو سقوط حد میں موثر مانتے ہیں باقی اس کے باوجود حضرت عمر بن الخطاب نے اس شخص کو سوکوڑے ابطور تعزیر لگائے تھے، تاکہ لوگ اس کو حیلہ نہ بنالیں۔

فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں (کہ اپنی بیوی کی کنیز کو اپنے لئے حال سمجھ کر جماع کر لینا سقوط حد کا موجب ہے) "سنن ابی داؤد" میں ("باب جماع الرجل حاربة اهواته" کے تحت) اور "طحاوی" وغیرہ میں ایک (مرفوع) روایت بھی موجود ہے، (لہذا اس واقعہ میں حد زنا سے بچ جانے کا سبب یہ شبہ ہے) نہ اس کے علاوہ اور کسی قسم کا جبل (یعنی یہ "حد" کا معاملہ ہے جو شبہ کی بنا پر ساقط ہو جاتی ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ مسئلہ شبہ ہے نہ اقتصیت کی بنا پر فی نفس کوئی حرام چیز کسی

کے لئے حلال ہو سکتی ہے)۔

فرماتے ہیں: کسی شخص کا نو مسلم (اور مسائل شرعیہ سے ناقف) ہونا ہمارے فقہاء کے نزدیک بھی عذر معتبر ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "بغایۃ المرتاد" میں ص ۱۵ پر فرماتے ہیں:

"بے شک وہ مقامات اور زمانے جن میں نبوت (اور احکام شرعیہ کے پہنچنے) کا سلسلہ منقطع رہا ہو، ان میں اس شخص کا حکم جس پر نبوت کے آثار (اور احکام شرعیہ) مخفی رہے ہوں، یہاں تک کہ اس نے (ناواقفیت کی بنابر) آثار نبوت (اور احکام شرعیہ) میں سے کسی امر کا انکار کر دیا ہو، اس پر خطاب (اور گمراہی) کا حکم اس طرح نہیں لگایا جاسکتا جیسے ان زمانوں اور میقات کے لوگوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ جن پر نبوت کے آثار (اور احکام شرعیہ) ظاہر ہو چکے ہوں، (یعنی جو شخص نیازیا اسلام میں داخل ہوا ہے، یا جس ملک میں نیازیا اسلام پہنچا ہے، صرف اس شخص اور اس ملک کے لئے احکام شرعیہ سے ناواقفیت عذر ہے)۔"

التمام بحث سے کیا مراد ہے؟..... حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں تکفیر سے پہلے (منکر ہن پر) اقامت بحث کا جو تذکرہ فرماتے ہیں، اس سے مراد صرف "ادله" و احکام شرعیہ کی تبلیغ ہے (نہ کہ ان کو متوالینا اور لا جواب کر دینا) جیسا کہ حضرت معاویہ رض کی حدیث میں (جو صحیح: ۲۰۶ پر آتی ہے) "فادع" کے الفاظ سے ظاہر ہے (کہ مرد کو صرف اسلام کی دعوت دینا کافی ہے، اگر قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دو) اور حضرت علی رض خبر کے یہودیوں کو صرف دعوت اسلام دینے پر اکتفاء کرتے ہیں ① چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اکتفاء تبلیغ پر "اخبار الاحادیث" کے ذیل میں ایک باب قائم کیا ہے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت کریمہ "وَأُوحِيَ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَّ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ" سے بھی اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے ضروریات دین سے ناواقفیت اور جہل عذر نہیں ہے:.... "الاشباہ والنظائر" میں فرماتے ہیں:

"جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ محمد ﷺ آخری نبی ہیں وہ ② مسلمان نہیں۔ اس لئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔"

① مراجعت کیجئے صحیح بخاری رج ۲: ص ۱۰۶ باب غزوۃ خیبر میں حدیث حصل بن عد۔

② این عساکر کی تاریخ میں تمیم داری کے ترجمہ (حالات) کے ذیل میں تو قبر میں بھی "خاتم الانبیاء" کے متعلق سوال کر رہا ہے۔

جموی جسیکہ اس کی شرح میں ص: ۲۶۷ پر فرماتے ہیں:

”یعنی موجبات کفر کے باب میں ضروریات دین سے (ناؤاقیت اور) جبل عذر نہیں ہے، بخلاف ضروریات دین کے علاوہ امور دینیہ کے ”مفتی“ ہے، قول کے مطابق ان میں ناؤاقیت عذر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کا ہے۔ واللہ عالم۔

یہ کہنا کہ: ”علماء محض ڈرانے دھمکانے کے لئے کافر کہہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی مسلمان کافرنہیں ہوتا، سراسر جہالت ہے۔“ حضرت مصنف پسید فرماتے ہیں:

جموی جسیکہ نے (اس مقام پر) مسئلہ تکفیر سے متعلق نہایت مفید امور پر متنبہ کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ: ”فقیہاء کا کسی شخص کو کافر کہہ دینا، صرف ڈرانے دھمکانے پر میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ شخص فیما بینہ و بین اللہ کافر ہو جاتا ہے۔“ (یعنی فقیہاء کے کافر کہہ دینے سے حقیقت میں کوئی شخص کافرنہیں ہو جاتا ہے) یہ قول سراسر ان کہنے والوں کی جہالت کی دلیل ہے، چنانچہ ”فتاویٰ برازیہ“ سے وہ اس قول کی تردید نقل کرتے ہیں اور ”فتاویٰ برازیہ“، ”فقہ و اقہا“ کی معتبر کتابوں میں سے ہے، چنانچہ فقیہاء نے ”مولیٰ ابی السعوڈ“ سے جزو دیار رومیہ کے مشتمل بھی ہیں اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی، جن میں ان کی تفسیر (خاص طور پر قابل ذکر) ہے، اس ”فتاویٰ برازیہ“ کی تعریف و توصیف نقل کی ہے، جموی جسیکہ کہتے ہیں کہ ”برازیہ“ کے الفاظ یہ ہیں:

”بعض ایے لوگوں سے جنہیں علم سے کوئی واسطہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں ”کتب فتاویٰ میں جو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ: ”فلان قول یا فعل پر کافر ہو جائے گا اور فلاں پر“، ”محض ڈرانے اور دھمکانے کے لئے ہوتا ہے، نہ یہ کہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے۔“ یہ قول قطعاً باطل ہے، حق یہ ہے کہ انہم مجتہدین سے برداشت صحیح (جن اقوال و افعال پر) تکفیر مردوی ہے، اس سے مراد حقیقت غر ہے۔ (یعنی ان کا ارتکاب کرنے والا حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے) باقی انہم مجتہدین کے علاوہ اور علماء سے جو تکفیر منقول ہے، اس پر مسئلہ تکفیر میں (اعتداء کیا جائے اور) کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”البحر الرائق“ میں بھی یہی مذکور ہے، اور ”الیواقیت“ اور ”منہج النیاق“ میں بھی ”برازیہ“ کی یہی عبارت تمام نقل کی ہے، اور ”الیواقیت“ میں اس پر خطابی کے قول کا بھی اضافہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”اگر کسی زمانہ میں کوئی ایسا مجتہد پایا جائے، جس میں انہمہ اربعہ کی طرح شہ اٹا جتہاد کا مل طور پر پائی جائیں، اور اس پر کسی قطعی دلیل سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تاویل میں غلطی کافر ہو جانے کا

سبب ہے، (یعنی ضروریات دین میں غلط تاویل کرنے والا کافر ہے) تو ہم ایسے مجھنہ کے قول کی بنا پر ان لوگوں کو کافر کہیں گے۔“

**ختم نبوت پر ایمان:** علامہ تقیٰ زانی رحمہ اللہ "شرح عقائدِ نسفی" میں فرماتے ہیں: "اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد ﷺ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کتاب اللہ کی اُن آیات سے ثابت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اوامر و نواہی الہیہ کا مکلف (اور پابند) بنایا گیا ہے، اور یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی اور نبی نہ تھا، لہذا یہ احکامات ان کو یقیناً وحی کے ذریعہ دیئے گئے ہیں، (لہذا وہ صاحب وحی والہام نبی ہوئے) اسی طرح احادیث صحیح میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے (کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں)، لہذا ان کی نبوت سے انکار جیسا کہ بعض علماء سے منتقل ہے، یقیناً موجب کفر ہے (اور منکر کافر)۔" (شرح عقائدِ نسفی ص ۲۵۴ اطیعہ بچال)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اسی طرح ج: ۲ ص: ۵۰ "المواهب اللدنیہ"، للقطانی میں "نوع اول، مقصد سادس" کے تحت، مذکور ہے، اور "ابحر الرائق" میں بھی یہی لکھا ہے۔

توحید و رسالت کی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے: فرماتے ہیں: حاکم نے متدرک میں زید کے باپ حارثہ بن شرجیل کے اپنے بیٹے زید کو طلب کرنے کے لئے آنے کی روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے حارثہ سے فرمایا:

"اسْلَكُمْ اَنْ تَشْهُدُوا اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّىٰ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ هُوَ وَ رَسُولُهُ وَ اَرْسَلَهُ مَعَكُمْ اَنْ تَخُلُّوْنَ" ۝

ترجمہ: "میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ پر اور اس پر کہ میں اس کا آخری نبی اور رسول ہوں شہادت دو (اور ایمان لے آؤ) تو میں زید کو تمہارے ساتھ ہجتیں دوں گا۔ اخ" (س حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید و رسالت کے ساتھ ہی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے)

ختم نبوت پر ایمان کا ہر نبی سے عہد لیا گیا ہے، اور اعلان کرایا گیا ہے فرماتے ہیں۔

علامہ محمود آلوی رحمہ اللہ "روج المعانی" میں آیت کریمہ: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الشَّيْءِينَ مِثَاقِيهِ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"اور حضرت قادہ ﷺ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے کا (اپنی اپنی امت میں) اعلان کرنے پر اور رسول اللہ کے اس اعلان پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، عہد و پیمان لیا ہے، (اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی رسالت کی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا تمام نبیوں سے عہد لیا گیا ہے)۔"

ضروریاتِ دین میں سے کسی امر کا انکار کرنے والے کی توبہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے توبہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں "ردا مختار" میں ج: ۳۹ پر علامہ ابن عابدین شامی "باب المرتد" کے تحت فرماتے ہیں:

"پھر یاد رکھو مسئلہ عیسوی ① سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ضروریاتِ دین میں سے کسی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہوا ہو، اس کی توبہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حلت شراب) سے بے علقی (اور توبہ) کا بھی اعلان کرے، (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لینا کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ یہ شخص کلمہ شہادت گہنے کے باوجود شراب کو حلال کہتا تھا (لہذا اس کے کفر و امرتداد کا ازالہ اس عقیدہ سے توبہ کرنے بغیر نہ ہوگا) جیسا کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے، اور (ہمارے نزدیک بھی) یہی ظاہر ہے۔ مصنف نبی فرماتے ہیں "جامع الفصولین" ج ۲ ص ۲۹۸ میں لکھا ہے

"پھر اگر اس (توبہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شہادت زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ اس خاص کلمہ کفر سے توبہ نہ کرے، جو اس نے کہا تھا، (اور جس کی بناء پر وہ کافر ہوا) اس لئے کہ اس شخص کا کفر محض کلمہ شہادت سے رفع نہ ہوگا۔"

رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا، ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی خاص شخص کو خدا یا خدا کا اوتار کہنا:.... ابن حزم رحمہ اللہ کتاب "الفصل" میں ج: ۳۹ پر فرماتے ہیں:

"جو شخص کسی خاص انسان کو کہے وہ اللہ ہے، یا اللہ کی تخلوق میں سے کسی کے جسم میں اللہ کے حلول کرنے کو مانتا ہو، یا علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہو، ایسے شخص کو

① فرقہ عیسوی یعنی اصفہانی یہودی کی جانب منسوب یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، جو فی الجد توحید و رسالت کا قائل ہے مگر ہمارے نبی ﷺ کی رسالت کے تمام نوع انسانی کے لئے عام ہونے کا مکار ہے، صاحب "بدائع" کے بیان کے مطابق اس پرہ وہ میں چند نہ اپنی بھی شامل ہیں، یہ فرقہ عراق میں اسی نام سے ساختہ معروف ہے، مراہعت کیجئے (برداختارن ۳۹۹ ص ۳۹۹) از ترجم۔)

کافر کہنے میں کوئی دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کر سکتے، اس لئے کہ ان میں سے ہر عقیدہ کے باطل اور کافر ہونے پر قطعی و لا کل قائم ہو چکے ہیں۔ ”اسی کتاب ”الفصل“ میں ج ۲۳ ص ۱۸۰ پر فرماتے ہیں۔ ”قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قول ”وَ لِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ اور احادیث صحیحہ میں رسول اللہ ﷺ کا قول ”لَا نَبِيٌّ بَعْدِي“ سن لینے کے بعد کوئی بھی مسلمان کیسے جرأۃ کر سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کو بھی نبی مانے؟ بجز عیسیٰ علیہ السلام کے جن کا استثناء خود حضور ﷺ نے آخر زماں میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح اور مرفوع روایت میں فرمایا ہے۔“

ختم نبوت کا عقیدہ ضروریاتِ دین میں سے ہے، اور اس کا انکار ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے خدا، رسول اور دین کے ساتھ استہزا ہے۔ اسی کتاب میں ص: ۲۵۵ اور ۲۵۶ پر فرماتے ہیں:

”اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص کسی بھی ایسے امر کا انکار کرے جس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ”مجموع عیسیٰ“ ہے، وہ کافر ہے، اور تصور شرعیہ سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یا اس کے کسی بھی فرشتے، یا انبیاء، یا ہم اسلام میں سے کسی بھی نبی، یا قرآن کریم کی کسی بھی آیت، یادِ دین کے فرائض میں سے کسی بھی فرض، اس لئے کہ یہ تمام فرائض آیات اللہ ہیں۔ کے ساتھ جدت واضح ہو جانے کے بعد جان بوجہ کراستہزا کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو بھی نبی مانے یا کسی ایسے امر کا انکار کرے جس کا اسے یقین ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول ہے، وہ بھی کافر ہے۔“

امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا آپ ﷺ کی ذات میں عیب چیزی موجب کفر وارتداد قتل ہے: ملا علی قاری نسیہ ”شرح شفاء“ میں ج ۲: ۳۹۳ پر فرماتے ہیں:

”تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر سب و شتم کرے (وہ مرتد ہے) اس کو قتل کر دیا جائے فرماتے ہیں: طبری نے بھی اسی طرح یعنی ہر اس شخص کے مرتد ہو جانے کو امام ابوحنیفہ نسیہ اور صاحبین سے تقل کیا کہ جو رسول اللہ ﷺ پر عیب گیری کرے، یا آپ ﷺ سے بے تعلقی (اور بے زاری) کا اظہار کرے، یا آپ ﷺ کی تکذیب کرے (وہ مرتد ہے) نیز فرماتے ہیں: حنون نسیہ (مالکی) کا قول ہے کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا، اور آپ ﷺ کی ذات مقدس میں عیب نکالنے والا کافر ہے، اور جو کوئی اس کے

کافر مذنب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔“

ص: ۵۲۶ پر فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو، نبیوں کو، جو کوئی، سب وشم کرے اس کو قتل کر دیا جائے (کہ وہ مرتد ہے)۔“ ص: ۵۲۵ پر فرماتے ہیں:

”تمام انبیاء ﷺ کی، تمام فرشتوں کی توہین و تحقیر اور سب وشم کرنے والے کا، یا جو دین وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کرنے والے کا، یا سرے سے ان کے وجود یا بیوت کا انکار کرنے والے کا حکم وہی ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے انکار، یا تکذیب، یا توہین و تحقیر اور سب وشم کرنے والے کا ہے (یعنی وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے)۔“

متواترات کا انکار کافر ہے، اور تو اتر سے عملی تو اتر مراد ہے: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”شرح فقہ اکبر“ میں ”محیط“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”جو کوئی شریعت کی متواتر روایات کا انکار کرے، وہ کافر ہے، مثلاً جو شخص مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت کا انکار کرے۔“

فرماتے ہیں: ”یاد رکھئے! اس مسئلہ میں تو اتر سے مراد معنوی تو اتر ہے، نہ کہ لفظی (جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جس کو ”حدیث متواتر“ کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں، بلکہ شریعت میں جو حکم متواتر سمجھا جاتا ہے اس کا منکر کافر ہے، اگرچہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق وہ متواتر نہ ہو، چنانچہ حرمت لبس حریر کی حدیث متواتر نہیں ہے، مگر شریعت میں مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت متواتر ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے آج تک امت اس کو حرام کہتی چلی آئی ہے، اسی کو تو اتر معنوی یا تو اتر عملی کہتے ہیں)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”فتاویٰ ہندیہ“ (عامگیری) میں بھی ”فتاویٰ ظہیریہ“ کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے نیز تمام علماء اصول فقہ باب ”النَّهُ“ میں اسی پر متفق ہیں (کہ مسئلہ تکفیر میں تو اتر معنوی معتر ہے اور اس کے ثبوت میں) امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا ہے

”اخاف الکفر علی من لم یوالمسح علی الخفین“

ترجمہ: ”جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہ سمجھے مجھے اس کے کافر ہو جانے کا ندیشہ ہے۔“

لہذا ان تصریحات و روایات کی بنابر کسی بھی متواتر حکم کی مخالفت اور انکار کرنے والا کافر ہے۔

فرماتے ہیں: یہی حکم اصول "بزد وی" میں ج: ۲ ص: ۷۳۶ پر اور "الکشف" میں ص: ۳۲۳ پر اور ج: ۲۳۰ میں مذکور ہے۔

قطعی اور یقینی امور کا منکر کافر ہے، جو معتزلہ قطعیات کے منکرنہ ہوں ان کو کافر نہ کہنا چاہئے۔ علامہ ابن عابدین شامی "ردا الحتار" (شامی) "باب الحرمات" ج: ۲ ص: ۳۹۸ کے تحت لکھتے ہیں:

"یہ حکم فتح القدیر سے مانو ہے، چنانچہ شیخ ابن ہمام رض فرماتے ہیں: باقی رہے معتزلہ تو دلائل کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے شادی بیاہ حلال ہونا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کافرنہ کہنا چاہئے، اگرچہ اہل حق ان کے عقائد پر بحث و نظر کے ذیل میں ان پر کفر لازم کر دیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے وجود میں کے قطعی اور یقینی عقائد و احکام کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کے قدیم ہونے کا قاتل ہو، اللہ تعالیٰ کے علم جزئیات کا (ہر چیز کے عالم ہونے کا) منکر ہو، ایسا شخص یقیناً کافر ہے، جیسا کہ محققین نے تصریح کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: جو شخص اللہ تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کا منکر ہو، اور صدور کا نہ کو اس کی ذات کا ایک ضطراری تقاضہ قرار دے وہ بھی قطعاً کافر ہے۔

کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے: ...حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ ابن حجر ع "صواعق محرقة" میں ص: ۲۵۲ پر شیخ تقی الدین بکی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: "یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے) اگرچہ خود کسی خبر واحد کا انکار کرنی ہیں، ہاں قطعی الثبوت امر کا انکار موجب کفر ہے"۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ ابن حجر ع کا اشارہ "صحیح ابن حبان" کی روایت ابوسعید خدری رض کی جانب ہے، جیسا کہ منذری نے "ترغیب و تہبیب" میں ج: ۲۳۲ پر ابوسعید خدری رض سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ "جس آدمی نے دوسرا آدمی کو کافر کہا، ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔" (یعنی جس کو کافر کہا ہے، اگر وہ فی الواقع کافر ہے تو فہما ورنہ اس کو کافر کہنے والا ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو گیا) اسی حدیث کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: فقد و جب الکفر على احدهما، (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہو گیا) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: قاضی شوکانی رض نے اسی حدیث کی بنابر افضیوں کو کافر قرار دیا ہے، جیسا کہ "ریاض المرتاض" میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے،

لہذا معلوم ہوا کہ خبر واحد کی بناء پر تکفیر جائز ہے)۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ ثقی الدین بن دقيق العید نے "شرح عمدہ" کے باب "اللعن" میں ان لوگوں کے قول کی تائید کی ہے جو اس حدیث کے مضمون کے قائل ہیں (کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے) اور اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کیا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: علماء کبار کی ایک ہڑی جماعت کی رائے بھی یہی ہے، جیسا کہ ابن حجر علیہ السلام نے اپنی دوسری کتاب "الاعلام بقواطع الاسلام" میں ذکر فرمایا ہے، نیز فرماتے ہیں: "جامع الفصولین" میں ج: ص ۳۱۱ پر بھی یہی لکھا ہے۔

نیز "المختصر مشکل آثار" میں ج: ص ۲۰۷ پر امام طحاوی علیہ السلام فرماتے ہیں: اس مقام (یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنے کی صورت میں) کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کفر ہے جس کا وہ معتقد ہے، (بالغاظ دیگر کسی مسلمان کو کافر کہنا، اسلام کو کافر کہنے کے مترادف ہے) تو اگر وہ شخص مؤمن ہوا اور (اس کا دین عین ایمان) تو اس کو کافر کہنے کے معنی یہ ہوئے کہ کہنے والا ایمان کو کافر کہتا ہے، لہذا وہ خود کافر ہو گیا، کیونکہ جو ایمان کو کافر کہے وہ خدا بزرگ و برتر کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ" (جو ایمان کا انکار کرے، اس کے تمام اعمال بر باد ہو گئے)۔

فرماتے ہیں: امام تیہنی رحمۃ اللہ نے کتاب "الاسماء والصفات" میں بھی خطابی کے حوالے سے یہی نصیحت کیا ہے (کہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے)۔

نیز فرماتے ہیں: نکاح کے باب میں زیل علیہ السلام کا جو قول "شرح کنز" میں ج: ص ۱۲۹ پر منتقل ہے کہ "پھر اگر خبر دینے والا خود ولی ہے۔ اخ"۔ اس میں "عقوبت" ① سے مراد دنیا کی سزا ہے، "فتح القدیر" میں بھی ج: ص ۲۰۰ پر "باب ادب القضاۃ" کے ذیل میں اس قول کو باختصار لفظ کیا ہے، اس کی مراجعت کیجئے فرماتے ہیں کنز کے متن میں باب "شیعۃ القضاۃ" کے ذیل میں ہی اس قول کو لفظ کیا ہے اور اس پر رمز (اشارة) اول کراہیت کی ہے، (یعنی کتاب الکراہیۃ کے شروع میں بھی

**①** اب مذکور ہے۔ وہ شیعۃ الہنفیہ میں کا نہیں بلکہ شیعۃ علیہ السلام کے ذیل میں "خبر واحد" کے متعلق ایک ضابط بیان کیا اور خبر واحد کے متعلق ایک اقتداء سے پہلی تفصیلیں لی جیں، اور فرمایا ہے کہ خبر واحد اور حقوق اللہ سے متعلق ہوتی جست ہوگی اور اگر موجب عقوبت ہے تو اس میں احتساب ہے لیکن عذالت آتیتی ہے جس کا اس میں مبنی ہوگی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ثبوت حکم کے لئے خبر واحد کافی نہیں ہے، بلکہ مختص عیہ الردیہ، لفظ "حمر" مدرج فرماتے ہیں کہ زیل علیہ کے اس بیان میں عقوبت سے عقوبت (یعنی "حد") نہیں مراد ہے، اور طلب یہ ہے کہ جس خبر واحد کا قول ہے، لیکن سے کوئی شخص عقوبت شرعی (شرعی حد) کا سخت بتاتا ہو ایسے معاملہ میں خبر واحد (ایک حد) ہے جوں ماہل نہیں ہے، اب تک نسب شہادت پورانہ ہواں لئے "الحدود تدریی بالشبهات" حدیں ذرا سے شبے سے ساقط ہو چکی ہیں۔

ج: ۲۰۵ پر اشارہ اس کا ذکر کیا ہے۔)

ایک شبہ کا ازالہ: حضرت مصنف بlessed کی جانب سے تنبیہ ④ فرماتے ہیں: جو لوگ مسئلہ تکفیر میں خبر واحد کو قابل عمل قرار دیتے ہیں، ان کی مراد یہ ہے۔ حدیث اَنَّهُ بَرَّ اَصْدِقَ بھی ہوتا ہے مفتی کے لئے مسئلہ تکفیر میں حکم کا مأخذ اور تکفیر کی پیداوار ہن سکتی ہے، (یعنی مفتی اس کی بنابر کافر ہونے کا حکم لگا سکتا ہے) باقی خود وہ شخص جس کا کافر کہا گیا ہے وہ فی نفسہ کافر ہوا ہے، اسی امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے، نہ کہ امر ظنی کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ فرق (کہ امر قطعی کا انکار کی وجہ سے کافر ہو گا اور امر ظنی کے انکار سے کافر نہ ہو گا) اس شخص کے حق میں ہے، باقی مفتی کے حق میں (کفر کا فتوی لگانے کے لئے) یہ طن کافی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں امر قطعی کا انکار کیا ہے، اس کے لئے قطعی یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ⑤ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رجم کے مسئلہ میں خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے لیکن کسی شخص پر رجم کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جاتا جب تک چار مرد زنا کی دادی نہ دیں، ایسے ہی اس مسئلہ تکفیر میں بھی ہے، حاصل یہ ہے کہ مسئلہ تکفیر میں کسی شخص کے کفر کا موجب تو فی نفسہ صرف انکار امر قطعی ہے، لیکن مفتی کو وجہ کافر (یعنی انکار امر قطعی) کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنے والی خبر واحد بھی ہو سکتی ہے۔ ⑥

یعنی اس کو بتلا سکتی ہے کہ فلاں امر قطعی کا انکار کفر ہے لیکن وہ امر (جس کے انکار کی وجہ سے کی، کافر کہا جائے) فی نفہ صرف امر قطعی ہی ہو سکتا ہے (اس لئے کہ امر ظہیر کے انکار سے انسان کا فرنہیں

۱) (مسئلہ زیر بحث یعنی "خبر واحد کی بنای پتختنگر جائز ہے" چونکہ سرسری انظر میں مسلم اصول دین کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس لئے۔ خبر واحد مسلم طور پر ظہی ہے، اور نکنہ صرف امر قطعی پر کی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک التباس اور رذوک اور تصور انظر کا نتیجہ ہے۔ حضرت مسیح نور اللہ مرقدہ اس التباس کا پروٹو چاک کرنے کی غرض سے تعمیر میں الرام کے عنوان سے نہایت صفاتیت کے ساتھ "سدیں" (حقیقت) کا بیان کر کے قارئین کو اس رذوک سے بچنے کی طرف متوجہ اور متذمّر کرنا چاہیے ہیں، فرماتے ہیں از مر جم۔

② حاصل یہ ہے کہ ایک ہے وجہ کفر، وہ تو صرف کسی امر قطعی کا انکار ہی ہو سکتی ہے، ایک ہے وجہ کفر کا ارتکاب، اس نے لے لئے تھن، ممان غائب کافی ہے، یقین ضروری نہیں، یعنی یہ بات نہیں کہ جب تک مفتی کو ارتکاب وجہ کفر کا ملم قطعی اور یقینی نہ ہو، یعنی وہ وہ کام کا نتیجہ نہیں ہے سکتے، اس نے کہ خبر واحداً مرچہ ظہنی نے مگر مسلم طور پر واجب اعمال ہے، اس نے مفتی یا واجب سے کہ ارتکاب وجہ کفر ہمہ امور ایسا ہے صورت میں وہ آنحضرہ فتویٰ لگا دے، اسی کا وہ ماموروں مکلف ہے۔ (از مرجم)

۳) چنانچہ اسلام کو فریکھنا حق کو باطل کرنے کے مترادف ہے، اور امر قطعی کا انکار ہے، لہذا جو شنیدی سامنے آمد ہے، وہ ایک امر قطعی ہے اور کرنے کی وجہ سے یقیناً کافر ہونا یعنی اس مات کا ممکن کرایک مسلمان کو "کافر" کرنے کے لئے اس کا مرکز ہے، یعنی اسے اسلام ختم ہوتے اس کا ملمعہ اس حدیث سے ہوا جو تبریز واحد ہے، لہذا اکم پر واجب کہ تم ایک مسلمان ہو فرمائیں۔ اپنے ہر ٹوکڑے کو دینا یعنی اس مسلم طور پر واجوب عمل کے لئے منعید ہے۔ (از مرجم)

ہوتا) فرماتے ہیں: اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عالم (اللہ) متواتر اور قطعی امور کو شمار کرے، اور ان کی فہرست بنائے (جن کا انکار کفر ہے) اس شمار اور فہرست میں بعض متواتر اور قطعی امور سہوا شمار کرنے سے رہ جائیں اور اس فہرست میں نہ آئیں اور کوئی عالم اس کو بتلانے کے فلاں فلاں قطعی امور تو تم نے چھوڑ دیئے اور اس فہرست میں شمار ہی نہیں کئے اور وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے سے پران امور کو بھی فہرست میں داخل کرے تو اس صورت میں وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے سے ایک امر قطعی کی طرف متوجہ ہو گیا (جو اس کے ذہن میں نہ تھا، یا سہوارہ گیا تھا) تو دیکھو وہ امر بجا نے خود قطعی ہے، اس شخص واحد کے کہنے سے قطعی نہیں ہوا ہاں اس شخص نے اس عالم کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔

بالکل اسی طرح زیر بحث مسئلہ میں وہ شخص کافر تو ہو گا صرف امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے کفر پر فتوی لگانے والا مفتی "خبر واحد" سے انکار امر قطعی پر متنبہ ہو جاتا ہے، اور کفر کا فتوی لگادیتا ہے، اس فرق کو خوب اچھی طرح سمجھلو، واللہ ولی التوفیق!

**ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ:** فرماتے ہیں "شرح فتاہ کبر" کے بیان سے یہ متوہم ہوتا ہے کہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متكلّمین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء تو امر ظنی کے انکار کی وجہ سے بھی کفر کا حکم لگادیتے ہیں، "خلاف متكلّمین کے" (کہ وہ صرف امر قطعی کے انکار پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں)۔

یہ خص توبہم ہے، درحقیقت مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متكلّمین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ صرف ان کے فن اور موضوع بحث کا اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء کا موضوع بحث "فعل مکلف" ہے اور ان کے پیشتر مسائل ظنی ہیں، (اس نے فقہاء دلائل ظنیہ کی بنا پر حق کفر کا حکم لگاتے ہیں) اور متكلّمین کا موضوع بحث عقائد قطعیہ ہیں اور وہ سب دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، (اس نے متكلّمین دلائل قطعیہ کی بنا پر ہی حکم کفر لگاتے ہیں) یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر دونوں فریق کا دائرہ بحث اور طریق کا مختلف اور الگ الگ ہو جاتا ہے ورنہ اصل مسئلہ تکفیر میں کوئی اختلاف نہیں اور بدوس تردود تکفیر کی بنیاد پر قائم کرنا جائز ہے، اس لئے کہ یہ ظن درحقیقت حکم کفر کا علم حاصل کرنے میں ہے، نہ کہ اس امر میں جو کسی شخص کی تکفیر کا موجب ہے (کہ وہ تو بے شک و شبہ سب کے نزدیک امر قطعی و یقینی ہی ہو سکتا ہے)

**ایک اور فرق:** حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

علاوہ از میں مسئلہ زیر بحث میں تکفیر کی جاتی ہے خبر واحد کے "مفہوم" و مضمون کی بنا پر نہ کہ اس کے ثبوت کے انکار کی بنا پر (چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خبر واحد کے ثبوت کا انکار کرے اور کہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں، اس لئے کہ یہ "خبر واحد" ہے تو اس کو کافر نہ کہا جائے گا) اور بسا اوقات

طريق ثبوت اور دلالت مفہوم و مضمون کے اختلاف کی وجہ سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں، دیکھنے شوافع نے صرف مضمون خبر واحد کا اعتبار کر کے (فرض اور سنت کی تقسیم کے وقت) صرف فرض کو (سنت کے مقابل) رکھا، اور واجب کو ترک کر دیا، اس لئے وہ خبر واحد سے فرض کو ثابت کرتے ہیں، اس کے بر عکس حنفیہ نے کیفیت ثبوت کو پیش نظر رکھا۔ ①

(اور تین قسمیں کیس، فرض، واجب، اور سنت اور خبر واحد سے صرف واجب کو ثابت کیا، اور فرض کے ثبوت کے لئے خبر واحد کو ناکافی قرار دیا، ثمہ اخلاف یہ لکھا کہ شوافع کے نزدیک خبر واحد سے فرض ثابت ہو سکتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک خبر واحد سے فرض نہیں ثابت ہو سکتا) فرماتے ہیں اسی وقت نظر کے ساتھ اس مقام کو سمجھنا چاہئے، اور تو فیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

**کفر یا اقوال و افعال کے ارتکاب کرنے سے مسلمان، کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ دل میں ایمان موجود ہو:** حضرت مصنف علیہ الرحمۃ و سری تنہیہ ② کے عنوان سے فرماتے ہیں:  
علماء بعض اعمال و افعال کے موجود کفر ہونے پر متفق ہیں، جالانکہ ان کے ارتکاب کے وقت تصدیق قلبی (ایمان) کا موجود رہنا ممکن ہے، اس لئے کہ ان اعمال و افعال کا تعلق ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ اعشا، جسم سے ہے، نہ کہ قلب سے مثلاً ہنسی دل لگی کے طور پر زبان سے کلمہ کفر کہہ دینا، اگرچہ دل میں اس کا اعتقاد بالکل نہ ہو، یا بت (وغیرہ غیر اللہ) کو سجدہ کر لینا، یا کسی نبی کو مارڈا النا، یا نبی کے قرآن کے، یا کعبے ساتھ استہزا کرنا (کہ ان تمام افعال کے ارتکاب کرنے سے متفق طور پر انسان کافر ہو جاتا ہے اگرچہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو) فرماتے ہیں: (ان اعمال و افعال کے ارتکاب کرنے والے کے کافر ہونے پر تو سب متفق ہیں لیکن) کفر کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔  
۱۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صاحب شریعت علیہ نے ایک تصدیق و ایمان کا ازرو ہے حکم اعتبار نہیں

① یعنی زیریں اختلاف کا حاصل ہے کہ فقبہ، مضمون و مفہوم خبر واحد کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے انکار کی بنا پر تکفیر رکھتے ہیں، اور تینین رکھتے ہو تو پیش نظر رکھتے ہیں اور ثبوت خبر واحد کے انکار پر تکفیر نہیں کرتے بلکہ اور حقیقت فریقین میں کوئی اختلاف نہیں جس پیش کیا گی، پر تو تکفیر رکھتے ہیں وہ اور بت (یعنی) "مضمون خبر واحد" اور جس پیش کی جائے تو تکفیر نہیں کرتے وہ اور ہے (یعنی) انکار ثبوت خبر واحد (اما محدث)۔

② عاصمہ پر تکفیر یا اقوال و افعال کے ارتکاب اگوں کی وجہ تکفیر کی پہنچ ہے تو وہ خود بھی اور ان کے ہم نواہی یہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان اندر کا مادہ تو اس پر ہے، جب تک کسی کے دل میں خدا کو رسول پر ایمان موجود ہے اس کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح قاصر انتظار علماء بھی یہ کہا ہے۔ تینیں کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، جب تک یہ تصدیق قلبی موجود ہے، کسی مسلمان کو کسی قول فعل کی بنا پر کافر اور ایمان ایمان سے نارین نہیں جا سکتا، اس لئے حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ تعمیرے حوالن سے مہما امت کی تصریحات پیش کر کے اس مباحثہ (وہ اور پڑتے ہیں)

کیا (اور کا عدم قرار دیا ہے) اگرچہ حقیقت موجود بھی ہو (لہذا ایسے لوگ شرعاً کافر ہیں) حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الایمان" میں طبع قدیم ۱۳۲۵ھ کے ص: ۲۰ پر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی وجہ کفر نقل کرتے ہیں۔

۲..... اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو قول فعل تو ہیں تحقیر کا موجب ہواں کے ارتکاب پر کافر کہا جائے گا، اگرچہ تو ہیں تحقیر کا قصد نہ بھی ہو، (گویا یہ قول فعل عدم ایمان کی دلیل ہیں ایسی صورت میں اس شخص کا دعویٰ ایمان مسموع نہ ہوگا) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "رد المحتار" میں یہی وجہ کفر بیان کی ہے۔

۳..... بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان (صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس) میں کچھ اور امور بھی معتبر ہیں (جن میں خدا اور رسول وغیرہ کی عقیدت و احترام بھی شامل ہے) لہذا ایسے شخص کی تصدیق کو جو مذکورہ بالا اعمال و افعال کا مرتكب ہے، ایمان نہیں کہا جائے گا۔

۴..... بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شرعاً مومن کے لئے جو تصدیق معتبر ہے، یہ اعمال و افعال قطعاً اس کے منافی ہیں، (لہذا ایسا شخص شرعاً مومن نہیں ہے) علامہ قاسم نے "مسایہ" کے حاشیہ میں اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ کفر بیان کی ہے، مختصر یہ ہے کہ انسان بعض اعمال و افعال اور اقوال کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی متفقہ طور پر کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ تصدیق قلبی لغوی اور ایمان سے خارج نہ بھی ہوا ہو۔

**کافروں کے سے کام کرنے والا مسلمان ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے:**  
 چنانچہ "شفاء" اور "مسایہ" میں قاضی ابو بکر بافلانی کا مذکورہ ذیل قول نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں:  
 "اگر کسی شخص نے کسی ایسے قول یا فعل کے زرعیہ معصیت کا ارتکاب کیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے سول علیہ السلام نے اصریح فرمائی ہو، یا امت کا جماع ہو کہ" یہ قول فعل کسی کافر ہی سے سرزد ہو سکتا ہے۔" یا کوئی اور قطعی (دلیل) اس پر قائم ہو (کہ یہ فعل ایک کافر ہی کر سکتا ہے) تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

**کفر یہ اقوال و اعمال ہے..... ابوالبقاء "کلیات" میں فرماتے ہیں:**

"بھی انسان قول سے کافر ہوتا ہے اور بھی فعل سے، موجب کفر کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی ایسے امر شرعی کا انکار کر دے جو مجمع علیہ ہو، اور اس پر نص صریح بھی موجود ہو، خواہ اس کا عقیدہ بھی وہی ہو، خواہ عقیدہ تو وہ نہ ہو، مگر مخفی عناد یا استہزا کے طور پر انکار کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، (ہر صورت میں) کافر ہو جائے گا، اور موجب کفر فعل وہ "کفر یہ مل" ہے جو انسان عمدًا کرے اور وہ دین

کے ساتھ کھلا ہوا استہزاء ہو، مثلاً بہت کوجدہ کرنا۔

بغیر کسی جبرا کراہ کے زبان سے کلمہ کفر کہنے والا کافر ہے، اگرچہ اس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو: .... ”شرح فقہ اکبر“، میں ص: ۱۹۵ پر علامہ قوتویؒ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:

”اگر کسی شخص نے اپنی خوشی سے (بغیر کسی جبرا کراہ کے) زبان سے عمدًا کلمہ کفر کہہ دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس کا عقیدہ نہ بھی ہو، اس لئے کہ (اس صورت میں) زبان سے کلمہ کفر کہنے پر اس کی رضا پائی گئی (اور رضا بالکفر، کفر ہے) اگرچہ وہ اس کے حکم یعنی کافر بننے پر راضی نہ بھی ہو، اور ناؤاقفیت اور جہل کا عذر بھی مسموع نہ ہوگا، عام علماء کا فیصلہ یہی ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، (اور ناؤاقفیت کو عذر تسلیم کرتے ہیں) نیز علامہ موصوف فرماتے ہیں ”خلافت شیخین“، کا منکر کافر ہے۔“

اسی ”شرح فقہ اکبر“، میں ملا علی قاریؒ نے خود فرماتے ہیں:

”پھر یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر کہنے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا حکم یہ ہے (کہ انسان کافر ہو جاتا ہے) اگرچہ وہ اس کا معتقد نہ بھی ہو لیکن کہے برصاد و غبت (بغیر کسی جبرا کراہ کے) تو اس پر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لئے کہ بعض علماء کے نزدیک مختار یہ ہے کہ تصدیق قلبی اور اقرار اسلامی دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے لہذا یہ کلمہ کفر کہنے کے بعد وہ اقرار، انکار سے بدال گیا (اور ایمان باقی نہ رہا)

ملا علی قاریؒ کی ”شرح شفاء“، میں ج: ۲ ص: ۳۲۹ پر اور کچھ حصہ ج: ۲ ص: ۳۲۸ پر بھی یہی تحقیق مذکورہ ہے۔

ناؤاقفیت کا عذر کس صورت میں مسموع ہے اور کس میں نہیں؟.... اسی ”شرح فقہ اکبر“ کے آخر میں فرماتے ہیں:

”میں کہتا ہوں پہلا قول (کہ جہالت عذر ہے) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، الایہ کہ ایسے امر کا انکار کرے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو، ایسی صورت میں اس انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا، جہالت کا عذر مسموع نہ ہوگا۔

زبان سے کلمہ کفر ب شخص قرآن موجب کفر ہے: .... حافظ ابن تیمیہؓ ”الصارم المسلط“، میں ص: ۵۱۹ پر فرماتے ہیں:

”اسی لئے (کہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”لَا تَعْتَدُ رُواْقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ“ (التوبہ: ۹۶)

ترجمہ: ”تم کوئی عذر مت پیش کرو، اس لئے کہ بے شک تم ایمان لانے کے بعد (کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے) کافر ہو گئے۔“

فرماتے ہیں:

یہاں اللہ تعالیٰ نے (قد کفترم کے بجائے) یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے قول: ”إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ“ میں ”جهوٹے ہو، یعنی ان کو اس عذر میں جھوٹا نہیں کہا بلکہ یہ بتایا کہ تم اس بُنْسی دل لگی اور کھیل کو د کے طور پر کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے ہی ایمان کے بعد کافر ہو گئے (پس بُنْس قرآن معلوم ہوا کہ بُنْسی، دل لگی کے طور پر کلمہ کفر کہنا بھی موجب کفر ہے، اگرچہ قصداً کچھ بھی ہو)۔ ”ص ۵۲۲ پر اس کی مزید وضاحت کی ہے اسی طرح امام ابو بکر جصاص بنیتہ نے ”ادکام القرآن“ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

شارع علیہ السلام نے محض کلمہ کفر زبان سے کہنے کو موجب کفر قرار دیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان تصریحات کے پیش نظر یہ کہنا کچھ بعد نہیں کہ صاحب شریعت علیہ السلام نے مذکورہ سابق حدیث (ابوسعید) میں ایسے مسلمان کے کافر کہنے کوہی جس کا اسلام سب کو معلوم ہے کفر قرار دیا ہے اس لئے کہ شارع علیہ السلام کو اس کا اختیار ہے (کہ وہ کسی بھی قول یا فعل کو کفر قرار دے دیں) نہ اس لئے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے ضمن میں اسلام کو کفر کہنا لازم آتا ہے (کہ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے) اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَهْمٍ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (النساء: ۶۵)

ترجمہ: ”پس قسم ہے تیرے رب کی وہ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک تجوہ کو اپنے باہمی جگہزوں میں حاکم با اختیار نہ مان لیں، اور پھر تیرے فیصلوں سے اپنے دلوں میں ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور کلی طور پر (تجھ کو حاکم مختار) تسلیم کر لیں۔“

(اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کے تمام احکام و معاملات میں کلی طور پر مختار بنادیا ہے، اور اسی اختیار کے تحت حضور علیہ السلام نے کسی مسلمان کے کافر کہنے کو کفر قرار دیا ہے) اور اللہ تعالیٰ تو تمام امور کے مالک و مختار ہیں ہی (اسی لئے اس نے اپنے نبی کو امت کے

احکام و معاملات میں مختار بنا دیا ہے۔

**کفر کو کھیل بنالینا کفر ہے:** ... ”ایشار الحق“، میں ص: ۳۳۲ پر امام غزالیؒ کے حوالے سے (اس تکفیر کی) وجہ یہ بیان کی ہے۔

”کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے والا جبکہ اس کے اسلام کا معتقد ہے تو اس کے باوجود اس کو کافر کہنے کے یہ معنی ہوئے کہ جس دین کا وہ پیرو ہے وہ کفر ہے اور وہ پیرو ہے اسلام کا تو گویا کہنے والے نے اسلام کو کفر کہا، اور جو کوئی اسلام کو کفر کہے وہ خود کافر ہے، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو۔“  
مصنفؒ فرماتے ہیں: تو دیکھو غزالیؒ نے اسے کفر کے ساتھ دل لگی (یعنی کفر کو کھیل بنا لینے کے متادف) قرار دیا ہے (اور اس کو موجب کفر کہا ہے)

**مرزا غلام احمد قادری اور اس کے ماننے والے تما مرزاٹی کافر ہیں:**  
مصنفؒ فرماتے ہیں:

یہ مردود (مرزا غلام احمد ملیہ ماعلیہ) اور اس کے تبعین یقیناً اس حدیث کا مصدق ہیں اس لئے کہ یہ لوگ عبد حاضر کی تمام امت مسلمہ کو (علی الاعلان) کافر کہتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ خود ان کو (onus حدیث و قرآن) کافر قرار دیا جائے نہ کہ تمام عالم اسلامی کو، اس لئے کہ حدیث مذکور کے مطابق یہ امت مسلمہ کی تکفیر خود ان پر پڑی (اور عص حدیث دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے یہ سب کافر ہو گئے یہ خدائی مار ہے) اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جوارا دہ کرتے ہیں اس کا حکم کردیتے ہیں (اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی زبان سے کافر بنا دیا) بقول شاعر

فقد کان هدا للهم لا للهم فاولی لهم ثم اولی لهم

ترجمہ: ”یہ تو ان کی دلیل ہے، نہ ان کی، پس ان کے لئے ہلاکت ہوا اور پھر ہلاکت ہو۔“

چنانچہ حافظ ابن قیمؒ زاد المعاوٰؒ میں باب ”احکام الفتح“ کے تحت فرماتے ہیں:

”بخلاف مبتدعین اور اہل اہواء (گمراہ فرقوں) کے کہ یہ لوگ تو اپنے عقائد باطلہ کی مخالفت اور خود اپنی جمالت کی بناء پر تمام مسلمانوں کو کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع (گمراہ) کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں، بنسخت ان مسلمانوں کے جن کو وہ کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے عص حدیث خود کافر ہو گئے)۔“

**مسلمہ تکفیر کے مزید حوالے:** ... مصنفؒ بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تکفیر کا مسئلہ ”تحیر“ اور اس کی شرح ”تقریر“ میں مذکورہ ذیل عنوانات کے تحت مندرجہ ذیل

صفحات پر مذکور ہے، (مراجعة فرمائیے)

۱: مسئلہ العقلیات الی آخرہ، ج: ۳۰۳، ص: ۳۱۸۔

۲: ثم قال السبکی الی آخرہ، آخر شرح میں

۳: والفصل الثانی فی الحاکم، ج: ۲، ص: ۹۰

۴: والباب الثانی ادلة الاحکام، ج: ۲، ص: ۲۱۵

۵: ومسئلة انکار حکم الاجماع القطعی ج: ۳، ص: ۱۱۳ وص: ۳۰۵

۶: وانما لهم القطع بالعمومات ..... الخ۔ ج: ۳، ص: ۱۱۰ و ۳۰

۷: اجیب بان فائدته التحول ..... الخ۔ ج: ۳، ص: ۲۵

۸: ومن اقسام الجهل ..... الخ۔ ج: ۳، ص: ۳۱۷

۹: والهزل۔ ج: ۲، ص: ۲۰۰

فرماتے ہیں: تبلیغ سے متعلق "مستصفیٰ" اور "تقریر" میں مذکورہ ذیل صفحات پر ہے:

"المستصفیٰ": ..... ج: ۱، ص: ۱۳۳۔ ۱۳۷۔ ۱۵۱۔

"التقریر": ..... ج: ۳، ص: ۳۱۶۔ ۳۲۷۔



## ضروریاتِ دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسموع نہیں اور ان میں تاویل کرنے والا کافر ہے

ضروریاتِ دین امور قطعیہ کے علاوہ امور حقہ میں تاویل مسموع ہے،  
ضروریاتِ دین اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسموع نہیں<sup>۱</sup> اور موال تاویل  
کرنے کے باوجود کافر ہے:

مصنف بیہدہ فرماتے ہیں: ”کلیات ابوالبقاء“ میں ص: ۵۵۳، ۵۵۴ پر لکھا ہے ”ہر وہ شخص جس  
کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کافر ہے:

اب اگر وہ صرف زبان سے ایمان کا اظہار (اور مسلمان ہونے کا دعویٰ) کرتا ہے تو وہ منافق ہے  
اور اگر ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگر ایک سے زائد معبود مانتا ہے تو وہ  
مشرک ہے اور اگر کسی منسوخ دین اور کتاب کا تبع ہے تو وہ کتابی ہے اور اگر زمانہ کو قدیم مانتا ہے اور  
حوادث عالم کو اسی کی جانب منسوب کرتا ہے (یعنی ”زمانہ“ کو ہی کائنات کا خالق اور اس میں  
متصرف مانتا ہے) تو وہ معطل ہے اور اگر رسول اللہ ﷺ کی نبوتوں کا اقرار کرتا ہے مگر اسی کے ساتھ  
باطنی طور پر ایسے عقیدے رکھتا ہے جو متفقہ طور پر کفر ہیں تو وہ زندگی ہے۔“

ممانعت تکفیر اہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اور اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ نیز حضرت  
مصنف بیہدہ فرماتے ہیں:

اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت صرف شیخ ابوالحسن اشعری بیہدہ اور فقہاء کا قول ہے، مگر جب ہم ان  
(نام نہاد) مسلمان فرقوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ہم ایسے عقائد موجود پاتے ہیں جو قطعی  
طور پر کفر ہیں، لہذا ہم (اس مسئلہ کا عنوان یہ قرار دیتے ہیں کہ):

<sup>۱</sup> صحیح کفر یہ عقائد رکھنے والے اور کفر یہ اقوال و اعمال کا ارتکاب کرنے والے نام نہاد مسلمان افراد یا فرقوں پر جب علمائے حق کفر  
کا حکم اور فوتی لگاتے ہیں تو احتیاط کوکوش اور تسلیل پسند علماء ان کی تکفیر سے یہ کہہ کر احتراز کرتے ہیں کہ ”موال کی تکفیر شرعاً جائز نہیں۔“ اور  
خود وہ لوگ بھی علماء حق کے مقابلہ پر اس فقرہ کو بطور ”پر استعمال“ کرتے ہیں اس لئے حضرت مصنف قدس اللہ سرہ، ”تکفیر اہل قبلہ“ کی طرح  
اس مسئلہ ”تاویل“ پر بھی ایک مستقل عنوان اور باب قائم کر کے علم مجتہدین کے اقوال و آراء پیش فرماتے ہیں اور اس مسئلہ کی تکملہ تحقیق اور  
تحقیق فرماتے ہیں۔ (از مترجم)

"ہم اہل قبلہ کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں۔"

اور یہ قول (لا نکفر اهل القبلة اگرچہ ظاهر عام ہے، لیکن یہ) ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ حَمِيعًا" (بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کروئے گا) حالانکہ کفر و شرک (وہ گناہ ہیں جو کسی کے نزدیک بھی بدول توہ) معاف نہ ہوں گے۔ ①

فرماتے ہیں: چنانچہ جمہور اہل سنت فقہاء اور متكلمین "اہل قبلہ" میں سے ان مبتدع (گمراہ فرقوں کی تکفیر سے منع کرتے ہیں جو) ضروریات دین میں نہیں بلکہ (ضروریات دین کے علاوہ عقائد اور موجہ میں باطل تاویلیں کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی یہ تاویلیں بھی ایک قسم کا "شبہ" ہیں (الہذا ان کا کفر یقینی نہ ہوا))

فرماتے ہیں: یہ مسئلہ بیشتر معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

اجماع ضروریات دین میں سے ہے: ... اس "کلیات" میں ص ۵۵۳، ۵۵۵ پر لکھا ہے: "اس قطعی اور یقینی اجماع کی (مخالفت اور انکار) کرنا جو ضروریات دین میں سے ہو گیا ہو، میقیناً کفر ہے اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کے منکر کو کافر کہنے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ صرف اس منکر کو کافر کہنے میں ہے جو تاویل کی بنابر (کسی ایسے) امر قطعی کا انکار کرے (جو ضروریات دین میں سے نہ ہو) چنانچہ فقہاء متكلمین اہل سنت میں سے بیشتر علماء کی رائے اور جمہور اہل سنت کا مختار یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے اس مبتدع اور گمراہ فرقہ کو کافرنہ کہا جائے، جو ضروریات دین کے علاوہ اور عقائد و مسائل میں تاویل کرتا ہے (اور تاویل کی بنابر مخالفت کرتا ہے) اس لئے کہ تاویل بھی ایک قسم کا "شبہ" ہے جیسا کہ "خزانہ جرجانی، محیط برہانی، احکام رازی اور اصول بزدومی" میں مذکور ہے اور کرنی اور حاکم شہید تے امام ابوحنیفہ سے بھی یہی روایت کیا ہے نیز جرجانی امام حسن بن زیاد سے بھی یہی روایت لفظی کرتے ہیں اور شارع مقاصد، شرح موافق اور آمدی نے امام شافعی سے بھی یہی روایت کیا ہے، نہ کہ مطلقاً (یعنی یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کسی بھی "موقوں" اہل قبلہ کی تکفیر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ضروریات دین کا سب استثناء کرتے ہیں، الہذا ضروریات

① اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِ يَشَاءُ" (الہذا معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں "ذنب" سے کفر و شرک کے مابعد اگناہ و مراد ہیں، بالکل اسی طرح یہ تمام علماء ایک طرف فرماتے ہیں "ہم اسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔" دوسری طرف انہی اہل قبلہ میں سے گمراہ فرقوں کے بعض عقائد و اعمال کو فخر سریں قرار دیتے ہیں ایسا ہے "مفهوم ہوا۔" ان کی مراد مدد و رہ بیاناتوں سے یہ ہے کہ جب تک اہل قبلہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے اس لئے کہ اخیر یہ عقائد و اعمال اختیار کر لئے ہے بعد تو وہ کافر ہو گئے اہل قبلہ ہے ہی نہیں، الہذا ان کی تکفیر اہل قبلہ کی تکفیر ہے ہی نہیں۔ از مرجم۔)

دین کا منکر سب کے نزدیک کافر ہے اور اس کی کوئی تاویل مسموع نہیں)

امر قطعی کا انکار بہر صورت کفر ہے: مصنف ہے فرماتے ہیں:

”فتح المغیث“ میں، ”مبتدعین“ کی روایت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے ذیل میں ص:

۱۳۴ پر لکھتے ہیں:

”یہ تمام تر نزاع ان بدعتیوں“ (اور گمراہیوں کے) متعلق ہے جو موجب کفر نہیں ہیں، رہی موجب کفر بدعتیں تو ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ان کے موجب کفر ہونے میں کوئی تردید کیا ہی نہیں جاسکتا (ان کے ماننے والے یقیناً کافر ہیں، ان کی روایت ہرگز مقبول) نہ ہوگی) مثلاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معدوم چیز سے واقف ہونے۔“ کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہی: ”اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ہی جانتا ہے۔“ یادہ لوگ جو ”جزئیات کے علم“ کے بالکل منکر ہیں، یادہ لوگ جو ”حضرت علیؑ“ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے کے قائل ہیں۔“ یادہ لوگ اللہ تعالیٰ لئے صاف اور صریح طور پر ”جسم“ ثابت کرتے ہیں اور اس کو ”جسم“ (عرش پر چوکڑی مارے جیسی بوا) مانتے ہیں، فرماتے ہیں: الہذا صحیح فیصلہ یہ ہے کہ ہر اس راوی کی روایت رد کرو می جائے گی جو شرایعت کی ایسے متواتر امر کا انکار کرے، جس کے ثبوت یا نفي کا ”دین سے ہوتا“ یقینی طور پر معلوم و معروف ہو، لیکن جو راوی ایسا نہ ہو (یعنی قطعیات اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو) اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ و ضبط روایت اور تقویٰ و پر ہرگاری کے ساتھ موصوف ہو، اور اسکے راوی کی باری تمام صفات اور صحت روایت کے تمام شرائط اس میں موجود ہوں تو ایسے مبتدع کی روایت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق: صاحب ”فتح المغیث“ آگے چال کر فرماتے ہیں

”دلائل و برائیں سے ثابت ہے کہ کافر کا حکم اس شخص پر آگاہ یا جائے گا جس کا قول حصہ صحیح کافر ہو یا کفر صریح اس کے قول سے لازم آتا ہو، اور اس کو بتا دیا جائے (کہ تمہارے قول پر یہ کافر لازم آتا ہے) تب بھی وہ اسی پر مصروف ہے لیکن اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا (کہ یہے کے قول پر یہ کافر لازم آتا ہے) اور اس کفر کی مدافعت کرتا ہے (اور جواب دیتا ہے) تو وہ کافر نہ ہوگا، اگرچہ (اہل حق سے نزدیک) وہ امر جو لازم آتا ہو کافر ہو۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں صاحب ”فتح المغیث“ کے اس (۱۰۳ ص) بیان کہ ”امر غیره قطعی“ (کے انکار پر محوں کرنا چاہیئے تاکہ یہ بیان ان کے پہلے بیان کے موافق ہو جائے (اور اتنا وہ پیدا ہو، اس لئے کہ پہلے بیان سے ظاہر ہے کہ امر قطعی کا انکار بہر صورت موجب کافر ہے، اس کے تسلیم کرنے یا

نہ کرنے پر مطلق مدارثیں، اور دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لزوم کفر کو تسلیم کرنے کے باوجود مصر رہے تو کافر ہے، ورنہ نہیں، لہذا پہلا بیان امر قطعی کے انکار سے متعلق ہے، اور دوسرا امر غیر قطعی کے انکار سے)۔

نیز فرماتے ہیں: صاحب "فتح المغیث" سے پہلے ابن دیق العید رحمۃ اللہ علیہ اسی تحقیق کو بیان کر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

"ہمارے نزدیک محقق یہ ہے کہ ہم روایت کے معاملہ میں راویوں کے مذہب (اور معتقدات) کا اعتبار نہیں کرتے، اس لئے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، الایہ کہ وہ شریعت کے کسی امر قطعی کا انکار کرے (تو بے شک اس کو کافر کہتے ہیں اور اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: صاحب "فتح المغیث" کا پہلا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے مأخوذ ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ورشید محقق ابن امیر حاج رحمۃ اللہ علیہ بھی "تحریر" کی شرح میں اپنے شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے نقل کرتے ہیں۔

**لزوم کفر اور التزام کفر کے بارے میں قول فیصل:** مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: لزوم کفر اور التزام کفر کے مسئلہ (محققین کی تحقیق) کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے کسی عقیدہ کی وجہ سے کفر لازم آتا ہوا اس شخص کو اس کا پتہ نہ ہو، اور جب اس کو بتالا یا جائے (کہ تمہارے قول پر یہ کفر لازم آتا ہے) تو وہ اس کفر کے لازم آئے کا انکار کرے اور وہ (متنازع فیہ امر) ضروریات دین میں سے نہ ہو، اور اس کفر کا لازم آنا بھی واضح و ظاہر نہ ہو بلکہ محل بحث و نظر ہو) تو ایسا شخص کافر نہیں ہے اور اگر لازم آئے تو تسلیم کرتا ہو مگر کہتا ہو کہ: "یہ (جو میرے قول پر لازم آتا ہے) کافر نہیں ہے۔" اور محققین کے نزدیک اس کافر ہونا مسلم ہو تو اس صورت میں بھی وہ کافر ہے۔

فرماتے ہیں یہی (تحقیق و تفصیل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو بکر بالفلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے) چنانچہ وہ قاضی ابو بکر بالفلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مذکورہ ذیل نقل کرتے ہیں:

"جو علماء مبتدئین کے قول پر لازم آنے والے کفر پر مسوغہ جائز نہیں سمجھتے اور (اہل تحقیق کے نزدیک) ان کے عقیدہ کا جو تقاضا (کفر) ہے، وہ ان پر لازم (عامد) نہیں کرتے وہ ان کو کافر کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان مبتدئین کو اس (لزوم کفر) سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں کہتے کہ (مثلاً) اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور یہ جو نتیجہ تم نے ہمارے قول سے نکالا ہے (اور ہم پر

الزام عاکد کیا ہے) اس کا تو ہم بھی ایسے ہی انکار کرتے ہیں جیسے تم، اور تمہاری طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ (انکار عفت علم) کفر ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ: ”ہمارے قول سے یہ (انکار صفت علم) لازم ہی نہیں آتا جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا۔“ (اس لئے ایسے لوگوں کو کیونکر کافر کہا جائے)

نیز فرماتے ہیں: اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت سے جاہل ہو نقل کیا ہے کہ: ”وہ کافر نہیں“ اور اس کی وجہ شیخ نے یہ بیان کی ہے:

”اس لئے کہ یہ جاہل شخص اس طرح (قول) کا معتقد نہیں ہے کہ اس کے حق ہونے کا اسے قطعی یقین ہوا اور اسی کو دین و مذہب سمجھتا ہو، اور کافر صرف اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قطعی اعتقاد یہ ہو کہ میرا قول ہی حق ہے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہی (تفصیل) ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے بھی واضح ہوتی ہے۔

## خاتمه

**کسی بھی امر مجع علیہ کا منکر کافر ہے، ”مجع علیہ“ سے کیا مراد ہے؟**

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”شرح جمع الجوامع“ میں ج: ص ۲۳۰ پر فرماتے ہیں:

ا..... ہر ایسے ”مجع علیہ امر“ کا منکر قطعاً کافر ہے جس کا امور دین میں سے ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، یعنی ایسا امر جس کو ہر خاص و عام بغیر کسی شک و شبہ اور تردید کے ”دین“ سمجھتا اور جانتا ہو، اور اسی لئے وہ ضروریات دین میں شامل ہو گیا ہو اور مثلاً نماز، روزہ کی فرضیت اور شراب و زنا کی حرمت کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہو، (یعنی فرضیت صوم و صلوٰۃ اور حرمت شراب و زنا کی طرح امت اس کو ”دین“ سمجھتی ہو) اس لئے کہ ایسے امر کے انکار سے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب لازم آتی ہے، اور ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ اور آمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے جو متوبہم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے (یہ قطعاً غلط ہے) ان دونوں محققوں کی مراد یہ ① نہیں ہے (جو متوبہم ہوتا ہے) چنانچہ محقق بنانی شرح ”جمع الجوامع“ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”بلکہ ان دونوں حضرات کی مراد یہ ہے کہ جس مجع علیہ امر کا ”دین“ ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم

① ہر دو بزرگوں کے بیانات سے واضح ہے کہ امر ممتاز فی الضروریات این میں سے نہیں ہے، تب ہی اتنی کہا جائی اور قائل ہو رہی ہے ورنہ ضروریات این اور قطعیات کا انکار ہو۔ کھلا ہوا کفر ہے، اس میں اتنی بحث و تجھیس کی گنجائش ہوئی نہیں سکتی۔ (مترجم)

نہ ہو، اس میں اختلاف ہے (کہ اس کے منکر کو کافر کہا جائے یا نہیں) باقی جس مجمع علیہ امر کا "دین" ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوا اس کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔"

اس کے بعد شرح "جمع الجوامع" میں فرماتے ہیں:

۲: ... اسی طرح وہ متفق علیہ اور (مسلمانوں میں) مشہور و معروف امور (اگرچہ ضروریاتِ دین کے مرتبہ کوئی پہنچ ہوں مگر) ان یہ حدیث و قرآن کی نص صریح (موجود) ہو، مثلاً بیع و شراء کا حلال (اور سود کا حرام) ہونا، ان کا منکر بھی صحیح تر قول کے مطابق کافر ہے، اس لئے کہ اس میں بھی رسول اللہ ﷺ کی تکذیب لازم آتی ہے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں منکر کی تکفیر نہ کی جائے، اس لئے کہ ممکن ہے کہ اس شخص کو قرآن و حدیث کی وہ نصوص معلوم نہ ہوں۔

۳: ... اور ان مجمع علیہ مشہور و معروف امور کے منکر کے کافر ہونے میں تردید ہے جن پر قرآن و حدیث کی نص صریح موجود نہ ہو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مجمع علیہ امور کے منکر کو بھی کافر کہا جائے، اس لئے (کہ اگرچہ نص صریح موجود نہیں مگر) ان کا دین ہونا مشہور و معروف ہے، لیکن بعض علماء کا قول ہے کہ ایسے امر مجمع علیہ کے انکار پر تکفیر نہ کی جائے اس لئے کہ ممکن ہے اس شخص کو اس شہرت کا علم نہ ہو۔

۴: ... اور وہ امر مجمع علیہ جو مخفی ہوں کہ اس کو صرف "خواص ابل علم" ہی جانتے ہوں (عام لوگ اس سے واقف نہ ہوں) مثلاً حج میں وقوف عرفات سے پہلے "بتماء" کر لینے حج کا فاسد ہو جانا (ایسے امر مجمع علیہ کا منکر کافر نہیں ہوتا) اگرچہ اس مسئلہ میں نص شرعی موجود بھی ہو، مثلاً حقیقی بیٹی کے موجود ہوتے پوتی کے چھٹے حصے کے وارث ہونے کا اتحاقاً، چنانچہ "بخاری" کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ خود حضور ﷺ نے مذکورہ پوتی کے وارث ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، (مگر چونکہ امر مخفی ہے، اس لئے مجمع علیہ ہونے کے باوجود اس کا منکر کافر نہ ہوگا)

۵: ... اسی طرح اگر کوئی شخص (دینی امور کے علاوہ) کسی اور دینی متفق علیہ امر کا انکار کرے، مثلاً دنیا میں "بغداد" کا وجود، تو اس کا منکر بھی کافر نہ ہوگا۔

❶ صاحب "جمع الجوامع" کے بیان کے مطابق "مجموع علیہ" (متفق علیہ) امور پانچ قسم کے ہیں ۱۔ وہ امور جن کا دین ہونا اس قدر مشہور و معروف اور یقینی ہو کہ ضروریاتِ دین کے مرتبہ کوئی پہنچ گئے ہوں۔ ۲۔ وہ مشہور و معروف امور جو اگرچہ ضروریاتِ دین کے مرتبہ کوئی پہنچ ہوں مگر منصوص ہوں۔ ۳۔ وہ مشہور و معروف امور جو صرف مشہور ہوں، منصوص نہ ہوں۔ ۴۔ وہ مخفی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہوں، اگرچہ منصوص ہوں۔ ۵۔ دینی امور نمبر ۱ کا منکر قطعاً کافر ہے۔ نمبر ۲ کا منکر ارج یہ ہے کہ کافر ہے، اس لئے کہ وہ مشہور بھی ہیں اور منصوص بھی۔ نمبر ۳ کے کافر ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتیال ہے، مخفی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ منکر کو کافر نہ کہا جائے، منصوص ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کافر کہا جائے۔ نمبر ۴ کا منکر یقیناً کافر نہیں ہے، اسی طرح نمبر ۵ کا منکر بھی کافر نہیں ہے۔)

کبار صحیقین کے اقوال و حوالے:.... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: (اجماع کی جیت کے متعلق) یہ تحقیق عام کتب اصول میں مذکور ہے، مثلاً آمدی کی کتاب "الا حکام" میں "المسلسلة السادسة من الاجماع" کے تحت، اور "ومن شرائط المرادی" کے ذیل میں۔ اسی طرح "محتصراً بن حاجب" میں، اور "التحریر" اور اس کی شرح "التقریر" میں، اسی طرح شرح مسلم میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "فتاویٰ ابن تیمیہ" میں "اختیارات العلمیہ" کے تحت اور کتاب "الایمان" میں صد اپر فرماتے ہیں:

"یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ مومنین کا "اجماع" جلت ہے، اس لئے کہ اجماع امت کی مخالفت سے مخالفت رسول ﷺ الزم آتی ہے (اور رسول کی مخالفت کفر ہے)، نیز اس امر کی بھی دلیل ہے کہ ہر مجمع علیہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی نص (حدیث صریح) کا ہونا ضروری ہے، لہذا ہر وہ مسئلہ جس کے متعلق قطعی یقین ہو کہ امت اس پر متفق ہے اور کوئی مسلمان اس کا مخالف نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے قول (آیت کریمہ) کے مطابق وہی بدایت ہے اور اس کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسے کسی نص صریح کا منکر (کافر ہے)

لیکن جس مسئلہ میں "اجماع امت" کا گمان ہو، قطعی یقین نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو بعض اوقات اس کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان امور میں سے ہے بھی جن کا حق ہونا حضرت رسول اللہ ﷺ کی نص سے ثابت ہے، لہذا ایسے اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا، بلکہ (ایسی صورت میں تو) بعض مرتبہ اجماع کا گمان ہی غلط ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہی صحیح ہوتا ہے۔<sup>۱</sup> فرماتے ہیں:

"یہ اس مسئلہ (جیت اجماع) کا واضح اور مفصل ترین بیان ہے کہ کوئی سا اجماع جلت ہے، اور اس کا مخالف کافر ہے، اور کوئی سے اجماع کا مخالف کافر نہیں ہے۔" زرقانی جلد ۶ ص ۱۶۸ اپر مقصد سادس کی نوع ثالث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا رسول اللہ ﷺ پر ایمان کے معتبر ہونے کے لئے یہ جانا بھی شرط ہے کہ آپ ﷺ "بشر" تھے، یا "عربی النسل" تھے، حالانکہ یہ (بتلانا) مثلاً ماں باپ وغیرہ پر فرض کفایہ ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی ذی شعور اولاد کو یہ بتا دیا (کہ آپ ﷺ بشر تھے یا عربی النسل تھے) تو دوسرے سے یہ فرض ساقط ہو گیا (یہی فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے، تو کیا فرض کفایہ

<sup>۱</sup> حاصل یہ ہے کہ "اجماع قطعی" جلت ہے اور اس کا مخالف منکر کافر ہے اس کے بر عکس "اجماع ظنی" میں یہ دلوں باتیں نہیں ہیں اسی لئے اس کا مخالف منکر کافر بھی نہیں ہے۔

ہونے کے باوجود یہ صحت ایمان کے لئے شرط ہے)“ فرماتے ہیں:

”شیخ ولی الدین حافظ حدیث احمد بن حافظ حدیث عبد الرحیم عراقی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بے شک یہ جانتا شرط صحت ایمان ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ بتے کہ اس پر تو میرا ایمان ہے کہ محمد ﷺ تمام مخلوق کے لئے رسول ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ ﷺ سے یہ بشرط ہے، یا فرشت یا جس، یا یہ کہے کہ: میں یہ نہیں جانتا کہ آپ ﷺ عربی میں یا تھمی؟ تو اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لئے کہ یہ قرآن کی تکذیب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، دوسری آیت میں فرماتے ہیں: لَا أَقُولُ لِكُمْ أَنِّي مَلَكٌ، پہلی آیت میں عربی اصل ہونا اور دوسری آیت میں بشر ہونا منصوص ہے، لہذا اس شخص کا عربی النسل یا بشر ہونے سے انکار، قرآن کا انکار و تکذیب ہے، نیز یہ شخص ایک ایسے امر یقینی اور مجمع علیہ کا انکار کرتا ہے جس کو امت روز اول سے ”اباعن جد“ جانتی چلی آتی ہے، اور ہر خاص و عام قطعی اور یقینی طور پر (آفتاب نصف النہار کی طرح) جانتا اور مانتا ہے، لہذا یہ (اجماع امت) ضروریات دین میں سے ہو گیا (جس کا انکار کفر ہے) اور ہمارے علم میں (امت میں) اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہوا (اس لئے اجماع قطعی ہو گیا) لہذا اگر کوئی ایسا جاہل اور غبی ہو کہ اس (اظہر ممن الشتم) امر و بھی نہ جانتا ہو تو اس کو بتانا اور آگہ کرنا (ہر مسلمان کا) فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اس امر ضروری (بد یقین) کا انکار کرے تو ہم اس کو ضرور کا فرقہ راویں گے اس لئے کسی بھی امر ضروری ”بد یقین“ کا انکار کرنے ہے باقی جو امر ضروری اور یقینی نہیں ہے اس کا انکار بے شک کفر نہیں ہے اگرچہ بتانے کے پڑے بھی انکار کیسی جائے، (زرقاں کے اس طویل بیان سے بھی واضح ہو گیا کہ ”اجماع قطعی“ کا انکار کفر ہے) از مقام فرماتے ہیں: شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ کی کتاب ”البھجۃ“ کے شارحین کے بیان ہا حصہ بھی یہی ہے۔

**ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی ہے، اس کا منفرد قطعاً کافر ہے، اور اس میں کوئی تاویل**

**و تخصیص قابل سماعت نہیں:** (بِمَنْهُ إِنْ يَرَى سَبَبَ الْقِسْمَادَ) میں فرماتے ہیں:

”امت مسلمہ نے (رسول اللہ ﷺ) نے ان الخاتم (انقطعنت النبوة والرسالة فلانی) بعدی ولا رسول کا مطلب بھی سمجھا ہے اپنے ترجیح نے (اپنی امت کو) بتایا ہے کہ میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہو گا رسول، اور یہ کہ اس بیان میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص، اب جو کوئی اس میں کوئی تاویل یا تخصیص کرتا ہے اس کا قول از قبل بدلیاں و باؤس ہے، ایسے شخص کو کافر کہنے میں کوئی

امر مانع نہیں اس لئے کہ یہ شخص اس نص صریح کی تکذیب کرتا ہے، جس سے متعلق امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص۔“

**قاعدہ کلیہ:** کون سی بدعت (گمراہی) موجب کفر ہے اور کون سی نہیں؟

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رسائل ابن عابدین میں ص: ۳۶۰ پر فرماتے ہیں:

”اس پر بھی اجماع ہے کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو ایسی قطعی دلیل کے مخالف ہوں فی ہو جو علمی یقینی یعنی اعتقاد و عمل کو واجب کرتی ہے اس کے معتقد مبتدع کی تکفیر سے کوئی شبہ مانع نہیں آجھا جائے گا چنانچہ ”الاختیار“ میں تصریح کی ہے کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو ایسی قطعی دلیل کے خلاف ہو جو علم اور اس پر عمل کو قطعاً واجب قرار دیتی ہے وہ کفر ہے، اوجو بدعت ایسی دلیل کے مخالف نہ ہو بلکہ صرف ایسی دلیل کے خلاف ہو جو ظاہر عمل کو واجب کرتی ہے وہ بدعت (گمراہی) کفر نہیں ہے۔“

اس رسائل ابن عابدین کے ص: ۲۶۲ پر فرماتے ہیں:

”دوسراؤں جو ”محیط“ میں مذکور ہے وہی ہے جو ہم شرح ”الاختیار“ اور ”شرح عقائد“ سے اسے قبل نقل کر چکے ہیں، اس قول میں اور ابن المندز رکے بیان میں اس طرح توفیق پیدا کی جاسکتی ہے کہ ابن المندز کی مراد ان لوگوں سے جن کو کافر کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو قطعی دلیل کا انکار کریں۔“

ضروریات دین کا منکر کافر ہے، امور قطعیہ کا منکر بتلانے کے باوجود بھی انکار پر مصر رہے تو وہ بھی کافر ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”بنای“ کے دستیاب نئے میں باب ”البغاث“ کے ذیل میں لکھا ہے:

”محیط میں مذکور ہے کہ اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کو کافر کہنے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ بعض علماء تو کسی بھی مبتدع فرقے کو کافر نہیں کہتے اور بعض علماء ان میں سے بعض کو کافر کہتے ہیں (بعض کونیں) یہ علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو کسی قطعی دلیل کے خلاف ہو وہ اثہر ہے (اور اس کا ماننے والا کافر ہے) اور جو بدعت کسی قطعی اور موجب علم و یقین کے خلاف ہے جو وہ بدعت گمراہی ہے (اور اس کا ماننے والا گمراہ ہے، کافر نہیں ہے) علماء اہل سنت و احمداء عت کا اسی پر اعتماد ہے۔“

فرماتے ہیں: باقی ”فتح القدر“ میں جو اس (فرق) پر کلام ہے کہ صاحب محیط کی مراد (ان امور سے جن میں اختلاف ہے) وہ امور ہے جو ضروریات دین میں سے نہ ہوں، (یعنی یہ تنقیل اور فرق صرف غیر ضروریات دین میں ہے، اور ضروریات دین کا منکر بہم سعودت کافر ہے) اور اتنے عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر اکتفاء کیا ہے (کہ یہ فتن صفات نیئے نہ ضروریات دین میں ہے) تو متحقق اہن

ہمام نبیت نے "فتح القدریہ" کے باب "الامامة" میں اس کے اندر تردد کا اظہار کیا ہے (کہ ضروریات دین میں یہ فرق معتبر ہے یا نہیں) چنانچہ "فواتح الرحموت" میں اس پر تنبیہ بھی کی ہے۔

فرماتے ہیں: اہذا "محیط" کا بیان انظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے، خاص کر جب کہ وہ اس کو اکثر علماء اہل سنت کا مسلک بتاتے ہیں، ابن عابدین نبیت نے بھی باب "البغة" میں اس "فتح القدریہ" کے بیان پر استدراک کیا ہے، اور جبکہ ضروریات دین پر تکفیر کرنے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جیسا کہ "تحیری" میں اس کی تصریح کی ہے اور ایسے قطعی امور پر تکفیر کو جو ضروریات دین میں سے نہ ہو صرف اس صورت پر محدود کیا ہے جبکہ خود مذکور کو ان کے قطعی ہونے کا علم ہو یا اہل علم اس کو بتلا آئیں، اس کے باوجود بھی وہ انکار پر قائم اور مقرر ہے جیسا کہ "مسایرہ" میں ص: ۲۰۸ پر اس کی تصریح کی ہے، تو پھر مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے اور بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ①

**موجب کفر بدعت کے مرتكب کے پیچھے نماز جائز نہیں:** مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "بدائع الصنائع" میں جوفہ حنفی کی بلند پایہ اور مستند کتاب ہے، ص: ۷۵ اپر لکھا ہے: "مبتدع" (گمراہ) اور فاسد العقیدہ شخص کی امامت مکروہ ہے، امام ابو یوسف نبیت نے "اماں" میں اس کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ امام مبتدع اور فاسد العقیدہ ہو، اس لئے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے باقی رہا یہ کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض مشائخ احناف تو فرماتے ہیں کہ مبتدع کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں چنانچہ "مشقی" میں تو امام ابو حنیفہ نبیت سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ امام صاحب مبتدع کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر وہ بدعت موجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے پیچھے تو نماز ناجائز ہے، اور اگر موجب کفر نہیں ہے تو جائز ہے، لگر مکروہ ہے۔

**امام ابو حنیفہ نبیت کے مشہور قول ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی حقیقت:** حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ "مشقی"، جس کی روایت کا صاحب "بدائع" نے حوالہ دیا ہے وہی "مشقی" ہے جس کے حوالہ سے "مسایرہ" میں ص: ۲۱۳ پر امام ابو حنیفہ نبیت سے ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا مشہور قول نقل کیا

① حاصل یہ ہے کہ ضروریات دین کے انکار پر تو مذکور کی تکفیر متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح اور قطعی امور کے انکار پر بھی تکفیر متفق علیہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یادہ ان کے قطعی ہونے کو جانتا ہو، اور پھر انکار کرے یا بتلانے کے باوجود بازنہ آئے اور انکار پر مقرر ہے، صرف اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جو ایسے قطعی امور کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے نہ ہوں، اور مذکور کو ان کے قطعی ہونے کا علم نہ ہو، سو ایسے مذکور کو ان امور کے قطعی ہونے سے آگاہ کیا جائے اگر بازاں جائے تو فہماور نہ اس کو بھی کافر قرار دے دیا جائے گا۔ (والله اعلم)

ہے (جس کا تذکرہ آپ کا ہے) لہذا ”مدعی“ کا یہ بیان اس بیان کی وضاحت کرتا ہے (کہ امام صاحب نبیؐ کے نزدیک صرف اس صورت میں اہل قبلہ کی تغیر ممنوع ہے کہ جس میں ضروریات دین کا انکار یا قطعی امر کی مخالفت نہ ہو ورنہ اگر کوئی اہل قبلہ ضروریات دین، یا امر قطعی کا انکار کرے گا تو اس کو ضرور کافر کہا جائے گا، اسی لئے اس کے پچھے نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: باب ”الشهادۃ“ کے ذیل میں بھی یہی تفصیل بیان کی ہے اور ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں تو تصریح کی ہے کہ (امام محمد نبیؐ نے) ”اصل“ (مبسوط) میں اس (نماز نہ ہونے) کی تصریح کی ہے۔ صاحب ”ابحر الرائق“ نے بھی ”خلاصۃ الفتاویٰ“ سے یہی نقل کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”فتح القدیر“ کے اس بیان کی بھی مراجعت کرنی چاہئے جو ”مطلق ثلاث کی تحلیل کے حیلہ“ سے متعلق ہے۔

ضروریات دین اور دین کے قطعی امور کا منکر پا کافر ہے، جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: علامہ عبدالحکیم سیالکوئی ”حاشیہ خیالی“ میں فرماتے ہیں:

”والتاویل فی ضروریات الدین لا یدفع الکفر۔“

ترجمہ: ”ضروریات دین میں تاویل کفر نہیں بجا سکتی۔“

فرماتے ہیں: ”خیالی“ میں بھی یہی بیان کیا ہے۔

مجد الف ثانی نبیؐ مکتوبات ”امام ربانی“ میں ج: ۳۸، ج: ۳، ص: ۹۰ پر فرماتے ہیں: ”چونکہ یہ مبتدن (گمراہ) فرقہ اہل قبلہ میں سے ہے، اس لئے ان کی تغیر اس وقت تک نہ کرنی چاہئے جب تک کہ یہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں اور وہ متواترات شرعیہ گوردنہ کریں اور ان امور کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں جن کا دین سے ہونا یقینی (اور بدیہی) طور پر معلوم ہے۔“

تاویل باطل خود کفر ہے:.... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”فتوات البیهی“ میں ج: ۲ ص: ۸۵ پر فرماتے ہیں: تاویل فاسد (باطل) کفر کے مانند ہے۔ باب ۲۸۹ کی مراجعت کیجئے۔

ازووم کفر، کفر ہے یا نہیں؟:.... ”کلیات ابوالبقاء“ میں لفظ ”کفر“ کے تحت لکھتے ہیں: ”بر و قول موجب کفر ہے جس میں کسی مجمع علیہ اور منصوص امر کا انکار پایا جائے، چاہے اس کا معتقد ہو، چاہے ازرا و عناؤ کہا ہو (اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا)۔“

امام شعرانیؑ "یواقیت" میں فرماتے ہیں:

"کمال الدین ابن ہمامؓ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کسی کے مذہب سے جو امر لازم آئے وہ اس کا مذہب نہیں ہوتا، اور محض کفر کے لازم آنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اس لئے کہ لازم آجانا اور بات ہے اور اس کا التزام (اختیار) کرنا اور بات ہے، لیکن "موافق" کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ (لزوم کفر کا کفر نہ ہونا) اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس صاحب مذہب کو اس لازم آنے کا اور اس کے کفر ہونے کا علم نہ ہو (اور اگر وہ جانتا ہے کہ میرے مذہب پر یہ لازم آتا ہے اور یہ کفر ہے، اس کے باوجود وہ اس پر قائم ہے تو یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ رضا بالکفر کفر ہے) اس لئے کہ صاحب "موافق" کے الفاظ یہ ہیں:

"من يلزمـه الـكـفـر و لا يـعـلـمـ بـهـ لـيـسـ بـكـفـرـ"

ترجمہ: ... "جس کو کفر لازم آجائے اور اس کو اس کا علم نہ ہو، وہ کافر نہیں ہے۔

اس کے مفہوم سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ جانتا ہے تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔

"کلیات ابوالبقاء" میں فرماتے ہیں:

"(کسی کے قول سے) ایسے کفر کا لازم آنا بھی کفر ہے جس کا کفر ہونا (سب کو) معلوم ہو، اس لئے کہ جب (لازم اور اس کا) لزوم ظاہر و واضح ہو تو پھر وہ التزام (جان بوجھ کر اختیار کرنے) کے حکم میں ہے، نہ کہ علمی میں لازم آنے کے حکم میں۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "موافق" کی (مذکورہ بالا) عبارت میں لازم کے کفر ہونے کو جانے کی قید نہیں ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ لازم آنے کو جانتا ہو، (یعنی امام شعرانیؑ نے "لازم کے کفر ہونے کا علم" از خود اضافہ فرمایا ہے، صاحب "موافق" کی عبارت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ علمی میں جو کفر لازم آجائے وہ کافر نہیں ہے)

ضروریاتِ دین میں تاویل بھی کفر ہے، بلکہ تاویل انکار سے بھی بڑھ کر مشہور محقق حافظ محمد بن ابراہیمؓ وزیر الیمانی اپنی کتاب "ایثار الحق علی الخلق" میں ص: ۲۳۱ پر فرماتے ہیں:

"اس لئے کہ ضروریاتِ دین کا انکار یا ان میں تاویل کرنا کفر ہے۔"

اسی کتاب کے ص: ۲۳۰ پر فرماتے ہیں:

”علاوہ ازیں ان ① پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی امر حرام کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو عمد़ اخیار کرنے کی نسبت اس امر حرام کو تاویل کر کے حلال بنایا زیادہ سخت (گمراہی کا موجب) ہوتا ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ تاویل سے حلال بنایا ہوا امر ایسا ہو کہ اس کی حرمت قطعی طور پر سب کو معلوم ہو، مثلاً ترک صلوٰۃ (یعنی کسی تاویل کی بنابر نماز کو ترک کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ نماز جاہل اور سرکش عربوں میں نظم و ضبط اور اتباع امیر کا شعور پیدا کرنے کے لئے تھی، اور وضوان کو طہارت و نظافت کا عادی بنانے کے لئے اور تمیس اس کی ضرورت نہیں ہے) چنانچہ جو شخص (اسی قسم کی کوئی) تاویل کر کے نماز چھوڑتا ہے، وہ متفقہ طور پر کافر ہے، اوجو شخص قصد انماز نہیں پڑھتا مگر اس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو کافر کہنے میں اختلاف ہے (بیشتر ائمہ و فقہاء، اس کو گنہگار اور فاسق کہتے ہیں، بعض علمائے ظاہر اس کو کافر کہتے ہیں) تو دیکھیے مذکورہ مثال میں تاویل (کا حکم عمد़ اترک کے مقابلہ میں) تحریم کے لحاظ سے کتنا سخت ہے (کہ تاویل کر کے نماز چھوڑنا متفقہ طور پر کافر ہے، اور بغیر کسی تاویل کے عمدَ انماز ترک کرنے کے لفڑ ہونے میں اختلاف ہے۔ وُنیٰ کافر ہوتا ہے اور وُنیٰ نہیں)“

جو تاویل ضروریاتِ دین کے مخالف و منافي ہو، وہ کافر ہے: اسی ذیل میں جس: ۱۲۱ پر فرماتے ہیں:

”نیز کبھی انسان ایسے امور میں تاویل کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، جن میں تاویل کی مطلق گنجائش نہیں جیسے ”قرامط“ کی تاویلیں (کہ اللہ سے مراد امام وقت ہے) اور بعض تاویلوں سے ضروریاتِ دین کی مخالفت لازم آجاتی ہے، اور تاویل کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا (اور کافر ہو جاتے ہیں) یہ وہ مقام ہے جس میں انسان علم الہی اور احکام آخرت کے اعتبار سے کفر کے خطرہ سے ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا، اگرچہ ہمیں علم نہ ہو۔“

صفحہ: ۱۲۱ پر فرماتے ہیں:

”اسی طرح علماء امت کا اس پر بھی اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ کسی بھی قطعی امر مسموع (یعنی ایسا امر جس کا رسول اللہ ﷺ سے مسموع ہونا یقینی ہو) کی مخالفت کافر اور اسلام سے انگل جانے کے مترادف ہے۔“

اسلام متبع ہے، کسی کے تابع نہیں: نیز صفحہ: ۱۳۸ پر فرماتے ہیں:

”نیز یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ اسلام (ایک مکمل و مرتب) واجب الاتباع نہ ہب ہے نہ کہ

① یعنی ان لوگوں پر جو ”نمط تاویل“ کی بنابر کسی مسلمان کو کافر کہنے والے لوگوں کا فریب ہے یہ ہے۔

(انسانی ذہن و فکر کا) اختراع کر دو (اور ساخت پرواختہ طریق کار، لہذا اس میں کسی انسانی عقل و قیاس کو داخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی) اور اسی لئے جو شخص (کسی بھی وجہ سے) اس کے کسی بھی رکن کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اس لئے کہ اس کے تمام ارکان قطعی اور یقینی طور پر معروف و متعین ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کسی امر باطل کو اس کے بطلان پر متذمّر کئے بغیر علی الاعلان اور بار بار ذکر نہیں کر سکتی، خاص کروہ امر جس کو یہ (منکرین) باطل نام رکھ رہے ہیں، وہی امر کتاب اللہ کی تمام آیات اور دوسری تمام کتب سماویہ میں مذکور و معروف ہے، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت اس کے مخالف و منافق بھی نہیں کہ تطبیق و توفیق (اور رفع تعارض) کی غرض سے اس میں تاویل کی صورتیں پیدا کی جائیں۔

**فرقہ باطنیہ کی تاویلیں:** محقق موصوف "تاویلات باطلہ" کے ذیل میں ص: ۱۲۹ اور ۱۳۰ پر فرماتے ہیں:

"تاویل کی حیثیت سے، مذاہب باطلہ میں سب سے زیادہ فحش اور سب سے زیادہ مشہور فرقہ باطنیہ (قرامط) کا مذہب ہے، جنہوں نے اثباتِ توحید اور تقدیس و تنزیہ کے نام سے تمام (صفات الہیہ) اور اسماء حسنی الہیہ کی عجیب عجیب (مضنون خیز) تاویلیں کر کے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات و اسماء کی نفی اور انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ان اسماء و صفات کے اطلاق سے تشییہ الزم آتی ہے (اور اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشییہ دینا شرک ہے) اور اس سلسلہ میں اس قدر حد سے بڑھے اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ کہنے لگے: "اللہ تعالیٰ کونہ موجود کہا جاسکتا ہے اور نہ معدوم" بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ: "اللہ تعالیٰ کو الفاظ و حروف سے تعبیر بھی نہیں کیا جاسکتا" اور تمام اسماء حسنی جو قرآن میں وارد ہیں ان کی تاویل یہ کی کہ ان سے مراد (اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ) ان کا "امام وقت" ہے اور اسی کا نام ان کے نزدیک "اللہ" ہے اور لا الہ الا اللہ (کلمہ توحید میں بھی) "اللہ" سے مراد "امام زمان" ہے (نحوہ باللہ من شرور افسوس) ① فرماتے ہیں:

"ان کا یہ عقیدہ حد تواتر کو پہنچ چکا ہے اور میں نے پچشم خود ان کا یہ عقیدہ ان کی بے شمار کتابوں میں دیکھا ہے جو ان کے ہاں متداول اور دستیاب ہیں، یا ان کے کتب خانوں، خزانوں اور ان قلعوں کے اندر پائی گئی ہیں جن کو بزرگ شمشیر مسخر کیا گیا، یا طویل محاصروں کے بعد فتح کیا گیا یا جو ان میں سے بعض کے ہاتھوں سے فرار ہوتے وقت چھینی گئیں، یا خفیہ مقامات پر چھپی ہوئی ملی ہیں، جن کو انہوں نے اپنے عقائد کے طشت از پام ہونے کے خوف سے چھپا دیا تھا، پس جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ

①..... ہمارے زمانہ میں بھی ایک زندیق بیانگ دلی اپنی تصانیف میں لکھ رہا ہے کہ "اطیعوا اللہ" سے مراد "مرسلت" یعنی حاکم وقت ہے۔ حق ہے: "جس کا کھائیں اسی کے گن گائیں۔"

یہ عقیدہ اور تاویل کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ تاویل ایسی تاویل نہیں جسی کی آیت کریمہ: "وَاسْأَلُ الْقَرِيْبَةَ  
الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا" میں ہے کہ "قریبۃ" سے مراد اہل عیر ہیں، جس کو علماء معانی "ایصال بالحذف" کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر اس کا علم صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس کی عمر اسلامی ماحول اور مسلمانوں میں گزری ہو، اور اس کے کان اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں، اور وہ باطنی فرقہ کا آدمی جس نے باطنیوں میں اور باطنی ماحول میں پروش پائی ہو، وہ بھلا اس حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟"

فرماتے ہیں:

"اسی طرح وہ محدث جس کی عمر احادیث و روایات کے مطابعہ و مذاکرہ میں گذری ہو، وہ بعض متکلمین کی تاویلوں کو ایسا ہی (غلط) جانتا ہے (جیسے یہ اسلامی ماحول میں پروش پانے والا مسلمان "باطنیہ" کی تاویلوں کو) اسی طرح ایک متکلم جس کی عمر علم کلام میں گذری ہو، وہ احادیث و روایات رسول ﷺ سے بعيد اور احوال سلف سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ایک محدث کے علم سے ایسا ہی دور اور جبکی ہوتا ہے، جیسا یہ باطنی ایک مسلمان کے علم سے نہ آشنا ہے۔ لہذا ایک متکلم تو علماء ادب و معانی کے مقرر کردہ اصول اور شرائط مجاز کو پیش نظر رکھ کر تاویل کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک محدث کے پاس قطعی یقینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے (ان تصور میں) یہ تاویل یقیناً نہیں کی جیسے ایک متکلم کے پاس (اصول عربیت و معانی کے پیش نظر) یقینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے اسماء حسنی الہبیہ میں یہ تاویل ہرگز نہیں کی کہ ان کا مصدقاق "امام زماں" ہے، اگرچہ وہ "مجاز بالحذف" جس کے تحت باطنیہ نے اسماء حسنی میں تاویل کی اپنی جگہ از روئے لغت سب کے نزد یک صحیح ہے، لیکن اس کے لئے خاص مقام اور مخصوص قرائیں ہوتے ہیں جن کی بنابر "مفہاف" کو مدد و فرمانا جاسکتا ہے۔ باطنیہ نے ادب و لغت کے اس قاعدہ کو یقیناً بے محل استعمال کیا ہے۔ اسی کتاب "ایثار الحق" ص: ۵۵ اپر فرماتے ہیں:-

"باقی رہی تفسیر، سو وہ "ارکانِ اسلام" (مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) اور "اسماء حسنی الہبیہ" جن کے معنی و مراقبہ سمجھی اور یقینی طور پر سب کو معلوم ہیں، ان کی تفسیر کو تو ہم ممٹوں قرار دیتے ہیں، اسلئے کہ وہ بالکل واضح ہیں (کسی تفسیر و تشریع کے محتاج نہیں) اور ان کے معانی و مصادیق متعین ہیں (ان میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں) ان کی تفسیر تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ان میں تحریف کرنا چاہتا ہے، جیسے ملحد، باطنیہ اور جن کے معنی و مراقبہ یقینی طور پر معلوم نہ ہوں، اور ان کے متعین کرنے میں وقت اور دخواری ہو تو اگر ان کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا خطہ اور غلطی کرنے میں گناہ کا اندیشہ ہو تو ان میں سے

جو عقائد سے متعلق ہیں (ان کو تو ہم علی حالہ رہنے دیں گے اور) جو ان میں خود ساختہ تعبیرات کو بالکل ترک کر دیں گے اور احتیاط و توقف کا مسلک اختیار کر دیں گے، اس لئے کہ ان میں عمل کا تو سوال ہی نہیں کہ ان کے متعین معنی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہو (پھر تفسیر کی ضرورت کیا؟ جس طرح قرآن میں وارد ہوا، اسی طرح ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی ان کی مراد ہے برق  
ہے اگرچہ ہمیں اس کا علم نہ ہو) اور اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہو (اور عمل سے اس کا تعلق ہو) تو ہم ظن غالب پر عمل کر دیں گے (یعنی ظن غالب سے ان کے معنی و مراد کو متعین کر کے ان پر عمل کر دیں گے) اس لئے کہ عملیات میں ظن غالب ہی معتبر ہے اور باجماع امت ظن غالب پر عمل کرنا واجب یا جائز ہے۔“  
والله الہادی والموافق!

دین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے:۔۔۔ اسی کتاب کے ص:۱۴ پر فرماتے ہیں:  
”وَمِنْ يَهُ كَمَا اَنْتَ كَمَا اَنْتَ“ کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس دین کی جو قطعی طور پر معلوم و معروف ہے، مخالفت کرے اس کو ”کافر“ کہا جائے گا، اور اگر وہ دین میں داخل (اور مسلمان) ہونے کے بعد (اس مخالفت کی بنا پر) دین سے نکلا ہے تو اس کو ”مرتد“ کہا جائے۔ اور اگر دین انسان کی (عقل و قیاس اور) نظر و فکر سے ماخوذ ہوتا (یعنی عقل انسانی دین کی مدون ہوتی) تو اس کا منکر کافر ہے ہوتا، اس لئے کہ اس صورت میں دین کو تجویز کرنے والی بھی عقل انسانی ہوتی اور مخالفت کرنے والی بھی عقل انسانی، اور ایک عقل انسانی کو دوسری عقل انسانی پر کوئی فوکیت اور اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں کہ اس کا مخالف مرتد اور واجب القتل ہو) اللہدا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایک کامل و مکمل اور محکم و پختہ (عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر) دین لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ کہ کسی شخص کی یہ محال نہیں ہے کہ وہ آپ ﷺ کے بعد اس دین پر نکتہ چینی اور حرف گیری کی (چہ جائیکہ ترمیم و تحسیخ یا نظر ثانی کی) اہمیت کرے۔ اور آپ کے دین کو کامل بنانے کا نام لے۔“<sup>۱</sup>

موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں:۔۔۔ اسی کتاب کے ص:۲۱۵ پر فرماتے ہیں:  
”يَا أَيُّوب! إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ عَمَدًا تَكَذِّبَ (جَحَّاً نَّزَلَ)“ پر ہے خواہ معروف مشہور کتب الہیہ میں سے کسی کتاب کی تکذیب ہو، خواہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی تبی و رسول کی تکذیب ہو، خواہ اس دین و شریعت کی تکذیب ہو، جس کو وہ لے کر دنیا میں آئے، بشرطیکہ وہ امر دین جس کی تکذیب کی گئی ہے، اس کا ضروریات دین میں سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں

<sup>۱</sup> اس زمانہ میں جو لوگ اسلام کی ”تغیرتو“ کے نام سے وین کوچ کر دے جیسے، وہاں تکوں آجئے ہیں۔

کہ یہ عمدہ اتکندیب یقیناً کفر ہے، اور جو شخص اس کا مرتكب ہو گروہ ذمی ہوش، عاقل و بالغ انسان ہے اور حواس باختہ (دیوانہ و پاگل) یا مجبور و مضطرب نہیں ہے تو یقیناً کافر ہے، اور اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں جس نے کسی مجتمع علیہ اور بدیہی طور پر معلوم و معروف امر دین کے انکار پر تاویل کا پروہڈا ہوا ہو، درآنجائیے اس میں تاویل ممکن نہ ہو، جیسے کہ محدث "قرامط" نے کیا ہے۔

زیر بحث مسئلہ میں "القواعد والعواصم" کے اہم ترین اقتباسات مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: انہیں محقق محمد بن ابراہیم الوزیر الیمنی کی دوسری کتاب "القواعد والعواصم" سے ہم زیر بحث مسئلہ پر چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں، نیز فرماتے ہیں: محقق موصوف نے (علاوه ان اقتباسات کے جو ہم پیش کر رہے ہیں) اسی کتاب کے جزو اول کے اندر بھی مذکورہ ذیل عنوان کے تحت تکفیر کا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

"الفصل الثالث: الاشارة الى حجة من كفر هؤلاء وما يرد عليهم."

ترجمہ: "تیسرا فصل، ان لوگوں کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے شکوک و شبہات کی جانب اشارہ جوان لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔"

فرماتے ہیں: اور غالباً "الوهم الخامس عشر" کے تحت اس کا تذکرہ کیا ہے، نیز محقق موصوف نے یہی کی کتاب "الاساء والصفات" کے حوالہ سے خطابی کی ایک نہایت مفید اور اہم تحقیق بھی نقل کی ہے، جو خطابی کی دوسری کتاب "معالم السنن" کی مراد کو واضح کرتی ہے، اور "مسئلہ تقدیر" کے تحت "الاساء والصفات" کے حوالہ سے عزیز یاریا نبی تھے۔

جو تاویل عہد نبوت اور عہد صحابہ میں مسموع نہ ہو وہ معتبر نہیں: ... محقق موصوف "جزء ثالث" کے شروع میں فرماتے ہیں:

"دوسری دلیل یہ ہے اور یہی صحیح اور لائق اعتماد ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں ان نصوص (اور آیات) کی کثرت، اور بار بار ان کی تلاوت کا اس طرح اعادہ کہ نہ ان میں کوئی تاویل کسی سے سنی گئی، اور نہ کسی نے ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنے سے کسی ناواقف شخص کو منع کیا، یہاں تک کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ (اسی طرح) گذر جاتے ہیں، یہ (تو اتر معنوی) ان نصوص (اور آیات) کے موقوں نہ ہونے کے تیقن کی (نہایت قوی) دلیل ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بھی اسی دلیل کی جانب اشارہ کرتی ہے:

"إِنَّمَا يُكَتَّاب مَنْ قَبْلَ هَذَا أَوْ أَثَارَةً مَنْ عَلِمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ." (الاتفاف ۳)

ترجمہ:- اگر تم بچے ہو تو اس سے پہلے کی کسی کتاب یا کسی علم، یقین کے لئے مفید دلیل ماثور سے اس (اپنے دعوے) کا ثبوت (دو۔)

(معلوم ہوا کہ دعوے کی صحت کا ثبوت انہیں دو چیزوں سے پیش کیا جاسکتا ہے)

فرماتے ہیں:

"اس مقام پر غور و تأمل کرنے والے کے لئے اس مسئلہ (تکفیر) میں اور صفات کی بحث میں مبتدعین کے عقائد باطلہ کی بخ کرنے کے لئے یہ دلیل (تو اتر) کس قدر قوی اور شاندار دلیل ہے، اس لئے کہ عادۃ یہ ممکن نہیں کہ جو (معنی) معتزلہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں اس کے اظہار و بیان پر اتنے زمانہ ہائے دراز گزر جائیں اور اس کی عمدہ تاویل بھی موجود ہو (جو معتزل کرتے ہیں) اور کوئی بھی اس تاویل کا ذکر نہ کرے، خواہ اس کا ذکر کرو اجب ہو، خواہ مباح ہو (یعنی تاویل ضروری ہو یا جائز)۔"

**ایک اعتراض اور اس کا جواب:** محقق موصوف فرماتے ہیں:

"امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "المحصول" کے مقدمہ میں جہاں لغات کی بحث کی ہے، اس مسئلہ پر بھی ایک طویل و بسیط بحث کرتے ہیں کہ "سمعی دلائل کا یقین کے لئے مفید ہونا منوع ہے۔" اس لئے کہ مفرد الفاظ اور ان سے مرکب جملوں میں از روئے لغت اشتراک، مجاز، حذف وغیرہ مختلف احتمالات کا امکان موجود ہوتا ہے (اور احتمال یقین کے منافی ہے)، نیز فرماتے ہیں کہ: ان احتمالات کے نہ ہونے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ تلاش و جستجو کے باوجود وہ احتمالات نہ پائے جائیں (اور کسی چیز کا نہ پایا جانا) یہ دلیل ظنی ہے، چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ "بسم الله الرحمن الرحيم" کے مقدار (عامل) کے بارے میں کثرت اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کثرت اختلاف ظاہر ہے کہ یقین کے منافی ہے (لہذا ثابت ہوا کہ دلائل سمعیہ مفید یقین نہیں ہو سکتے)، اس کے بعد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یقین کے مقامات میں اعتماد ان قرائیں پر ہوتا ہے جو قصد متكلم پر اضطراری طور سے رہنمائی کرتے ہیں (یعنی سننے والے کو ان قرائیں کی بناء پر بے اختیار قصد متكلم کا یقین ہو جاتا ہے اور کوئی احتمال باقی نہیں رہتا) اسی کے ساتھ موضع یقین میں الفاظ کے معنی کا تو اتر (یعنی کسی لفظ کا کسی معنی میں تو اتر کے ساتھ استعمال ہونا) بھی یقین کے لئے مفید ہوتا ہے (اور تو اتر دلائل قطعیہ میں سے ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ دلائل سمعیہ کا یقین کے لئے مفید ہونا منوع ہے)۔"

**محقق موصوف فرماتے ہیں:**

"امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان اس تحقیق کی تائید کرتا ہے جو میں آیات مشیت کے ذیل میں ذکر کر آیا

ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو (یعنی دلائل سمعیہ کے مفید یقین نہ ہونے کو مان لیا جائے) تو دشمنانِ اسلام اور ملحدین کو مسلمانوں کے بہت سے عقائد سمعیہ میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے اور رخت اندازی کرنے کا پورا پورا موقع مل جائے گا (اور مسلمانوں کا کوئی عقیدہ بھی محفوظ نہ رہے گا) فرماتے ہیں: اس کی تائید بعض معتزلہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ: ”ہر یقینی سماں دلیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے۔“ ”معزلہ کا یہ قول نہایت معقول و مدلل ہے، لیکن اس کے بیان کا یہ محل نہیں ہے۔“

**شریعت کا ہر قطعی امر ”ضروری“ ہے:** اسی جزو ثالث کے وسط میں بیان کرتے ہیں: ”دوسری وجہ: اور یہی درست اور قابل اعتماد ہے۔ یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک تکنیک (یعنی کسی موجب کفر قول یا فعل کی بنابر کسی کو کافر کہنا) قطعی سماں ہے۔ (یعنی یقینی طور پر صاحب شریعت سے اس کا مسموع ہونا ضروری ہے) اور صحیح یہ ہے کہ شریعت کا ہر قطعی اور یقینی امر ”ضروری“ ہے (یعنی ان ضروریات دین میں سے ہے جن کے دین ہونے کو ہر خاص و عام شخص یقینی طور پر جانتا ہے)۔“

تو اتر معنوی جھٹ ہے۔ محقق موصوف اس موضوع پر کافی اور ادق پر بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”چھٹی دلیل یہ ہے کہ دلائل سمعیہ (نصوص قرآن و حدیث) اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق کو بدایت کر دینے کی قدرت پر ایسے بدیہی یا یقینی طور پر دلالت کرتے ہیں (جس سے ہر خاص و عام کو یقین حاصل ہو جاتا ہے) کہ ان میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، دو وجہ سے، ایک تو ہی جس کا ذکر کرو اس سے پہلے آپ کا ہے کہ مشیت اور اسی جیسی ان تمام صفات الہی کی آیات میں تاویل منوع ہے، جو عہد نبوت اور عہد صحابہ میں خواص و عوام میں شائع ڈالی جائیں، حتیٰ کہ وہ عہد جو متفق علیہ طور پر عہد بدایت اور مہمات دین کے بیان کا زمانہ ہے، گزر گیا، اور ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنے سے کوئی ممانعت کی گئی (یہ صورت حال اس امر کی دلیل ہے کہ ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، اور ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنا واجب ہے) اس لئے کہ (اگر کوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پر اعتقاد منوع ہوتا تو) عادةً یہ ضروری تھا (کہ اس عہد بدایت میں اس کا ذکر ہو) اگرچہ عقلاءً ضروری نہ بھی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔“

ہر امر قطعی کے لئے ضروری (متو اتر) ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور غالباً اس سے بھی زیادہ معقول وجہ وہ ہے جو محقق موصوف نے جزو اول کے آخر میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

"یاد رکھو! یقین دو جہت سے ہونا ضروری ہے۔"

۱۔ ایک فی نفس نص شرعی کے ثبوت کے اعتبار سے (یعنی وہ آیت یا حدیث معنی سے قطع نظر صاحب شریعت سے یقینی طور پر ثابت ہو)۔

۲۔ اور ایک معنی کی وضاحت کے اعتبار سے (یعنی اس نص کے معنی اس قدر واضح ہوں کہ بے اختیار اس کے معنی کا یقین ہو جائے) ثبوت کے قطعی ہونے کا ذریعہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے "پذیہی تو اتر" (یعنی ہر خاص و عام تو اتر کی حد تک اس کے ثبوت کو جانتا ہو) جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے، باقی معنی کی وضاحت کے اعتبار سے تو کیا یہ ممکن ہے کہ (کوئی امر) "قطعی" اور یقینی تو ہو، لیکن "ضروری" نہ ہو (یعنی اس کا ثبوت حد تو اتر تک نہ پہنچا ہو؟) یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بیشتر اصولیین کے بیانات سے تو نکلتا ہے کہ ایسا ہونا جائز ہے (کہ کوئی امر قطعی تو ہو مگر ضروری (متواتر) نہ ہو) لیکن بعض اصولیین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممنوع ہے (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطعی ہو اور ضروری نہ ہو، بلکہ ہر امر قطعی کے لئے ضروری ہونا ضروری ہے)۔

### محقق موصوف کی رائے: ... محقق موصوف فرماتے ہیں:

"میرے نزدیک بھی (آخری) قول (کہ ہر امر قطعی ضروری ہوتا ہے) زیادہ قوی ہے، اس لئے کسی نص کے معنی پر یقین حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اہل لغت کی جانب سے اس کا یقینی ثبوت موجود ہو کہ وہ فلاں لفظ میں سے فلاں معین معنی مراد لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معنی مرا دیں لیتے، اور ظاہر ہے کہ یہ ثبوت نقلی اور سمعی ہے نہ کہ عقلی اور نظری، اور جس امر کے ثبوت کا مدارساع اور نقل پر ہونہ کے عقل و نظر پر، اس میں یقین استدلال (عقلی) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ از قبیل متواترات ہوتا ہے، اور متواتر ضروری الثبوت ہوتے ہیں، (لہذا اہل لغت سے مذکورہ بالا ثبوت حد تو اتر تک پہنچ جانے کے بعد) یہ زیر بحث نص وضاحت معنی کے اعتبار سے یقینی اور قطعی ہو سکتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کسی امر کے قطعی ہونے کے لئے الفاظ کے اعتبار سے صاحب شریعت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا بھی متواتر ہونا ضروری ہے)"

**کسی نص (آیت) کا معنی کے اعتبار سے متواتر ہونے کا مطلب** محقق موصوف جزو ثالثی کے آخر میں فرماتے ہیں:

"پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے فاعل مختار ہونے کی دلیل قرآن کریم کی ان نصوص (صریح آیات) پر موقوف اور متنی قرار دی جائے گی جن کے معنی (ہر خاص و عام کو) معلوم اور معروف ہیں، اور ان میں

کسی بھی تاویل کے نہ ہونے پر لفظی قرآن موجود ہیں، بلکہ ان کا ضروریات دین میں سے ہونا اور مسلمانوں کا ان پر اجماع بھی ہر خاص و عام کو معلوم اور معروف ہے، اور ان یقین آفرین قرآن میں سے ایک قرینہ است مسلمہ کا ان نصوص (آیات) کو بغیر ان کے ظاہری معنی کے فساد پر منتبہ کئے مسلسل تلاوت کرتے رہنا ہے (یعنی اگر ان نصوص کے ظاہری معنی مراد نہ ہوتے تو خیر القرآن میں کوئی تو سلف صالحین سے اس پر منتبہ کرتا)۔

**ضرورت شرعیہ کی مثال:** فرماتے ہیں:

”امام رازی رض نے اپنی کتاب ”محصول“ میں اسی سوال کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ (نصوص شرعیہ کے) معانی و مقاصد کا علم قرآن کے ساتھ مل کر ضروری (بدیہی) اور یقینی ہو جاتا ہے، اس لئے کہ مثلاً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد لفظ ”السموات والارض“ سے یقینی اور بدیہی طور پر جانتے ہیں (کہ یہی آسمان و زمین مراد ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں) نہ اس وجہ سے کہ لغت عربی میں مثلاً لفظ ”سماء“ آسمان کے لئے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ اس (الغوی) معنی میں تواشتہ اک و مجاز اور حذف و اضمار وغیرہ کا دخل بھی ہو سکتا ہے، (لہذا ان احتمالات کی بنابر تو لفظ ”سماء“ سے آسمان مراد ہونا قطعی اور یقینی نہیں رہتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مثلاً ”باول“ مراد ہوں، بہر حال احتمال یقین کے منافی ہے، اس سے برکت ضرورت شرعیہ کے تحت ہمیں قطعی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی زمین و آسمان ہیں)۔

**کسی نص قطعی کے مفید یقین ہونے کا مدار:** اسی کتاب کے آخری جزو کے وسط میں فرماتے ہیں:

”یا اظہر من الشمس بے، اس شخص کے لئے جو یقین کے شرائط کو جانتا ہو اور وہ شرائط امور سمعیہ (سماع) اور نقل سے تعلق رکھنے والے امور) میں (صاحب شریعت سے) نقل کے اعتبار سے بدیہی تو اتر ہے، اور معنی کے اعتبار سے بدیہی طور پر واضح ہوتا ہے (یعنی جس نص کا ثبوت شارع علیہ اسے تو اتر کی حد کو پہنچ چکا ہے اور اس کے معنی و مراد کی وضاحت بھی بدیہیات کی حد کو پہنچ چکی ہے، وہ نص قطعی ضروری یقین کے لئے مفید ہوگی)۔“

**ایسی نص قطعی میں تاویل کے حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل:** اس کے بعد فرماتے ہیں:

باقی اس امر کا یقین کہ اس کی تاویل حرام ہے، بلکہ اس امر کا یقین کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے،

اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عہد میں اس کی شہرت حد تواتر تک پہنچ چکی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس نص کو اس کے ظاہری معنی پر برقرار رکھا (اور کوئی تاویل نہیں کی) اور عادۃ یہ محال ہے کہ اس نص کی کوئی صحیح تاویل ہوا اور ان میں سے کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان آچکا ہے۔

اور جزو ثالث کے وسط میں ”ایمان بالقدر“ کی نصوص (آیات) کے تحت فرماتے ہیں:

”دوسری دلیل علم ضروری (قطعی و یقینی) کے دعویٰ کی اس شخص کے لئے جو سلف (صحابہ رضی اللہ عنہم) و تابعین (بپنہ اللہ) کے حالات سے واقف ہے، یہ ہے کہ وہ ان نصوص (آیات) میں مطلق کوئی تاویل نہیں کرتے تھے۔“

ہر امر قطعی کے مفید یقین ہونے کے لئے اس کا ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے: جزو اول کے اوائل میں فرماتے ہیں:

”علاوه از ایں قطعی امور میں بعض ایسے امور بھی ہیں جن کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ وہ قطعی (یقینی) ہیں یا نہیں؟ مثلاً قیاس جلی، اور اس کی (مخالفت کی) بنابر کسی کو گنہگار فاسق یا کافر کہنا (جائز ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہی اس امر کی دلیل ہے کہ ہر قطعی کے لئے مفید یقین ہونا ضروری نہیں) چنانچہ ابن حاجب وغیرہ محققین ایسے شرعی قطعی امر کے وجود کا انکار کرتے ہیں جو ”ضروری“ (متواتر) نہ ہو اور ان کا فیصلہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں فہم معنی کے اعتبار سے ”ظن“ اور ”ضرورت“ کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، (یعنی یا نصوص ظنیہ ہیں یا نصوص ضروریہ (متواترہ) تیسری قسم کوئی نہیں) جیسا کہ تو اتر الفاظ کے اعتبار سے (سب کے نزدیک) ”ظنی“، ”خبر واحد“ اور ”ضروری“، ”خبر مشہور و متواتر“ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں (یعنی جیسے از روئے روایت یعنی ثبوت الفاظ صرف دو مرتبے ہیں، ”ظنی“، ”خبر واحد“ اور ”ضروری“، ”مشہور و متواتر“) ایسے ہی از روئے روایت یعنی فہم معنی کے اعتبار سے بھی دو مرتبہ ہیں ”ظنی“، یا ”ضروری“، لہذا ثابت ہوا کہ ہر امر قطعی کے مفید قطع و یقین ہونے کے لئے ”ضروری“ (متواتر) ہونا ضروری ہے۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”علماء اصول کے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ قطعیات (امور یقینیہ) کا وجود صرف ان دلائل میں مانتے ہیں جو علمی اور مفید یقین ہوں۔“

دلائل شرعیہ میں قطعی اور ضروری متنازع ہیں: اسی کے آخر میں فرماتے ہیں:

”بیشتر محققین کی رائے یہی ہے قطعی دلائل جب بھی شرعی ہوں گے تو یقیناً ”ضروری“ ہوں گے، (یعنی تمام دلائل قطعیہ شرعیہ، ضروری (بد یہی) ہوتے ہیں، شرعی دلائل میں ایسے قطعی دلائل کا وجود نہیں جو ضروری نہ ہوں، بالفاظ دیگر دلائل شرعیہ میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں)۔“

کثرتِ دلائل، تعددِ طرق اور قرآن سب مل کر یقین کے لئے مفید ہوتے ہیں:-  
حضرت مصنف صلی اللہ علیہ و آله و سلم فرماتے ہیں: ”التحاف“ میں ج: ۳ ص: ۱۳ پر ابن بیاضی حنفی ”ماتریدیہ“ کا قول نقل کرتے ہیں:-

”دلیل نقلي (سامعی) اس وقت مفید یقین ہوتی ہے جب ایک ہی معنی پر متعدد طریق سے بکثرت دلائل وارد ہوں، اور قرآن بھی ساتھ موجود ہوں، ”الابکار والمقاصد“ کے مصنف کا اور بہت سے علماء محققین یعنی ”ماتریدیہ“ کا مختار بھی یہی ہے۔“

مزید تحقیق کے لئے ”توضیح تلویع“ کی مراجعت کیجئے، نیز حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

ابن حاجب کے نزدیک ”ضروری“ کے معنی:-...ابن حاجب کے نزدیک ”ضروری“ کا مصدق ہر وہ امر ہے جس کو دل بے ساختہ باور کرے اور اس پر یقین واطمینان کلی حاصل ہو جائے، ”ضروری“ کے وہ معروف معنی جو ضروریات دین کی تعریف میں بیان ہو چکے ہیں، جس کا علم ہر خاص دعام کو یکساں طور پر حاصل ہو، ابن حاجب کے نزدیک مراد نہیں، اور نہ ہی اس کی مراد یہ ہے کہ ”لفظی“، (یعنی سامعی) دلیل یقین کے لئے مفید نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہ تو ایک اور اختلافی امر ہے جو دوسرے علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے، محقق موصوف فرماتے ہیں:-

”تیرا قول جو اکثر انہر اہل سنت اور علماء امت کا مسلک ہے، یہ ہے کہ اس (حکم) میں تفصیل ہے، اور یہ کہ یقینیات میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی۔“

**مدارکفر:** بحث تکفیر کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

”رسول اللہ ﷺ کی تکذیب ہی اصل میں کفر ہے، خواہ صراحة اور بر اور است ہو، خواہ کوئی ایسا قول یا عقیدہ ہو جس سے یقینی اور بد یہی طور پر آپ ﷺ کی تکذیب لازم آتی ہو، نظری اور استدلالی طور پر لازم آتے کا اعتبار نہیں۔“

تاویل معتبر ہونے کا مدار اور ضابطہ:-... ہر وہ امر جو عہد ثبوت اور عہد صحابہ ﷺ میں شائع وذائع رہا اور کسی نے اس کی کوئی تاویل نہیں کی، یقینی اور بد یہی طور پر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امر اپنے

ظاہری معنی پر ہے (اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی) یہ اصول جو میں نے بیان کیا، اس کو اچھی طرح سمجھو لو، ہر اس امر کے بارے میں جو رسول اللہ ﷺ کے عبید مبارک میں اس قدر مشہور و معروف رہا ہو کہ اس کی شہرت حد تواتر کو پہنچ چکی ہو، اور اس کی کوئی تاویل قطعاً نہ کو رہ نہ ہو، (وہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، اس کی کوئی تاویل مسموع نہیں ہو سکتی اور اس کا منکر اگرچہ مذوق ہو کافر ہے)۔

**مثال:** تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر کسی تاویل کے شایبہ کے "کلام" اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور (اس لئے) وہ "متكلم" ہے، لہذا جس شخص کا یہ قول ہے (کہ "کلام" اللہ کی صفت نہیں یا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں) علماء نے علاویہ اس کی تکفیر کی ہے، خواہ اس اعتقاد کی بناء پر کہ یہ (قول) ان آیات کی تکذیب کرتا ہے (جن سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت "کلام" ثابت ہوتی ہے) یا اس پر کہ اس قول سے ان آیات کی تکذیب لازم آتی ہے (یعنی حمد ان آیات کی تکذیب کی ہے یا اس قول سے تکذیب لازم آتی ہے) اور یہ دونوں امر (یعنی التزام کفر اور ریزوم کفر) موجب تکذیب ہیں۔

**احتفیاط!** نیز فرماتے ہیں کہ: جو لوگ قرآن کو "قدیم" نہیں مانتے، وہ بھی اس کو "حادث" کہنے سے اجتناب کرتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رض اور ذہبی رض کے بیان کے مطابق جمہور علماء "نبلاء" میں امام احمد رض کے ترجمہ (حالات) میں ان سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام معتقدین علماء اہل سنت کی جانب بھی اس کو منسوب کیا ہے کہ وہ جیسے قرآن کو "قدیم" نہیں مانتے "حادث" بھی نہیں کہتے، ( بلکہ توقف کرتے ہیں) اور یہی مسلک مصنف "نبلاء" نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔

معزلہ، شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں:.... اس لئے کہ اس سے پہلے آچکا ہے کہ معزلہ، شیعہ اور ان کے علاوہ امت کے دوسرے فرقوں کے نزدیک تکفیر (کسی کو کافر کہنے) میں یقین (ہونا) شرط ہے، اس شخص کے حق میں جو کفر کا حکم بالیقین چاہتا ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہئے (کہ کفر کا یقین ہوئے بغیر کسی کو کافر نہ کہے)

تو اس شخص سے یہ کہا جائے کہ (تکفیر کے بارے میں) یقین قطعی کا مرتبہ چھوڑ کر گمان کا وہ مرتبہ جس میں واضح سماعی ربحان (یعنی ظن غالب) موجود ہو کیوں نہ اختیار کر لیا جائے (یعنی کسی کو کافر کہنے میں یقین کے بجائے ظن غالب پر کیوں نہ اکتفاء کر لیا جائے) اور ظن غالب پر عمل تو صرف قطعی اور یقینی دلیل سے ہی ممنوع ہوتا ہے (یعنی اگر ظن غالب کے مقابلہ میں کوئی قطعی دلیل موجود ہو تو بے شک ظن غالب پر عمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے خلاف ہے نہیں، پھر ظن غالب پر

کیوں نہ عمل کیا جائے) اور قرآن حکیم میں یہ کہیں نہیں آیا کہ قرآن کل کا کل "متشابہ" (غیر واضح اور محل تاویل) ہے، بلکہ (اس کے برعکس) اس میں تو تصریح ہے کہ قرآن کی کچھ آیات "محکم" (اور واضح) ہیں، اور وہی "اصل کتاب" ہیں، (انہیں پر دین و ایمان کا مدار ہے) اور کچھ "متشابہ" (غیر واضح) ہیں، تو (نصرت اور واضح آیات میں) ان گوناگون تاویلات کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی محکم آیات کہاں ہیں جن کو باقی متشارب آیات و احادیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سمجھتے اور مراد متعین کے لئے مدار بنا�ا جائے؟ عقل سلیم اس کو باور نہیں کرتی اور محال بھتی ہے کہ آسمانی کتاب میں اور احادیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے واضح اور یقینی بیان حق سے خالی ہوں جس سے کتاب اللہ کی متشارب آیات کی مراد متعین کی جائے، (یعنی عقلایہ محال ہے کہ آسمانی کتاب ہوا اور اس میں ایسا واضح اور یقینی بیان حق نہ ہو کہ اس سے غیر واضح آیات کی مراد متعین کی جاسکے، اس لئے قرآن میں ایسی نصوص صریح ضرور ہوئی چاہیں جن کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور وہ اپنے ظاہر پر ہوں) قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات کریمہ اسی استحالہ کی جانب اشارہ کرتی ہیں:

"إِيَُّونِيْ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةً مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ." (آل حاف ۳)

ترجمہ: ( بت پرستی کے دعوے میں) اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب یا مفید علم و یقین کی کوئی دلیل میرے پاس لاو۔"

غور کرنے والے ارباب عقل و دانش کے لئے فرق باطلہ (مودلین) کی تردید کے لئے یہ آیت کس قدر واضح اور قطعی جلت ہے۔ اگر مقصود وہی ہوتا (جو مودلین کہتے ہیں) تو کم از کم ایک مرتبہ (اور کسی ایک جگہ) تحقق کا واضح اور قطعی بیان آسمانی کتاب میں موجود ہوتا کہ متشارب (غیر واضح) آیات کی مراد اس سے متعین کی جاتی جیسا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے۔

**تکفیر کا ضابطہ:** جزو ثالث کے وسط میں احادیث "وجوب ایمان بالقدر" کی بہتر ویں (۷۲) حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

"میں کہتا ہوں کہ کسی کو کافر قرار دینے کا قاعدہ گلیہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایسے امر کو رد کیا کہ جس کا ضروریات دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، وہ شخص کافر ہے۔ اس تعبیر میں کسی قدر اجمال وابہام ہے، اس کی مزید وضاحت و تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی بدیہی اور یقینی امر کو رد کیا ہے، اور اس امر کا بھی ہم کو یقینی طور پر علم ہو کہ یہ شخص اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کو ایسے ہی بدیہی اور یقینی طور ہر جانتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں (اور اس کے باوجود جان بوجھ کر دیا ہے) تو ایسا شخص بغیر کسی شک و شبہ کے کا

فر ہے (کہ یہ کفر و حجہ و عناد ہے) گویا کہ تمیں چیز وں کا بدیکی اور یقینی علم ہونا ضروری ہے۔

اول: اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کا۔

دوم: اس شخص کے اس امر کو ضروری جانے کا۔

سوم: اس شخص کے متعلق (ہمارا) علم اور جس شخص کے متعلق ہمارا مگان غالب ہو کہ جن امور کو ہم یقینی طور پر ضروریات دین میں سے جانتے ہیں۔

یہ شخص اس سے ناواقف ہے (کہ یہ ضروریات دین ہیں) ایسے شخص کی تکفیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے (جو لوگ جہل کو عذر قرار دیتے ہیں اور تکفیر صرف حجہ و عناد پر کرتے ہیں، وہ کافرنہیں کہتے اور جو لوگ کفر عناد اور کفر جہل کو یکساں کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں (مصنف مذکور فرماتے ہیں) بہتر یہی ہے کہ اس شخص کی تکفیر نہ کی جائے، فرماتے ہیں: مسئلہ صفات کے آخر میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔“

مصنف نور اللہ مرقدہ کی رائے: حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ رسالہ نبیؐ میں فرماتے ہیں: جس شخص نے ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کو ٹھرا دیا اور رد کیا، در آنجا لیکہ اس کو بتلا دیا گیا ہو (کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے) تو وہ شخص کافر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اگرچہ بتلانے والوں کی تعداد واحد تو اتر کوئی نہیں پہنچ گویا مصنف علیہ الرحمۃ کے نزدیک صرف اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کا علم حد تو اتر تک پہنچا ہوا ہونا کافی ہے، بالفاظ دیگر تمیں بدیہی اور یقینی علموں کے بجائے صرف ایک امر کا بدیہی اور یقینی علم کافی ہے، (اہل امر غیر متواتر کا انکار کفر نہ ہوگا۔ لیکن اس رد اور انکار کرنے والے کے ساتھ کافروں کا سامعاملہ کیا جائے گا۔ عہد نبوت میں کسی شخص پر جدت قائم کرنے کے بارے میں اسی پر عمل تھا۔ اور اگر وہ منکر یہ بہانہ کرے کہ: ”خبر واحد ہونے کی وجہ سے مجھے اس میں تردید ہے“ تو اس پر غور کیا جائے گا (اور اس عذر کی صحت کی تحقیق اور ازالہ کی کوشش کی جائے گی) ورنہ تو جس طرح کفر کی تقسیم: کفر جہل اور کفر عناد کی طرف (اور اس کی تحقیق کہ کس کا کفر، کفر جہل ہے اور کس کا کفر، کفر عناد ہے) آخرت کے حوالہ کے اور اللہ کے پرورد ہے (احکام دنیا کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ دونوں کافر ہیں) اسی طرح منکر (کے معاملہ کو بھی) آخرت کے حوالہ اور اللہ کے پرورد گیا جائے گا (اور دنیوی احکام کے اعتبار سے کافر کہا جائے گا) جیسا کہ وہ شخص جس نے کفر کے ماحول میں نشوونما پایا ہوا اور ہوش سنجا لایا ہوا، ہم اس پر کفر کا حکم لگانیں گے۔ اگرچہ اس کا یہ کفر جہل پر مبنی ہے نہ کہ حجہ و عناد پر اسی طرح مذکورہ بالا صورت میں بھی اس کو کافر کہیں گے (اور لاعلمی کے عذر کا لاحاظہ کریں گے)۔ فرماتے ہیں: اس تحقیق اور فرق کو خوب اچھی طرح سمجھو! اور یاد رکھو! اس لئے کہ جس شخص نے شریعت کے کسی بھی متواتر عمل کو قبول نہیں کیا وہ

ہمارے اعتبار سے اور ہمارے حق میں کافر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص جو ابھی تک اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو، اگرچہ از راہ عناد نہ کسی (تاہم وہ کافر ہے اس لئے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا) اور (یا ایک شخص کا بتانا) ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک نبی ایمان کی دعوت دے اور وہ قبول نہ کرے، اور اپنے اصلی کفر پر قائم رہے، اگرچہ از راہ عناد نہ ہو (تب بھی وہ کافر ہے) لہذا اکفر کا مدار اس پر ہے کہ شریعت کے متواتر امور میں سے کسی بھی امر متواتر پر ایمان نہ لانا اور اس سے دور رہنا پایا جائے، خواہ ناواقفیت کی بنابر ہو، خواہ جود کی بنابر، خواہ عناد کی بنابر۔

**نبی کی تکذیب عقلائیق ہے اور موجب کفر** ... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

"اتحاف" کے مصنف نے حج: ص: ۲۶: اپر بیان کیا ہے کہ:

نبی کی بعثت اور دعوت و تبلیغ کی تکذیب و انکار از روئے عقل قبح ہے، لہذا یہ کفر عقلی قبح کے تحت داخل ہے، نہ کہ شرعی قبح کے تحت، (یعنی کسی نبی کی نبوت اور دعوت و تبلیغ کا انکار عقلائیق اور موجب کفر ہے، اس کے لئے کسی شرعی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ بہت اچھی اور مفید تحقیق ہے،؟ "مسایرہ" میں بھی حج: ص: ۷۴ طبع جدید مصر پر عقلی حسن و قبح کے تحت ایک نہایت کارآمد تحقیق بیان کی ہے کہ اگر (تصدیق و تکذیب انبیاء میں) حسن و قبح عقلی کا اعتبار نہ ہوگا تو انبیاء کو لا جواب کر دیئے (کے امکان) کا الزام عائد ہوگا۔ رکن اول، اصل دہم کے ذیل میں بھی کچھ اس کا بیان موجود ہے۔ یہی "ماترید یہ" اور اکثر "اشعریہ" کا مذہب ہے۔ ①

**تاویل و تجویز کا ضابطہ**: حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ "بدائع الفوائد" میں فرماتے ہیں "قرآن و حدیث کی کسی بھی نص صریح میں مجاز و تاویل" کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔ مجاز و تاویل کا خال صرف انہی ظاہری نصوص میں ہوتا ہے جن میں مجاز و تاویل کا احتمال اور گنجائش ہو، فرماتے ہیں اس حلسلہ میں ایک نکتہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ کسی لفظ کا نص ہونا وہ چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا از روئے لفت احتمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً عشرہ کا لفظ (کہ وہ کے لئے وضع کیا گیا ہے، نہ کم، نہ زیادہ) دوسرے یہ کہ اس لفظ کے جتنے موقع استعمال ہیں ان سب میں ایک ہی طریق پر ایک ہی معنی کے لئے استعمال ہوا ہو، ایسا لفظ اپنے اس متعارف معنی میں نہیں ہے، نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تجویز کی، اگرچہ کسی خاص محل استعمال میں اس کی گنجائش بھی ہو (لیکن تمام موقع استعمال کے اعتبار سے ایک ہی معنی متعین ہوں، تو اس خاص محل استعمال میں بھی گنجائی)

① شیخ احمد بن حنبل عاصہ اہل بیاضی سے منتقل ہے کہ اس جنہیں میں جن میں سے ایک یہ مسئلہ ہے۔ حسن و قبح عقلی ہے "ماترید" اور انش "اشعریہ" کا مذہب بھی یہی ہے۔ معرفت

لش کے باوجود مجاز و تاویل کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہی معنی مراد لئے جائیں گے جو تمام موقع استعمال میں مطرد ہیں) ایسا لفظ اپنے مطرد معنی کو داکرنے میں خبر متواتر کے مانند ہو جاتا ہے کہ اگر خبر متواتر کے ہر بر طریق روایت کو علیحدہ علیحدہ لکھا جائے تو اس میں کذب کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمام طرق روایت کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کذب کا احتمال مطلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت مضید اور کارآمد نقطہ ہے جو تمہیں بہت سی ایسی ظاہری آیات و احادیث میں تاویلوں کو باطل اور غلط ثابت کرنے میں کام آئے گا جو تمام موقع استعمال میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہیں، ایسی صورت میں ان کی کوئی بھی تاویل ہو قطعاً غلط اور باطل ہے، اس لئے کہ تاویل تو صرف ایسے ظاہری الفاظ میں کی جاتی ہے جو دوسری تمام آیات و احادیث کے مخالف اور شاذ طور پر وارو ہوئے ہوں اور، تو ان میں تاویل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان تمام آیات و احادیث کے موافق ہو جائے (اور اختلاف و تضاد دور ہو جائے) لیکن جب ایک لفظ تمام موقع استعمال میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہو (اور کوئی تعارض و تضاد بھی نہیں ہے) تو وہ لفظ تو اپنے ظاہری اور متبادل معنی میں نص قطعی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے، اس میں تاویل قطعاً منوع اور ممکن ہے، اس طابطہ کو اچھی طرح سمجھ لو (نہایت کارآمد نکتہ ہے) اور ”بدائع القوائد“ ج: اص: ۵ پر ”الفرق بین الرؤایة والشہادۃ“ کے ذیل میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔

حضرت مصنف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں: مثلاً لفظ ”توفی“ جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں آیا ہے، (یعنی انی متوفیک و رافعک“) (الا یہ اس ضابطہ کے تحت اس کے معنی پورے طور پر لے لینے کے ہونے چاہئیں نہ کہ ”موت دینے“ (مارڈا لئے) کے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن و حدیث میں جتنی آیات و حدیث آئی ہیں وہ سب آپ کے زندہ ہونے پر مترد و متفق اور ایک دوسرے کی متوید ہیں (اس لئے مذکورہ بالا آیت میں وفات دینے اور مارڈا لئے کے معنی نہیں لئے جاسکتے)۔

چنانچہ ”شرح شفاء“ میں ج: ۳۹، ص: ۷ پر قاضی عیاضؒ نے حبیب بن الربيع کا قول اس شخص کے متعلق۔ حس نے کہا کہ خدا (الْعَيَاذُ بِاللَّهِ!) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اور ویسا کرے، (یعنی برآ کرے) اور پھر (مُكْفِرٌ أَوْ رَسِّانَةً ارْتَادَوْسَےْ بَخْنَے کے لئے) کہہ کہ میری مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھو ہے (کہ وہ بھی اللہ کا بھیجا۔ امکان تاویل کا اعتبار کرنے لگے) (کہ کسی کے قول کی تاویل ممکن ہو تو اس کو کافر نہ کہا جائے، قائل کے قصد وارا وہ پڑھیں، بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری مراد تو یہ تھی تو وہ دیکھا جائے کہ اس کے کلام کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہو تو اس کی بات مان لی جائے اور اس کو کافر نہ کہا جائے اور اگر نہ ہو تو اس کے کہنے کا اعتبار بالکل نہ کیا جائے اور کفر کا حکم لگا دیا جائے)۔

چنانچہ ”جامع الفصولین“ میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص سے متعلق مسئلہ دریافت گیا

گیا جس نے کسی شخص کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو کسی اور شخص نے اس سے کہا: "تو خدا نے نہیں ڈرتا، تو اس پر مارتے والے نے کہا: "نہیں" (کہ یہ شخص اس قول کی بنا پر کافر ہوا یا نہیں؟) فرمایا: نہیں! اس کو کافرنہ کہا جائے، اس لئے کہ ممکن ہے کہ وہ کہے (کہ میری مراد تو یہ تھی کہ) خدا کا خوف اور تقویٰ اسی میں ہے جو میں کر رہا ہوں، (یعنی خوف خدا اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس شخص کو ماروں) اور اگر کسی مصیبت کے ارتکاب کے وقت (مثلاً حرام کاری یا شراب خوری کے وقت) یہ کہا گیا کہ "تو خدا نے نہیں ڈرتا" اور اس نے کہہ دیا: "نہیں" تو اس کو کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ اس صورت میں وہ تاویل ممکن نہیں (جو پہلی صورت میں ممکن تھی کیونکہ کسی کو مارنا، پیشنا تو تقویٰ کا تقاضا ہو سکتا ہے، مگر کسی معصیت کا ارتکاب کسی صورت میں بھی تقویٰ کا تقاضا نہیں ہو سکتا)۔

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں: "فَإِنْ خَانَهُ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ شَدَادُ بْنُ حَكِيمٍ وَأَرَادَ بْنَ حَكِيمٍ كَيْمَىٰ كَيْمَىٰ بَنْ حَكِيمٍ" میں بھی شداد بن حکیم اور اس کی بیوی کے قصہ میں بھی بیان کیا ہے۔

فرماتے ہیں: "طبقات حنفیہ" میں خود شداد بن حکیم نے امام محمد بن جعفرؑ سے یہی روایت نقل کی ہے اور "طبقات" کا بیان "جامع الفصولین" کے بیان سے زیادہ لائق اعتبار ہے کہ "محض امکان تاویل کا انتصار ہے۔" (قصد وارادہ قائل پر مدار نہیں) اس لئے کہ اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، حالانکہ مشائخ حنفیہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے خیال میں "توریہ" کی کوئی صورت ہو (جس کو اختیار کر کے وہ حقیقت میں کفر سے بچ سکتا ہو) اور اس کے باوجود اس "توریہ" کو اختیار نہ کرے اور کلمہ کفر کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، (اس لئے کہ اس نے جان بوجھ کر کلمہ کفر کہا و آنحضرت کے اس سے بچ سکتا تھا، یہ رضا بالکفر ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مشائخ (ترک تکفیر میں صرف امکان تاویل کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ) ایسے شخص کے حق میں بھی تاویل کے قصد وارادہ کو موثر نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہو تو حیله جوئی اور غذر تراشی سے تو کوئی بھی عاجز نہیں (حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اکراہ میں مشائخ صرف امکان توریہ پر ترک تکفیر کا مدار نہیں رکھتے بلکہ قائل کے قصد وارادہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں، اگر توریہ کا قصد کرے تو کفر سے بچ گا ورنہ نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کا قصد کرے تو کفر سے بچ گا ورنہ نہیں، معلوم ہوا کہ محض امکان تاویل کافی نہیں، جیسا کہ "جامع الفصولین" سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قصد تاویل بھی ضروری ہے، جیسا کہ "طبقات" کے بیان سے معلوم ہوتا ہے) چنانچہ "میزان الاعتدال" میں ج: اص: ۲۷۲ پر حکم بن نافع کے ترجمہ کے تحت توی سند کے ساتھ یہ روایت ہے:

”بخدا! منومن بھی قرآن کی آیات سے استدال کرتا ہے، مگر مغلوب ہو جاتا ہے اور منافق بھی قرآن کی آیات سے استدال کرتا ہے اور غالب آ جاتا ہے، (اس لئے کہ منافق مکار اور حیلہ ساز ہے، وہ آیات قرآنی کے معنی میں تصرف کر کے من مانے معنی کرتا ہے، اور مراد بتاتا ہے اور جیت جاتا ہے، اور منومن دیانت دار اور راست باز ہے، وہ آیات قرآنی کے معنی دمراد میں کوئی تاویل و تصرف نہیں کرتا، اس لئے اپنے مکار حریف سے مغلوب ہو جاتا ہے)“

خلفیجی نسبتیہ نے ”شرح شفا“ میں ح: ۲۴۶ پر لکھا ہے کہ

”اور اسی لئے (کہ حکم کفر کامدار ظاہر پر ہے، نیت اور قصد وار ادھ کا داخل نہیں) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصنف کا قول، اس شخص کے بارے میں جو (بزم خود) اپنی زبان پر قدرت اور قابوں رکھنے اور بولنے میں بے باکی و حسارت (کہ جو منہ میں آیا بک دیا) کی بنا پر سب و شتم کر بیٹھا، اس نے قصداًب و شتم نہیں کیا، نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: مصنف کا بیان ہمارے مذہب کے قواعد کے موافق اور واضح ہے، اس لئے کہ کفر کا حکم لگانے کا مدار ظاہری اقوال و افعال پر ہے، نہ نیت و قصد کا اعتبار ہے، نہ اس کے حالیہ قرآن کا، ہاں ناداقیت کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنے نو مسلم ہونے، یا اہل علم کی صحبت سے دور (و محروم) ہونے کے عذر کی بنا پر (ناداقیت کا مدعی ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کو) معدود سمجھا جائے گا، (اور کافرنہ کہا جائے گا) جیسا کہ ”روضہ“ کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے۔“

تاویل کے معتبر ہونے یانہ ہونے میں قرآن حالیہ کو بھی دخل ہے: امام نووی رحمہ اللہ ”شرح مسلم“ میں ص: ۳۶۹ پر خطابی سے نقل کرتے ہیں کہ:

”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ (عبد ابو بکر صدیق رض میں) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں تم نے اپنے بیان کے مطابق تاویل کیسے کر لی؟ اور ان کو (کافر و مرتد کہنے کے بجائے) باغی کیسے قرار دیا؟ اور کیا ہمارے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے (اور زکوٰۃ نہ ادا کرے) تو کیا آج بھی تم اس کو باغی قرار دو گے (اور کافر و مرتد نہ کہو گے)؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”اس زمانہ میں اگر کوئی شخص یا گروہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو با جماعت کافر ہے، اور ان میں اور اس زمانے کے لوگوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہ مانعین زکوٰۃ ایسے اسباب وجود کی بنا پر معدود و قرار دئے گئے جو اس زمانے میں درپیش نہیں ہیں، مثلاً یہ کہ ان کا زمانہ اس عہد سے بالکل قریب اور ملا ہوا تھا، جس میں احکام شریعت کی تشریع و تدوین ہو رہی تھی، اور سنخ و تبدیل احکام کا سلسلہ جاری تھا، (لہذا حضور ﷺ کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کے مسوغ

ہو جانے کا شہر اس بنابر پر ہو سکتا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم حضور ﷺ کو دیا گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا) دوسرے یہ کہ وہ لوگ بالکل جاہل اور احکام دین الہی سے قطعاً ناواقف تھے، نیز ان کو اسلام قبول کئے ہوئے زیادہ زمانہ بھی نہ گزرا تھا، یعنی بالکل نو مسلم تھے، اس لئے ان کے دلوں میں شکوٰہ و شبہات کا پیدا ہونا قرین قیاس تھا، اس لئے ان کو معدود قرار دیا گیا، اس کے بر عکس آج دین اسلام اور اس کے احکام اس قدر عام اور شائع و ذاتی ہو چکے ہیں کہ (نہ صرف) مسلمانوں میں (بلکہ غیر مسلموں میں بھی) زکوٰۃ کے اسلام میں فرض ہونے کا علم شہرت اور تو اتر کی حد کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ ہر خاص و عام اور ہر عالم و عالمی کیساں تو رپراس کو جانتا ہے (کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے) لہذا اس زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے ① اس کو کافر کہا جائے گا اور اس کی کوئی بھی تاویل یا عذر مسموع نہ ہوگا (اس لئے کہ خود ریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی) یہی حکم ہر اس منکر کا ہے جو کسی بھی مجع علیہ دینی امر کا انکار کرے، جس کا علم شہرت کی حد کو پہنچ چکا ہو، مثلاً پنجگانہ نماز، ماہ رمضان کے روزے، غسل جنابت، حرمت زنا، حرمت شراب، حرمت ربوا، ابدی محramات سے نکاح کی حرمت اور ان کے ملاوہ اسی قسم کے دین کے مہمات احکام۔ لہا یہ کہ منکر بالکل نو مسلم اور احکام اسلام سے بالکل ناواقف ہو، اور اپنی جہالت و ناواقفیت کی بنابر ان میں سے کسی حکم کا انکار کرے تو اس کو معدود سمجھا جائے گا، اور کافرنہ کہا جائے گا، اور ایسے نو مسلم (تازہ وار دین اسلام) کے ساتھ قرون اولیٰ کے جاہل و نو مسلم منکرین زکوٰۃ کا سامعاملہ کیا جائے گا (یعنی احکام اسلام سے واقف کیا جائے گا، پھر بھی اگر نہ مانیں تو اسلام سے خارج اور کافر قرار دیا جائے گا) بخلاف ان خاص خاص اجتماعی مسائل و احکام کے جو مخصوص عنوانات کے ساتھ شریعت میں آئے ہیں، اور ان کا علم صرف علمائے دین تک محدود رہتا ہے، مثلاً پھوپھی یا خالد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کا حرام ہونا یا عمدًا قتل کرنے والے کا مقتول کی میراث سے محروم ہونا، یا (ماں نے ہونے کی صورت میں) دادی کا چھٹے حصہ کا وارث ہونا، اور اسی قسم کے نظری مسائل و احکام ان میں سے کسی حکم کے انکار کرنے والے کو کافرنہ کہا جائے گا، (اور نادانی و ناواقفیت پر محمول کیا جائے گا) اس لئے کہ یہ احکام و مسائل اس قدر معروف و مشہور نہیں کہ ہر عالمی مسلمان ان سے واقف ہو۔<sup>1</sup>

<sup>1</sup> اس زمان کے و تجد و پرست اپنے اسلام و ایمان کی فکر کریں جو "اسلام کو زمان کے حالات سے ہم آپنے اڑنے" کے عنوان سے دین میں نو تجویزیں اور تاویلیں کر کے اسلام کوئے اور من مانے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں حکومتیں خود بھائی و بھی نہیں بھول کر رہی ہیں اس لئے اس زمانے میں بالداروں پر زکوٰۃ فرض نہیں رہی۔ یا جو کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں دنیا میں تمام تجارتی کامرو بار اور لین دین تجارتی سو روپ چل رہا ہے۔ اس لئے تجارتی سو روپ طالب اور جائز ہے قرآن نے جس مدد و حرام کیا ہے وہ سب مہاجنی ہے وقس علی دالک! امترجم۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اسی مسئلہ سے متعلق خطابی ﷺ کا ایک بیان "الیوقیت والجواہر" کے حوالے سے اس سے قبل نقل کیا جا چکا ہے۔

**نتیجہ بحث و حاصل تحقیق، نیز مانعین زکوٰۃ سے متعلق شیخین ﷺ کے اختلاف کی تتفق و تحقیق:** حضرت مصنف قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: مذکورہ بالتحقیق سے یہ حقیقت واضح مُفْتَح ہو گئی کہ ضروریات دین کا منکر اگر تو پہ کرانے کے باوجود تو پہ نہ کرے تو کوئی بھی تاویل اسے قتل سے نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی کفر واردہ ادا دے۔ باقی رہادہ اعتراض جس کو امام نووی رض نے بحوالہ خطابی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نقل کیا ہے کہ (عہد ابو بکر صدیق رض میں) اگر مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو وہ اس انکار کی وجہ سے مرتد ہوئے یا نہیں درآنجا لیکہ حضرت عمر رض کو بھی ان سے جنگ کرنے میں تردد تھا، تو غالباً اس کی صحیح وجہ اور جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے (ابو بکر صدیق رض کے عمل کو) زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اپنے اپنے قبائل میں امراء اور حکام مقرر کرنے کا رادہ کیا تھا، اور اس طرح وہ خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رض کی اطاعت سے منحرف ہو گئے تھے، لہذا اس اعتبار سے وہ باغی بھی ہو گئے، اور چونکہ حضرت عمر فاروق رض ان کے انکار کی غرض و غایت اسی بغاوت اور نافرمانی کو قرار دیتے تھے، (اس لئے ان کی رائے میں وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر نہ تھے، بلکہ خلیفۃ المسلمين کے منکر اور باغی تھے)۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ حاشیہ میں فرماتے ہیں: چنانچہ اس کی تائید متدرک کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے حاکم نے ج: ۲، ص: ۳۰۳ پر حضرت عمر رض سے ہی نقل کیا ہے کہ:

"حضرت عمر رض نے فرمایا کہ کاش کہ میں رسول اللہ ﷺ سے تم مسئلے دریافت کر لیتا تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور کار آمد ہوتے، ایک یہ کہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کا خلیفہ کون ہوگا؟ دوسرے ان لوگوں کا حکم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ زکوٰۃ تم کو یعنی خلیفۃ المسلمين کو نہ دیں گے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا چاہئے یا نہیں؟ تیسرا "گلار" کا مسئلہ (یعنی ایسے مورث جس سے نہ مار باپ ہوں، نہ چٹا بیٹی، اس کی میراث کا وارث کون ہو گا؟)"

یہ حدیث شیخین رض (بخاری و مسلم) کے شرائط کے مطابق صحیح ہے، اگرچہ انہوں نے "صحیح بخاری" اور "صحیح مسلم" میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: چونکہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ زکوٰۃ

بھی ایک ایسا ہی "مالی نیکس" ہے جیسے ہر حکمران اپنی رعایا سے مختلف قسم کے مالی نیکس وصول کیا کرتا ہے، لہذا جب تک حضور ﷺ کی بقیدِ حیات تھے، آپ ﷺ نے بحیثیت حکمران اور بادشاہ ہم سے زکوٰۃ وصول کی (اور ہم نے دی)، آپ کو اس کا حق تھا، (اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد) جب ہم آزاد ہو گئے تو اب جو ہمارے حکمران ہوں گے ان کو اختیار ہے کہ وہ اور تمام شیکوں کی طرح ہم سے زکوٰۃ وصول کریں یا نہ کریں؟ وہ زکوٰۃ جو ہم حضور ﷺ کے زمانے میں دیتے تھے، وہ بہر حال حضور ﷺ کے ساتھ ختم ہو گئی، اس کے مطابق کا اب کسی کو حق نہیں ہے، حضرت عمر بن الخطبؓ کے نزدیک یہی ان کے انکار کی اصلی غرض تھی (لہذا وہ باغی تھے) باقی اس کے علاوہ جو اور تاویلیں وہ انکار زکوٰۃ کی کرتے تھے، وہ تمہارا (امر زائد کے طور پر) کرتے تھے۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو اسی انکار فرضیت زکوٰۃ کی بنابر کافر و مرتد قرار دیا تھا، (اس نے کہ زکوٰۃ کو ایک عبادت اور دینی فرض مانتے کے بجائے حکومت مسلط کا ایک مالی نیکس کہنا، دراصل فرضیت زکوٰۃ کا انکار ہے، لہذا یہ لوگ مرتد ہیں) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ!

(بہر صورت شیخین (ابو بکر و عمر)ؓ کا اختلاف دراصل مانعین زکوٰۃ کی غرض اور منع زکوٰۃ کے وجود و اسباب کے تعین کے بارے میں تھا، حضرت عمر فاروقؓؓ اس کا اصلی سبب و محرك ابو بکر صدیقؓ کی اطاعت سے انحراف اور ان کی حکومت سے بغاوت قرار دیتے تھے، اور منع زکوٰۃ کو اس بغاوت کا ایک عنوان۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓؓ کے نزدیک ان کی اصلی غرض دین رسول اللہ ﷺ سے انحراف، اور انکار زکوٰۃ دین کے ایک اہم رکن کا انکار تھا، لہذا وہ ان کو مرتد اور واجب استحل بمحجتھے تھے، لہذا شیخینؓؓ کا یہ اختلاف واقعہ (انکار زکوٰۃ) کے اسباب و وجہ کی تحقیق و تفہیم سے متعلق تھا۔ چنانچہ اگر حضرت عمر بن الخطبؓؓ پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ در حقیقت یہ لوگ کفر کی بنابر سرے سے فرضیت زکوٰۃ کے ہی منکر ہیں (اور اس کو دین کا رکن ہی نہیں مانتے) تو وہ بھی یقیناً ان کو کافر و مرتد قرار دیتے اور اصلاً تردید فرماتے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: اس کے بعد بالکل یہی تحقیق حافظ جمال الدین زیلعيؓ کے ہاں "تخریج بدایہ" کے "باب الجزیہ" میں میری نظر سے گزری، نیز اس سلسلہ میں "منہاج السنۃ" ج: ۲ ص: ۲۳۳ اور ج: ۳ ص: ۲۳۱ کی مراجعت بھی ضرور کرنی چاہئے۔

**ایک نئی حقیقت کا انکشاف:**..... حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور "کنز العمال" میں تو حضرت ابو بکر صدیقؓؓ کے مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے کے ذیل میں خود حضرت عمر بن الخطبؓؓ کی ایک روایت مذکور ہے، جس میں تصریح ہے کہ حضرت عمر بن الخطبؓؓ نے بھی ان کو مرتد قرار دیا تھا، لیکن ان کی

رائے میں اس وقت مسلمانوں کے پاس ان مردین کے ساتھ جنگ کے لئے حرbi طاقت نہ تھی۔ (اس لئے وہ حضرت ابو بکر صدیق (رض) کے صرف اقدام جنگ کے خلاف تھے، اختلاف ان کے مرد ہونے یا نہ ہونے میں تھا بلکہ اس وقت جنگ کے قرین مصلحت ہونے یا نہ ہونے میں تھا)۔

علاوه ازیں محب طبری کی "الریاض النصرة" میں حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے رحلت فرمائے گے، تو عرب قبائل دین سے مخرف اور مرد ہو گئے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق (رض) نے فرمایا کہ "بخدا! (اوٹ تو اونٹ) اگر یہ لوگ اوٹ کی ایک ری بھی مجھ کو دینے سے انکار کریں گے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا،" تو حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: "اے رسول اللہ کے خلیفہ! (مصلحت وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ) آپ ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں، اور نرمی بریں۔" تو اس پر ابو بکر صدیق (رض) بولے "اے عمر! کفر کے زمانے میں تو تم ایسے نذر تھے، اور اسلام لانے کے بعد تم ایسے ڈرپوک بن گئے؟ سنو اے عمر! اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کی تکمیل ہو چکی، کیا میرے زندہ ہوتے دین میں کتر یونٹ کی جا سکتی ہے؟ (ہرگز نہیں)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ "سنن نسائی" میں بھی مذکور ہے، اس روایت سے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب (کونہ ان کے مرد ہونے میں کوئی تردود تھا اور نہ مسلمانوں کی حرbi طاقت اور قوت مقاومت میں کوئی تامل تھا، بلکہ وہ) صرف تالیف قلب کی غرض سے جنگ کرنے کے خلاف تھے۔ ابن حزم نے بھی "ملل و خل" میں ج: ۶ ص: ۹ پر اس سے بحث کی ہے، اور نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں ج: ۲ ص: ۱۳۰ اپر ان مردین کے مختلف فرقے اور گروہ شمار کرائے ہیں، (جن میں کچھ مرد تھے اور کچھ باغی، اور اسی پر اختلاف تھیں جنہم کوئی قرار دیا ہے) حافظ بدرا الدین عینی (رحمۃ اللہ علیہ) "عمدة القارئ" (شرح بخاری) میں ج: ۳ ص: ۲۷۳ پر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے بارے میں "اکلیل" کے حوالہ سے حکیم بن عباد بن حنیف جواس کے ایک راوی ہیں، کی مرفوع ① روایت نقل کرنے کے بعد اس حکیم کا قول نقل کرتے ہیں

"ما اری ابا بکر الا انه لم یقاتلهم متأولاً انما قاتلهم بالنصر ."

ترجمہ: "میری رائے میں ابو بکر صدیق (رض) نے مردین سے جنگ کی تاویل کی تباہ پر نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یقیناً نص قطعی کی بنا پر ان سے جنگ کی ہے۔"

① اس مرفوع روایت کے لئے "عمدة القارئ" کے مذکورہ بالا انوار کی مراجعت کیجئے، حکیم کی مراد "نصر" سے یہی مرفوع روایت ہے کہ اس میں تیسری مرتبہ کے انکار پر نقل کر دینے کا صریح حکم موجود ہے۔

اس کے بعد عینی ص: ۲۷ پر اس نص قطعی کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اور حدیث مذکور کے لفظ "الا بحق الاسلام" کے ذیل میں چند صورتیں نقل کرتے ہیں: (۱) ناق کسی کو قتل کر دینا۔ (۲) کسی باطل تاویل کی بنا پر زکوٰۃ یا اسی قسم کے کسی اور رکن دین کا انکار کر دینا۔ (۳) شادی شدہ ہونے کے باوجود ذمہ کرنا۔ یہ وہ امور ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود مستحق قتل ہو جاتا ہے ابو بکر رازیؒ نے "احکام القرآن" میں ج: ۸۲ پر نہایت متفق طور پر اس کو بیان کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "کنز العمال" میں ج: ۳ مص: ۱۲۸ پر ایک اور روایت بھی اس کی منوید ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجت نے بھی "فتح الباری" میں ج: ۱۳ مص: ۷ پر کیا ہے، اور خود حضرت عمر فاروق بن شیعہ سے "کنز العمال" میں ج: ۶۲ مص: ۳۱۳ پر، اور ج: اص: ۸۰ پر مذکورہ ذیل روایت مردی ہے، فرماتے ہیں:

"والله! لیوم ولیلة لا بی بکر خیر من عمر عمر و آل عمر، ثم ذکر ليلة الغار الى ان قال و اما الیوم فذکر قتاله لمن ارتد" ،

ترجمہ: .... "خدا کی قسم! ابو بکر صدیق کی ایک رات اور ایک دن، عمر اور آل عمر کی پوری زندگی سے بہتر ہے فرماتے ہیں وہ رات غار حرا کی رات ہے، اور وہ دن مرتدین سے جنگ کے فیصلہ کا دن ہے۔ ①

یہ روایت صاحب "قاموس" کی کتاب "الصلات و البشر فی الصلة علی خیر البشر" کے نسخہ مخطوط میں بھی ہے، ہذا والله اعلم بالصواب! (ان سب باتوں کو پیش نظر رکھیں، پورے حقائق کا علم اللہ کو ہی ہے)۔

## صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع

کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تاویل سے حلال نہیں ہو سکتی اور اس کو حلال سمجھنے والا اگر توبہ نہ کرے تو کافر اور واجب القتل ہے: امام ابو جعفر طحاویؑ نے شرح "معانی

❶ تمام روایات و ادعیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ) کا ابتداء کار میں حضرت عمر فاروق بن شیعہ پر حقیقت و اتفاق کا حق منکشف نہیں ہوئی، اور مرتدین کے فرقے بھی انکار زکوٰۃ کی عرض و نایت کے ہاتھ میں منکشف تھے، اور نایت احتیاط کی بنا پر جیسے جیسے حقیقت حال آپ پر منکشف ہوتی تھی، آپ ابو بکر صدیق میں سے تنقیح ہوتے گئے، اور آخر میں یہ فرماتے پر مجبوہ ہوئے "وَاللَّهُ مَا أَرَى إِلَّا بَكْرًا" ان شرح اللہ صدرہ للقتال "اور پھر اس فیصلہ قتل کی دین میں اہمیت و عظمت کے اکشاف پر ابو بکر صدیق بن شیعہ کے اس ایک مبارک دن کو اپنی اور اپنے خاندان کی پوری زندگی پر فویت اور ترنج کا صدق دل سے اعتراف فرمایا، والله اعلم بحقيقة الحال، ان اصبت فعن اللہ تعالیٰ و ان اخطأت فعن نفسی والله یغفر لی! ازمترجم۔

الآثار“ میں ج: ۸۹ پر حضرت علی بن ابی ذئبؑ کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کے بعض طرق ”فتح الباری“ میں باب ”حد الخمر“ کے ذیل میں ج: ۶۰ پر، اور ”کنز العمال“ میں بھی مذکور ہیں۔ ①  
حضرت علی بن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ:

”جس زمانہ میں یزید بن معاذ بن ابی سفیان شام کے امیر تھے، شام کے کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر شراب پینی شروع کر دی کہ ہمارے لئے تو شراب حلال ہے، اور آیت کریمہ: ”لیس علی الدین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا۔“ سے حلت خمر پر استدلال کیا، تو یزید بن معاذؑ نے حضرت عمر فاروقؓ کو اس فتنہ کی اطلاع دی، حضرت عمرؓ سے فوراً یزید بن معاذؓ کو لکھا کہ: ”اس سے قبل کہ یہ لوگ وہاں یہ گمراہی پھیلائیں تم انہیں (گرفتار کر کے) فوراً میرے پاس بیجھ دو۔“ جب یہ لوگ حضرت عمر بن معاذؓ کے پاس مدینہ پہنچے تو حضرت عمر بن معاذؓ نے ان کے بارے میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرمایا، تمام صحابہؓ نے متفقہ طور پر عرض کیا: ”اے امیر المُمْوَنِینَ! ہماری رائے میں تو ان لوگوں نے (اس آیت کریمہ میں یہ تاویل کر کے) اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو دین میں جائز و حلال بنایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی، لہذا یہ (مرتد ہیں) آپؓ ان سب کو قتل کیجئے۔“ حضرت علی بن ابی ذئبؓ اس پر خاموش رہے، تو حضرت عمر بن معاذؓ نے ان سے دریافت کیا: اے ابو الحسن! تمہاری کیا رائے ہے؟“ حضرت علی بن معاذؓ نے فرمایا: ”میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس عقیدہ سے توبہ کرنے کا حکم دیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو آپؓ ان کو شراب نوشی کے جرم میں اسی اسی کوڑے (حد شرب خمر) لگائیں اور چھوڑ دیں، اور اگر یہ (اس عقیدہ سے) توبہ نہ کر لیں تو ان کو (کافر و مرتد قرار دے کر) قتل کر دیا جائے، اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے، اور دین میں اس چیز کو جائز و حلال بخرا کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔“ چنانچہ (اس رائے پر تمام صحابہؓ متفق ہو گئے اور) حضرت عمر بن معاذؓ نے ان کو توبہ کرنے کے لئے حکم دیا، جب انہوں نے توبہ کر لی تو اسی اسی کوڑے (حد شرب خمر) ان کو لگائے۔“

اسی واقعہ سے متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”الصارم المصلول“ میں ص: ۵۳۳ پر فرماتے ہیں:

”تمام ارباب شوریٰ، حضرت عمر بن معاذؓ اور ان کے رفقاء کے اس فیصلہ پر متفق ہو گئے کہ ان لوگوں

① حضرت مصنف علی الرحمۃ حاشیہ میں ”فتح الباری“ ج: ۲۰ ص: ۲۵ سے ”شرب خمر“ (شراب نوشی) کے سلسلہ میں صب ذیل مرفوع حدیث تعلق فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلی چیز جو اسلام (کے احکام) کو اس طرح اٹ کر رکھ دے گی، جس طرح برلن کو اٹ دیا جاتا ہے، وہ شراب ہے۔“ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کیسے ہو گا؟ فرمایا: ”شراب کا ہام پکھو اور رکھ دیں گے، اور پھر اس کو حلال قرار دے لیں گے (اور مزے سے بیٹھ گے)۔“ اسی طرح آج کل تجارتی سود کا نام ”منافع“ رکھ کر سود کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ مترجم۔

سے توبہ کرنے کے لئے کہا جائے، اگر تو بہ کر لیں اور حرمت خمر کا اقرار بھی کر لیں تب تو ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں، اور اگر اس عقیدہ سے توبہ اور حرمت خمر کا اقرار نہ کر لیں تو ان کو کافر قرار دے دیا جائے اور قتل کردئے جائیں۔“

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں : حالانکہ مذکورہ بالا آیت (لیس علی الدین .....الخ) انہی لوگوں (اہل کتاب) کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے، (اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد شرب خمر کے اجازت دی تھی)، یہ اہل شام بھی اسی بنیاد پر مسلمانوں کیلئے شراب کو حلال کہتے تھے (کہ شراب کی حرمت کفار کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمانوں کے لئے حلال ہے) مگر صحابہ کرام نے ان کی اس تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا۔

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں : ”تحریر الاصول“ میں بھی ”اقسام جبل“ کے ذیل میں اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے اور ابو بکر رازی نے تو ”احکام القرآن“ میں ج: ص: ۷۵ پر سورہ مائدہ کے ذیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے (کہ ایسی باطل تاویل اور کھلا ہوا جبل قطعاً معتبر نہیں ہے)۔

جیسے قرآن کے منکرین کافر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے ایسے ہی قرآن کے معنی کے منکرین بھی کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا فرض ہے : حافظ ابن حجر عسید، ”فتح الباری“ میں ج: ص: ۳۰۳ پر حضرت انس رض کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، انس رض کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب عمرہ قضا کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن رواح رض حضور علیہ السلام کے آگے آگے یہ ”رجزیہ“ اشعار پڑھتے جا رہے تھے :

خُلُوَّا بَنِي الْكُفَّارِ مَنْ سَبَبَهُ  
قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنَ فِي تَنْزِيلِهِ  
بَانْ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ  
نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَاوِيلِهِ  
كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ترجمہ : ”اے کافروں کی اولاد! رسول اللہ ﷺ کا راست جھوڑ دو، بے شک مہربان خدا نے اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے کہ بہترین قتل وہ ہے جو اس کی راہ میں ہو (البذا) ہم تم کو قتل کر لیں گے اس

قرآن کی مراد منوانے پر بھی، جیسا کہ ہم نے تم کو مارا پیٹا ہے اس کے نزول کے منوانے پر۔“ ابو یعلیٰ نے بھی عبد المرزاق کے طریق سے اس روایت کی تخریج کی ہے، لیکن ابو یعلیٰ کی روایت میں ”نحن قتلنا کم“ کے بجائے ”نحن ضر بنا کم علی تاویله“ ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ (ہم تم سے برابر ثابت رہیں گے) یہاں تک کہ تم قرآن کی مراد یعنی معنی و مفہوم کو بھی تسلیم کرو۔ یہ فرماتے ہیں: اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے جو معنی و مراد ہم نے سمجھی اور جانی ہے، (اس کے منوانے پر) ہم تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ (تم بھی اسی معنی و مراد کو تسلیم کرو جس کو ہم نے سمجھا اور مانا ہے اور) تم بھی اسی دین میں داخل ہو جاؤ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، (یعنی قرآن کو صرف کلام اللہ مان لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس معنی و مراد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور قتل و قتال سے امان حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے، جو تمام مسلمانوں نے سمجھی ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعر کے صحیح الفاظ حسب ذیل ہیں:

نحن ضر بنا کم علی تاویله  
کما ضر بنا کم علی تنزیلہ

نیز فرماتے ہیں (خواہ ”قتلنا“ ہو، خواہ ”ضر بنا“) دونوں کی مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کی، (فرق صرف لفظوں کا ہے، معنی واحد ہیں) چنانچہ ابن حبان نے دونوں طریق پر اس روایت کی صحیحی کی ہے، اگرچہ پہلے طریق (نحن قتلنا) پر یہ تخفین (بخاری و مسلم) کی شرائط پر صحیح ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت نص صریح ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے وہ معانی و مصادیق جن پر صحابہ رض اور سلف صالحین کا اجماع ہو چکا ہے، ان کو منوانے اور تسلیم کرانے پر بھی (منکرین سے) اسی طرح جنگ کی جائے گی جیسے قرآن کو کلام اللہ اور منزل من اللہ منوانے کے لئے (کفار سے) جنگ کی گئی ہے۔

قرآن و حدیث کے عرف اور متقدمین کی اصطلاح میں لفظ تاویل کے معنی: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس روایت میں لفظ ”تاویل“ کے معنی ”مراد“ کے ہیں، صحابہ رض اور سلف صالحین کے عرف میں لفظ ”تاویل“ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تصانیف میں، اور خفاجی نے ”شفاء“ کی شرح ”نسیم الرياض“ میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں: مزید تفصیل کے لئے ابو بکر جاس کی ”احکام القرآن“ ج: ۲ ص: ۲۸۸ کی

## مراجعةت ضروری ہے۔ ①

فرماتے ہیں: قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ "تاویل" "مرا و مرصداق" کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ: "یوم یاتی تاویلہ" میں تاویل کے معنی مرصداق کے ہیں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قول: "ذلک تاویل رُوْبَیْا" میں بھی تاویل کے معنی مراد و مرصداق کے ہیں، یہ قرآن کا عرف اور استعمال ہے، اس لفظ "تاویل" کے معنی "صرف عن الظاهر" (کسی لفظ کو اس

② حضرت محدث علی الرحمۃ نے حاشیہ میں زیرِ بحث مسئللوں کی مزید مراجعت کے لئے امام حاصہ کی کتاب "احکام القرآن" کے مذکورہ ذیل مقامات کی شاندیہ فرمائی ہے۔

۱۔ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُهُمْ أَهْلَ الْإِلَهَوَيَا، الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِهَا" بصلحة اهل الكتاب (ن ۳۶ ص ۲)

ترجمہ..... "بعض لوگ اہل اہوا (بدعت وغیرہ کی وجہ سے جن کی تکفیر کی گئی ہے، ان) کو بجز اہل کتاب قرار دیتے ہیں۔"

۲۔ "... ذکرہ عن الکرخی وابدہ بما فی الریادات" (ن ۳ ص ۲۲۵)

ترجمہ..... "یہ قول (ابو بکر حاصہ نے) امام کرخی سے نقل کیا اور "ریادات" کے بیان سے اسی کی تائید کی ہے۔"

۳۔ "... وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ ظَاهِرِ كُفَّارِهِ كُفَّارٌ بِحَوْلِ الْمُشَهَّدِ وَمِنْ صَرْحِ الْجَرْبِ ... إلخ... وَلَا يَخْتَلِفُ فِي ذَالِكَ حُكْمٌ مِنْ فَسْقٍ أَوْ كُفْرٍ بِالْتَّاوِيلِ أَوْ بِرَدَالِنَصِّ" (ن ۴۰ ص ۹۰) میہم غایہ من مثلہ فی الرتبہ فی تکفیر بعض المتأولین ترجمہ..... یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ جس شخص کا کفر ظاہر (وثابت) ہو پہاڑیے مشہد (فرقہ) یا، لوگ جو جب یہ عقائد کی تصریح (واعلان) کریں۔ اور اس مسئلہ میں ان لوگوں کا حکم جن کو کسی نص کی تاویل یا تردید (انکار) کی وجہ سے فاسق یا کافر قرار دیا گیا ہے، ان سے مختلف نہیں ہے۔"

(حضرت شاہ صاحب) یہ عبارات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: (بعض تاویل کرنے والوں کی تکفیر کے بارے میں جن کو رتبہ میں مثال کے طور پر پیش کیا ہے (یہ بیان) نامہت درج ہے۔

۴۔ "... وَكَذَلِكَ فِي ج: ۲، ص: ۳۶، وَفِي ج: ۲، ص: ۳۲، اللَّهُ لَا يُشْرِطُ الْأَنْذَارَ وَالْقِدْمَ بِالْقَوْلِ فِي بَعْضِهِ وَقَدْ انْعَدَ اللَّهُ جَمَاعَ الْعَمَلِيِّ اللَّهُ لَا يُشْرِطُ فِي تَبْلِغِ الْمَوَاتِرِ عَدْدَ الْوَاتِرِ فِي الْمُبْلَغِ بِلِ اقْتَامَةِ الْحَجَةِ كَسَاطُ الْمَعَالِمَاتِ" (ن ۲ ص ۳۲)

ترجمہ..... "ج ۲ ص ۳۶ اور ج ۲ ص ۳۲ میں بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ بعض (امور) میں خبر دار کرتا اور پہلے سے کہنا شرط نہیں ہے۔ اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہے کہ کسی امر متواتر کی تبلیغ (منکرین تک پہنچانے) میں پہنچانے والوں کی تعداد کا متواتر ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ (دوین کے) معاملات کی طرح ویل قائم کروئیا (اتمام محبت کر دیا) شرط ہے۔"

۵۔ "... وَرَاجِعٌ بِدَانِ الْفَوَانِدِ ج: ۲، ص: ۱۹۸" ترجمہ..... "اور بدان الفوائد ج ۲، ص ۱۹۸ کی بھی مراجعت کیجئے۔"

۶۔ "... وَمَا ذُكْرَهُ فِي مُخْتَلِفِ الْحَدِيدَتِ ص: ۱۷۲، غَيْرَ جَيْدٍ وَمَا ذُكْرَهُ فِي ص: ۸۰ جَيْدٌ" ترجمہ..... "مختلف الحدیث ص ۱۷۲ کا بیان غیر جید ہے، بیان ص ۸۰ کا بیان جید ہے۔"

۷۔ "... وَذُكْرٌ فِي ح: ۱ ص: ۵۲ كفر من طرق الى التلبيس لغير امر النبوة في قسم من السحر وانه مذهب الفقهاء وانه عليه تصديق الكاذب وهذا يتطبق على زنا دقة اللاحور وقد بسطه" ترجمہ..... (ابو بکر حاصہ نے) ن ۵۲ پر (تکفیر ہے) ان لوگوں کے کفر و جنوبوت کے بارے میں تلپیس کا راست اختیار کرتے ہیں، سحر (جادہ) کی ایک قسم میں ذکر کیا ہے (اوکفر قرار دیا ہے)، اور یہ کہ فقہاء کا مذہب یہ ہے اور اسی پر (بنی) ہے کاہن (نجومی) کی تصدیق (کہ وہ بھی کفر ہے) (فرماتے ہیں) تکفیر کی یہ صورت لاہوری (احمدی) زندیقوں پر بالکل منطبق (چیز) ہے، امام حاصہ بھی اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔"

کے ظاہری معنی سے ہٹانے) کے نہیں ہیں، (جیسا کہ علم عقائد و کلام اور فقہا کی اصطلاح ہے، یعنی متفقہ میں لفظ تاویل کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس میں متأخرین اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا دینا، بلکہ اسی مصدق و مراد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں جا بجا اسی معنی میں استعمال ہوا ہے)۔

## قرآن کی مجمع علیہ مراد و معنی کا انکار قرآن کے انکار کے مراد ف اور موجب کفر و قتل

ہے..... فرماتے ہیں: غرض یہ ہے کہ جو شخص (قرآن کریم کی کسی آیت) سلف تاویل کو۔ جیسے متأخرین کی صطلاح میں تفسیر کرتے ہیں۔ ترک کرے گا، یعنی نہ مانے گا وہ بغیر کسی فرق کے اسی طرح کفر و قتل کا مستحق ہے، جیسے نفس قرآن کو سرے سے ترک کرنے اور نہ مانئے والا (یعنی قرآن حکیم کی کسی آیت کا انکار جیسے موجب کفر و ارتداد ہے، اور منکر مستحق قتل ہے، بالکل اسی طرح قرآن کے مجمع علیہ معنی و مراد کا انکار بھی موجب کفر و قتل ہے)

حنفیہ کی مشہور معروف کتاب "بدائع" میں ایک روایت مذکور ہے کہ:

"حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: تم قرآن کی مراد و معنی (منوانے) پر ایسے ہی (منکرین سے) جنگ کرو گے جیسا کہ آج نزول قرآن (کے منوانے) پر (کفار سے) جنگ کر رہے ہو۔"

فرماتے ہیں: غالب یہ ہے کہ حضور ﷺ کا اشارہ "خوارج" کی جنگ کی جانب ہے، (گویا یہ نبی ﷺ کی ایک پیش گوئی تھی جو ہو بہو پوری ہوئی)

چنانچہ امام طحاویٰ کے "مشکل الآثار" کے مختصر المعتصر ج: اس: ۲۲۱ میں اسی حدیث پر مستقبل باب قائم کیا ہے، باب "قتال علی اهل الاهواء" اور اس کے تحت اسی حدیث کی تحریج کی ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "خصائص علی" میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حاکم نے "متدرک" میں اس حدیث کی تحریج کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین شیعہ (بخاری و مسلم) کی شرائط کے مطابق صحیح ہے اگرچہ انہوں نے اپنی کتابوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ حافظ ذہبیٰ نے "تلمیص متدرک" میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کیا ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ "جامع ترمذی" میں باب "مناقب علی" میں ص: ۵۳۳ پر بھی موجود ہے، ان حضرات کے ہاں یہ حدیث ذیل کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

"ان منکم من يقاتل علی تاویل القرآن كما قاتلت علی تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم ابو بكر و عمر رضي الله عنهمما ، فقال ابو بكر : أنا هو؟ قال : لا! قال عمر : هو؟ قال : لا! ولكن خاصف النعل يعني على."

ترجمہ: ..... ”بے شک تم میں سے ایک شخص قرآن کی مراد کو (منکرین سے) منوانے پر ایسے ہی جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (مجانب اللہ) نازل ہونے کو (کفار سے) منوانے پر جنگ کی ہے۔ تو یہ کہ کرسب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حاضرین میں ابو بکر بن عثیمین بھی موجود تھے، تو ابو بکر بن عثیمین نے کہا: ”یا رسول اللہ وہ شخص میں ہوں؟“ آپ سے یہ نہ فرمایا، ”نہیں عمر بن عثیمین نے کہا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ (جنگ کرنے والا) وہ اپنی چپل گانٹھنے والا ہے یعنی علی بن عثیمین (بن عثیمین)“

یہ حدیث بھی ثابت کرتی ہے کہ انکار مراد قرآن اور انکار قرآن کا حکم ایک ہے، امام احمد بن حنبل نے ”مسند احمد“ میں حج ۳ ص: ۸۲ پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

(بہر صورت یہ حدیث قبال خوارج سے متعلق ہے) لہذا حضرت عمار بن یاسر بن عوف نے اس حدیث کو جنگ صفين کے موقع پر یا تو بطور ”تمثیل“، (حسب حال ہونے کی بنابر) پڑھ دیا ہے، یا (ممکن ہے کہ ابتداء میں) عمار بن یاسر بن عوف کا گمان یہ ہوا کہ ”صفین“ میں جنگ کرنے والے ہی اس حدیث کا مصدق ہیں۔ اور بعد میں ان پر یہ واضح ہوا ہو کہ اس حدیث کا مصدق (خوارج ہیں)، اہل صفين نہیں، جیسا کہ ”منہاج السنۃ“ میں اہل صفين کے متعلق جو عمار بن عوف کے اقوال منقول ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے (بہر حال اس حدیث کا مصدق خوارج ہیں، عمار بن عوف کا اہل صفين کے متعلق اس حدیث کو پڑھنا، یا غلط فہمی پر مبنی ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یا صرف اولیٰ مناسبت سے حسب حال پا کر اہل صفين کے حق میں پڑھ دیا ہے)

امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”مشکل الآثار“ کے مختصر ”المعتصر“ میں ص: ۲۲۲ پر ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ کے اس وعدہ (پیش گوئی) کے برحق ہونے کو ثابت کرنے والا واقعہ حضرت علی بن عثیمین کا ”خوارج“ کے خلاف برسر پیکار ہونا اور ان کو تفعیل کرنا، نیز ان خوارج میں ہو بہوان اوصاف کا پایا جانا ہے جو حضور ﷺ نے بیان فرمائے۔ حضرت علی بن عثیمین کی یہ خصوصیت (استیصال خوارج) انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلفاء کو مخصوص، ممتاز فرمایا ہے، چنانچہ مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے ساتھ جنگ اور ان کی بخش کرنی حضرت ابو بکر صدیق بن عوف کی خصوصیت ہے، عجمی اقوام کے ساتھ جنگ اور عراق و شام کی فتح اور ان ممالک میں دین اسلام کا استحکام و غلبہ حضرت عمر فاروق بن عوف کی خصوصیت ہے، اور مراد و معانی قرآن کے منکر خوارج سے جنگ اور ان کی بخش کرنی حضرت علی بن عثیمین کی خصوصیت ہے، اور تمام امت کو ایک قراءت قرآن (لغت قریش) پر جمع کر دینا (اور اختلاف لغات و قراءات کو منادینا) حضرت عثمان غنی بن عوف کی خصوصیت ہے یہ وہ کارنامہ ہے جس سے (منافقین و منکرین پر) بحث قائم ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ اب جو کوئی قرآن

کے ایک حرف کا بھی انکار کرے (یا اس میں تاویل کرے) وہ کافر ہے، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے سے بچالیا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے اختلافات کا دروازہ کھولا جن سے تحریف و تبدیل کی راہ ہموار ہو گئی (اور دونوں کتابیں خود انہی کے ہاتھوں مسخ و محرف ہو گرہ گئیں)، پس اللہ تعالیٰ کی رضاۓ عظیم ان خلفاء رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شامل حال ہو، اور اس احسان عظیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جانب سے ان کو وہ عظیم تراجم عطا فرمائیں جو اس نے کسی بھی نبی کے خلفاء کو اس نبی کی اطاعت و پیروی پر عطا فرمایا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان خلفاء کے مدارج و فضائل اور خصوصیات و مزایا کی معرفت عطا فرمائی اور ہمارے دلوں کو ان خلفاء کے اور ان کے مساوات میں صاحبہ کرام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کیمیہ اور عداوت سے پاک و صاف اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضاۓ خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے) وہ سب سے بڑا حرم کرنے والا ہے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حضرت عثمان ذی النورین بن عاصی (کی خصوصیت صرف جمع قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کی طرح انہوں) نے بھی بھی اقوام کے ساتھ بکثرت لڑائیاں لڑیں اور جہاد کئے (اور بقیہ ممالک عالم کو فتح کیا) اس کے علاوہ ان کی سب سے اہم خصوصیت اور لازوال کارنامہ امت کو باہمی خلفشار اور خانہ جنگی سے بچانا اور انتشار و احتلاف کے اسباب کو مٹانا ہے، چنانچہ انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، مگر (اپنی ذات سے) امت میں پھوٹ (اور گروہ بندی و خانہ جنگ نہ ہونے دی، ورنہ اگر وہ ذرا اشارہ فرمادیتے تو ان کی حمایت کرنے والی مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود تھی، جو ان کے سامنے سینہ پر ہو جاتی اور آپس میں خوزیریں جنگ ہوتی)۔

فرماتے ہیں: نزول قرآن کی طرح مراد قرآن پر (منکرین سے) جنگ کرنے کا ثبوت اور عہد صحابہ میں اس کی شہرت "الصارم المسلط" کی پندرہ ہویں حدیث سے بھی بخوبی ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "الصارم المسلط" میں ص: ف: ۱۸۳ اپر فرماتے ہیں:

"صبغی بن عسل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معروف حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص کے متعلق یقین ہو جاتا کہ یہ انہیں خاچیوں میں سے ہے (جن کا پورا حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے) تو وہ اس کے قتل کر دینے کو بالکل جائز سمجھتے، اگرچہ وہ اکیلا ہی ہو، چنانچہ ابو عثمان نبہمی کہتے ہیں کہ قبیلہ یہ بوعیات نیم کے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے "الذاریات، المرسلات، النازعات" یا ان میں سے کسی ایک کے متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: "تم ذرا اپنے سر سے عمائد اتارو۔" اس نے عمائد اتار دیا تو اس قبیلہ کے کے سر پر بال موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "آگاہ رہو، بخدا! اگر میں تیر اسر منڈا ہو پاتا تو تیری وہ کھو پڑی جس میں یہ

تیری (فتنه انگلیز) آنکھیں گردش کر رہی ہیں، تو رذالتا (اور تجھے خارجی ہونے کی بنا پر حضور ﷺ کے حکم کے مطابق قتل کر رہتا)۔ ”ابو عثمان نہدی کہتے ہیں:

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رض نے بصرہ والوں کو (یا کہا ہم بصرہ والوں کو) لکھ کر بھیجا کہ اس شخص کے ساتھ (میل جول اور) نشت و برخاست برگزندہ رکھیں (مجلسی بازیگاٹ کرویں، اس لئے کہ یہ قرآن کی مشابہ، غیر واضح آیات کے معانی میں الجھا کر مسلمانوں کو گراہ کرنا چاہتا ہے)، چنانچہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر یہ شخص آ جاتا اور ہمارا سواد میوں کا مجمع بھی ہوتا تو سب کے سب منتشر ہو جاتے (اور اس سے بھاگتے جیسے جذامی وغیرہ متعدد امراض میں گرفتار بیماروں سے تدرست لوگ بھاگتے اور دور رہتے ہیں) اموی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔“

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”تو دیکھئے حضرت عمر فاروق رض مہاجرین و انصار کے مجمع میں سب کے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ اگر (اس شخص میں) وہ نشانی موجود پاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی بیان کی ہے تو اس کو ضرور قتل کر دیتے، حالانکہ انہی عمر فاروق رض کو حضور ﷺ نے خوارج کے سربراہ اول (ذوالخویصر) کو قتل کرنے سے روکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق رض نے حضور ﷺ کے فرمان مبارک: ”ایسما ٹفتمو هم فاقتلوا هم“ (جبکہ ان کو پاؤ قتل کر رہا تو) کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ (ان صفات سے موصوف خوارج کو) بلا تخصیص قتل کر دیا جائے اور یہ کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں ذوالخویصر سے درگذر کرنا صرف اس عہد میں اسلام کے ضعف اور غیر مسلموں کی وجہ پر مبنی تھا۔“ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ثابت کیا ہے کہ (ایسے لوگوں کا) یہ قتل کفر کی بنا پر ہے نہ کہ (مسلمانوں سے) بر سر پیکار ہونے پر، ”العارم المسلط“ کے اس حصہ کی ضرور مراجعت کر جائے، نہایت ضروری اور اہم حصہ ہے، نیز ”منہاج السنۃ“ کا بیان بھی پیش نظر رہنا چاہئے اس لئے کہ جیسا مقام (اور موضوع بحث) ہوتا ہے ویسا ہی بیان ہوتا ہے، خصوصاً حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں تو کثرت سے یہی انداز پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی مسئلہ کے ایک جزو پر ایک کتاب میں بحث کرتے ہیں، اور دوسرے جزو پر دوسری کتاب میں۔

فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”منہاج السنۃ“ میں ج ۲۳۰ پر رفضیوں کی تکفیر پر بھی ایک مستغل باب لکھا ہے، اور اس کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے

”جبکہ یہ رافض مدعی ہیں کہ اہل یمامہ (مرتدین) مظلوم تھے، ان کو ناجتن قتل کیا گیا ہے، اور ان سے جنگ کرتے کے جواز و صحت کے منکر ہیں، بلکہ ان کے (مسلمان ہونے کے) حق میں نا اطمین

کرتے ہیں (کہ وہ مسلمان نئے اور حق پر) تو یہ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ پچھلے (رافضی) انہی اگلوں (مرتدین یمامہ) کے قبیع (اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے) ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رض اور انکے نقش قدم پر چلنے والے اہل حق مسلمان ہر زمانہ میں (اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے اور) مرتدین سے جنگ کرتے رہیں گے (یعنی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رض نے اپنے زمانہ کے مرتدین اہل یمامہ سے ارتاداد کی بنا پر جنگ کی تھی، اسی طرح ان کے قبیعین اہل حق بھی اپنے زمانہ کے مرتدین سے جنگ کرتے رہیں گے، بالفاظ دیگر ہر زمانہ میں مرتدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کو قتل کرنے والے اہل حق بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مرتداد کی سزا بلا تخصیص قتل قرار دیتے ہیں) ۱

جو شخص کسی کافر و مرتد کو تاویل کر کے مسلمان ثابت کرے، یا کسی یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے: .... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا بیان میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ جو شخص یمامہ والوں کے حق میں تاویل (کر کے ان کو مسلمان ثابت) کرے، وہ کافر ہے اور جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی "منہاج میں" ج: ۲۳۳ پر تصریح کرتے ہیں:

"خوارج سے جنگ (مسلمان) باغیوں کی سی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ تو اس سے بڑھ کر اور ایک اور ہی قسم کی جنگ تھی (بالفاظ دیگر "کلمہ گو کافروں" سے جنگ تھی)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "منہاج السنۃ" میں ج: ۲۴ میں ج: ۱۹ پر رواض کے متعلق کچھ اور بھی لکھا ہے (مرا جمعت کجھے)۔

نیز حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جب کہ خوارج کے شخص اول (اور سر غنہ) کا قول: "ان هذه لفسمة ما اريد بها وجه الله؛" مجمع علیہ کفر ہے، تو یہی حکم اس کی اولاد و اتباع کے حق میں بھی جاری رہے گا (یعنی جو شخص اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی کافر ہو گا) اور میں السطور میں آیت کریمہ: "وَقَالَ أَوْلَىٰ نَهْمَ مِنَ الْأَنْسِ رَبُّنَا اسْتَمْعَ بَعْضُنَا بِعْضٌ... الْآيَة" (الانعام: ۱۲۸) سے اس پر استشهاد کیا ہے۔

فرماتے ہیں: اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو "فتح الباری" میں ج: ۱۲ میں ج: ۲۶ پر ۱ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس گفتگو کے فوراً بعد خوارج کے اس سرب غنہ کو اسی وقت قتل کر دینے کا حکم دیا

۱... حضرت مصنف میں السطور" ابیری" میں ج: ۲۳۶ کی مراجعت کی گئی ہے۔

ہے، جس نے یہ کلمہ کفر: ”ان هذه لفسمة أريد بها وجه الله“ کہا تھا (مگر اتفاق سے وہ وہاں سے کھک گیا اور نج گیا) الہذا ب وہ اور اس کے اتباع سب کفر اور قتل میں اور اس کفر قتل کے موجب اور سب (ارتداد) میں برابر ہو گئے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے ”الصارم الحسلول“ میں ص: ۱۸۰ پر تصریح فرمائی ہے۔

قرآن کریم کی آیات کو بے محل استعمال کرنا اور ہیر پھیر کر کے اس کی مراد و معنی کو بیان کرنا کفر ہے: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ان سب کا (یعنی اس سراغہ اور اس کے تبعین کا) طریق کارا یک ہی تھا ۱ اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو بے محل استعمال کرتے (اور کلمہ حق ہی سے باطل مراد لیتے) تھے، چنانچہ ”صحیح مسلم“ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”قال انه سيخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله ليارطا.“  
(صحیح مسلم: ص: ۳۸۱)

ترجمہ: .... ”حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہو گی جو قرآن کو بڑی شان سے توڑ مروڑ اور ہیر پھیر کر پڑھتے ہوں گے۔“

اس حدیث میں ”لیا“ کے ساتھ آیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اکثر مشائخ حدیث کی روایت میں یہی لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی ہیں ”یلوون المستهم به“، یعنی ”قرآن کے معانی مصادیق میں تحریفیں کرتے ہوں گے۔“

چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمۃ ”صحیح بخاری“ میں باب ”قتال الخوارج“ کے ذیل میں فرماتے ہیں: ”ابن عمر بن القزان (خوارج) کو خدا کی شریعت مخلوق سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان ظالموں نے تو قرآن کی ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں منہموں پر چپاں کر دا (اور منہموں کو کافر بنایا)۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہی معنی ہیں قرآن کو بے محل استعمال کرنے اور بے محل تاویل

۱ چیز بہت پرست کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان جتوں کی صرف اس لئے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہم کو نہ اسے قریب نہ دیں (حالانکہ تھوڑا بھل تھا میں تھی ایو جیسے حضرت ابراہیم بن علیؑ کے جواب میں تھا وہ اسے کہ تھا ”اذا اتيت“ اس کے یہ لفظ ”ادیا“ وہ ”ماہاتے“ کہ ناطق استعمال اور دھوکہ تھی) اسی لئے حضرت ابراہیم بن علیؑ کی دھرمی ولیل کے جواب میں نہ رودھیں ان وہ بہوت وہیں تھے اس لئے کہ اس میں ایسی ولی تھوڑی نہیں تھیں جیسی تھی۔ اور اسے العمال میں نے ۵۴۲، ۲۳۲ پر حضرت عمر بن علیؑ کی ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اور اسی باب میں وہ لوگ بھی واصل ہیں جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور ص: ۹۶ پر ہے کہ ”زعموا“ اس ان کا بدترین نکیہ کلام ہے، اور اس پر ۸۸۳ پر ہے کہ سب سے بڑا گیرہ ٹھاکری ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔

کرنے کے (جس کی ایک صورت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے)، صحابہ کرام شیعہ اور سلف صالحین (ان خوارج کے بارے میں) فرمایا کرتے تھے: ”کلمۃ حق ارید بہا الباطل“ (یہ وہ کلمہ حق ہے، جو باطل کے لئے استعمال کیا گیا ہے)

فرماتے ہیں: ”صحیح مسلم“ میں یہ روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ آتی ہے:

”يقولون الحق بالستهم لا يجوز هذا منهم (واشار الى حلقه) . . .“

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۲۳)

ترجمہ: ..... ”وہ زبان سے تو کلمہ حق کہتے ہوں گے مگر وہ حق ان کے اس سے (یعنی وہن و حلقوم سے) آگئے نہ بڑھتا ہوگا (راوی نے اپنے ہاتھ سے گلے کی جانب اشارہ کیا، یعنی ان کے دلوں میں حق کا نام و نشان تک نہ ہوگا)۔“

”کنز العمال“ میں حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان فی امته قوماً يقرءون القرآن  
ینشرو نہ نشر الدقل یتاولونه علیٰ غیر تأویله .“ (کنز العمال ج ۲ ص ۵۷ حدیث ۱۲۱۲)

ترجمہ: ..... ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) ذکر فرمایا کہ میرمن امت میں ایک ایسی قوم ہوگی جو قرآن کریم کی آیات کو اس طرح (الثا سیدھا، محل بے محل) پڑھتے ہوں گے جیسے روایت صحبوہ یہیں بکھیرتے چلے جاتے ہیں (یعنی) ان کے ایسے معنی و مراد لغزیں گے جو وہ حقیقت ان کے معنی و مراد نہیں۔“

ابن حجر یہ نسبت اور ابو یعلی نسبت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جیسا کہ تفسیر ”القان“ کی ”نوع شما عین“، (قسم اسی) میں مذکور ہے، نیز ابن کثیر نسبت نے ج: ج ۲ ص: ۲۰۳ پر بیان کیا ہے۔

**قرآن حکیم سے ثبوت:** فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں فرماتا ہے:

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ الْسِّنَتَهُمْ بِالْكِتَبِ لَتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ (آل عمران: ۷۸)

ترجمہ: ..... ”اور بے شک ان (اہل کتاب) میں ایک گروہ ایسا ہے جو زبانیں پھیر پھیر کر آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں، (یعنی آسمانی کتاب میں تحریفیں کر کے پڑھتے ہیں) تاکہ تم اس کو کتاب اللہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے (نازل شدہ) کلام الہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے (نازل شدہ) نہیں ہے، وہ (جان بوجہ کر) اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں (کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں)۔“

مذکورہ بالا احادیث و آیات سے مستنبط نتیجہ: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”مستوی ”(شرح منوطا) کے گزشتہ بیان کے مطابق جن محمد شین نے ان خوارج کی تکفیر کی ہے، اس طریق پر ان احادیث سے:

۱:..... اس تکفیر کی وجہ واضح اور ثابت ہوگی (کہ حضرت محمد شین نے ان کی تکفیر کیوں کی ہے) علامہ سندھی نے بھی ”سنن نسائی“ کے حاشیہ میں ان کی تکفیر کو محمد شین کا مسلک بتایا ہے، اور یہی قومی مسلک ہے۔ شیخ ابن ہمام نے بھی ”فتح القدر“ میں محمد شین کا یہی مسلک بیان کیا ہے۔

۲:..... نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دین کے امور قطعیہ و یقینیہ کا صریح انکار اور ان میں تاویل کرنا، دونوں میں کچھ فرق نہیں، (جیسے صریح انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی تاویل کرنے والا بھی کافر ہے)

۳:..... نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو باوقات پڑھنی نہیں چلتا اور وہ (کفر یہ عقیدہ یا قول فعل کی وجہ سے) کافر ہو جاتا ہے، (یعنی تکفیر کے لئے لزوم کفر کافی ہے، التزام کفر ضروری نہیں، بالفاظ دیگر کسی شخص کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ میں ایسا کہنے یا کرنے سے کافر ہو جاؤں گا، بلکہ محض کسی کفر یہ قول یا فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے)

روزہ، نماز کی پابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان کفر یہ عقائد و اعمال کی بنابر کافر ہو جاتا ہے:..... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس کے ثبوت کے لئے اسی حدیث شریف کے مذکورہ ذیل الفاظ دیکھئے، حضور ﷺ فرماتے ہیں:

”يحرِّ أَحَدُكُمْ صَلَانَهُ وَصِيَامَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ، وَاعْمَالَهُ مَعَ اعْمَالِهِمْ“

ولیست قراءتہ الی قراءتہم شیئا۔“

ترجمہ:..... ”ان کی نماز، روزے کے مقابلہ میں تم اپنی نماز، روزہ کو حقیر محسوس کرو گے، اور ان کی دینداری کے سامنے تم کو اپنی دینداری حقیر نظر آتے گی، اور ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہاری تلاوت بیچ ہو گی، (مگر اس کے باوجود وہ دین اسلام سے خارج اور کافر ہوں گے)“

فرماتے ہیں: (مسلمانو!) اس انبوث سے نکلے ہوئے ان مقدس کلمات حق کو تکفیر کے مسئلہ میں اصل اصول بنالو! اس لئے کہ یہ کلمات قرآن کے الفاظ کی طرح کافی و شافی اور نص قطعی ہیں (اور یقین کرو کہ کفر یہ عقائد اور اقوال و اعمال کے ارتکاب کے بعد مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی دیندار اور روزہ، نماز کا پابند ہو)

مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متكلّمین کے اختلاف کی حقیقت فرماتے ہیں: باقی رہا مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متكلّمین کا اختلاف تو (اس سے ہرگز دھوکے میں مت پڑنا) یہ صرف مسلمان گمراہ فرقوں سے متعلق ہے، (کفار و مرتدین کے بارے میں مطلق کوئی اختلاف نہیں، ضروریاتِ دین کا منکر یا ان میں تاویل کرنے والا تمام امت کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے) اور یہ اختلاف بھی صرف ان اسلامی فرقوں کے اپنی گمراہی میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے یا نہ کرنے پر مبنی ہے، (جو مسلمان گمراہ فرقے اپنے فاسد عقائد و اعمال میں غالی ہیں کہ اپنے مخالف تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتے ہیں، ان کو کافر کہا گیا ہے، اور جو غالی نہیں ہیں، ان کو کافر کہنے سے احتراض کیا گیا ہے) اور یا یہ اختلاف ارباب تصانیف کے اختلاف حالات پر مبنی ہے، چنانچہ جس مصنف کا جس گمراہ فرقہ سے سابقہ پڑا، اور اسے ان کی گمراہی کی تک پہنچنے کا موقع ملا، اور ان کے فاسد عقائد و اعمال سے دین کو نقصان پہنچنے کا سے علم و یقین ہوا، اس نے ان کے بارے میں شدت اختیار کی اور ایسی شدید تردید کی کہ وہ جیسا اڑا دیں اور نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا، (یعنی دین اسلام سے بالکل خارج اور کافر ہنا دیا)، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نہیں پڑا اور گمراہی کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع نہ ملا، اس نے ازروئے احتیاط، مسلمان اور اہل قبلہ سمجھ کر بر بنا اصل کافر کہنے سے احتراز کیا۔

مشہور مقولہ: ”اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے“ کی حقیقت فرماتے ہیں: اور یہی حقیقت اس مشہور و معروف قول کی ہے کہ: ”اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے“، یعنی مسلمان گمراہ فرقوں کے متعلق اصول تو یہی ہے کہ ان کی تکفیر سے احتراز کیا جائے، لیکن اگر کوئی گمراہ فرقہ اپنے مخصوص حالات اور حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر دین کے لئے ضرر سال بن رہا ہے (تو یقیناً اس کو کافر کہا جائے گا اور مسلمانوں کی گمراہی سے بچایا جائے گا)

مصنف نور اللہ مرقدہ کی اس رسالہ کا تصنیف سے مقصد اور اس کی وضاحت: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ہم نے بھی اس رسالہ میں جہاں تک ممکن ہوا احتیاط سے کام لیا ہے، مگر یہ واضح ہونا چاہئے کہ احتیاط کی بھی ایک حد ہے (اس حد سے تجاوز کرنا خود بے احتیاط ہے) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلہ میں صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر احتیاط بر تتا ہے، مگر دوسرے پہلو سے وہ خود بے احتیاط میں بنتا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، ہم نے اس رسالہ میں صرف اللہ کے اس دین (کے اصول) کا اعلان کیا ہے، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم مکلف ہیں، اور ہر پہلو سے احتیاط کا جو حق تھا، اس کو ادا کیا ہے، (یعنی جس طرح کسی کلمہ کو کافر کہنے سے احتیاط

برتنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین اور اصول دین کی حفاظت و صیانت میں بھی انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کلمہ گو کو کفر سے بچانے کی کوشش میں ہم دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچا بیٹھیں کہ یہ کھلی ہوئی مذاہمت اور اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہے، ہماری نیت بالکل پاک و صاف ہے) جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اور وہی ہر حال میں حمد و شکر کے سزاوار ہیں۔

دین کے محافظ علماء حق کا فریضہ:.... فرماتے ہیں: اسی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے، جس کو یہیقی رحمہ اللہ نے ”دخل“ میں روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مَنْ كَلَ خَلْفَ عَدُولِهِ يَنْفَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِينَ وَ اِنْتَهَى

الْمُبْطَلِينَ وَ تَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ .” (مشکوٰۃ بحوالہ المدخل للہبّقی ج ۱ ص ۳۶)

ترجمہ:..... ”میری امت میں ہر آنے والی نسل میں ایک ایسی ثقہ جماعت موجود ہے گی جو اس دین کی حامل و محافظ ہوگی، حد سے تجاوز کرنے والے گمراہوں کی تحریفوں کی تردید کرے گی، اور باطل پرستوں کی دست برداشتے دین کو بچائے گی، اور جاہلوں کی تاویلوں کی بخ کرنے کرے گی۔“

فرماتے ہیں: یہ مشکوٰۃ رسالت اور انسان نبوت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، (جو ہماری حق پرستی، راست گوئی اور ویانت داری کی ضمانت ہیں، اس لئے کہ ہم نے وہی فریضہ ادا کیا ہے ① جس کی پیش گوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے۔ اور بس) ہمارے لئے تو اللہ کافی و وافی ہے، اور وہی بہترین کار ساز ہے۔



① (۱) اردو ترجمہ اور اس کی تشریف اشاعت کا مقصد واضح رہے کہ اس زمان میں بھی اصول و شرائع دین میں نت نت تاویلوں اور تحریفیں کر کے دین کو خاکم بدھن۔ مسخر و تباہ کرنے کی تاپک کوشش پوری قوت کے ساتھ کی جا رہی ہے اور وہ ”پڑھے لکھ جاہل“ جنہیں اسیں اور دینداری سے دور کا بھی واسطہ نہیں، دین کی تعبیر کو اپنے باطن میں لے کر اسلام کو ”دین“ کا نام لے کر مٹانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور تحریر و تقریر کے ذریعہ عقائد و احکام شرعیہ میں آئے دن نئی سے نئی تاویلوں اور تحریفیں کی جا رہی ہیں، محمرات قطعیہ کو حلال کرنے اور ارکان دین کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اموراً حکمراں طبق بھی چونکہ خود دین سے بے خبر ہے، اس لئے اس کی طرف سے ان پر کوئی پابندی اور سختی نہیں، ہند اصراف مذکورۃ الصدر حدیث شریف کے عائد کردہ فریضہ کو ادا کرنے اور دین کو اس تو بخ تاویلوں اور تحریفوں سے بچانے کے لئے اس رسالہ کا اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے، تاکہ علماء المسلمين اس زمان کے مددوں اور باطل پرستوں کی فریب کاریوں سے واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو مقبول اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ظاہر فرمائیں اور دین کو اس زمان کے فتوؤں سے محفوظ رکھیں۔ آمین! از مرجم۔

## کبار علماء کی تصانیف میں سے اہم ترین اقتباسات

کفر یہ عقائد اور اقوال و افعال پر سکوت جائز نہیں: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ: "فیصل التفرق"

"اس قسم کے کفر یہ اقوال اگر دین کے اساسی عقائد و اصول سے متعلق ہوں تو جو شخص بغیر کسی قطعی دلیل کے ان آیات و حدیث کے ظاہری معنی میں تغیر و تبدل کرے اس کا فرقہ اردو بینا فرض ہے، مثلاً: جو شخص جسمانی حیات بعد الموت (مر کر دوبارہ جسمانی طور زندہ ہونے) کا انکار کرے، محض اپنے اوہام و خیالات اور ناقص فہم سے دور ہونے (اور سمجھنے میں نہ آنے) کی وجہ سے اور آخرت میں جسمانی عذاب کا منکر ہو اس کو کافر کہنا یقیناً فرض ہے۔"

اسی "فیصل التفرق" میں ص: ۱۶ پر فرماتے ہیں:

"ہر وہ شرعی عقیدہ یا حکم جو تو اتر سے ثابت ہو، اور اس میں کسی تاویل کی مطلق گنجائش نہ ہو، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی دلیل کے پائے جانے کا امکان ہو، اس کی مخالفت دین کی کھلی ہوئی تکذیب ہے (اور مخالفت کرنے والا قطعی کافر ہے)۔"

اسی کتاب کے ص: ۷ پر فرماتے ہیں:

"ایک اور اصول پر متنبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حق کی مخالفت کرنے والا کسی نص قطعی کی مخالفت کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں (منکر نہیں ہوں) مسوول ہوں، مگر تاویل ایسی کرتا ہے جسے عربی زبان سے کوئی لگاؤ نہیں، نہ دوڑ کا، نہ پاس کا، یہ مخالفت قطعاً کافر ہے، اور مخالفت کرنے والا جھوٹا اور کافر ہے، اگرچہ وہ خود کو مسوول کہتا رہے۔"

رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کا حکم: مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: ہم حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "الصارم المسلط علی شا تم الرسول" کے چند اہم اقتباسات اس مسئلہ پر پیش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی عیب چیزیں اور ان کی تنقیص و توہین سراسر کافر، بلکہ سب سے بڑا کافر ہے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں اس مسئلہ کو پورے استیعاب کے ساتھ بیان کیا ہے اور کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے ماخوذ دلائل و برائیں سے کتاب کو بھردیا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ کو تو اختیار تھا کہ چاہے سب و شتم

کرنے والے کو قتل کر دیں، چنانچہ عہد نبوی میں دونوں قسم کے واقعات پائے گئے ہیں، لیکن امت پر شامِ رسول کو قتل کرنا فرض ہے، باقی اس سے توبہ کرانے یا نہ کرانے، اور دنیوی احکامات کے اعتبار سے اس کی توبہ کے معابر و مقبول ہونے یا نہ ہونے میں بے شک علماء امت کا اختلاف ہے (لیکن اس کے کافر ہو جانے میں کوئی اختلاف نہیں، یہی پوری کتاب کا حاصل ہے) چنانچہ ”الصادر المسلط“ میں ص: ۱۹۵-۳۱۸ پر فرماتے ہیں:

”حرب نے“ مسائل حرب“ میں لیث بن ابی سلیم کے واسطے سے حضرت مجاہد بن جبیرؓ کی روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے ایک شخص کو لا یا گیا، جس نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں سب و شتم کیا تھا، حضرت عمرؓ نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا انبیاء علیهم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کرے، اس کو قتل کر دو۔ لیث بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ مجاہد بن جبیرؓ نے مجھ سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت بھی نقل کی کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: جس کسی مسلمان نے انبیاء علیهم السلام میں کسی بھی نبی پر یا اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کیا، اس نے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی، اور اس کا یہ فعل ارتدا ہے، اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اگر توبہ کر لی تو فہما، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جس کسی غیر مسلم معاذ (ذمی) نے اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کیا، یا اعلانیہ کوئی گستاخی کی، اس نے (اپنی اس حرکت سے) (جان و مال کی سلامتی کے) عہد کو توڑ دیا، لہذا اس کو قتل کرو۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس حدیث کے ابتدائی حصہ کو تو ”کنز العمال“ میں ج: ۶ ص: ۲۹۳ پر امامی ابو الحسن بن رملہ اصحابی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح بتلا یا ہے، اور وہ سرے حصہ کو ص: ۲۳۹ پر اس شخص کے حق میں قرار دیا ہے جو کسی خاص نبی کی نبوت کی تکذیب کرے، اور اس بناء پر سب و شتم کرے کہ وہ نبی نہیں ہے، چنانچہ ”کیکھو“ فقد کذب رسول اللہ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ مصنفؓ فرماتے ہیں: غالباً (اس ذمی کے) اس لفظ کا مطلب ہے کہ ”وہ نبی نہیں ہے“، یہ ہے کہ ”وہ ہمارا نبی نہیں ہے، اس کو ہماری بُدایت کے لئے نہیں بھیجا گیا۔“

اسی ”الصادر المسلط علی شامِ الرسول“ میں ص: ۲۸۳ پر حافظ ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں:

”(شامِ رسول کے کفر و ارادو کی) چٹھی دلیل، صحابہؓ کے اقوال اور فیصلے ہیں، یا اقوال شامِ رسول کے قتل کے متعدد ہونے کے بارے میں نص قطعی ہیں، مثلاً حضرت عمر فاروقؓ کا فرمان کہ:“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا انبیاء علیهم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کرے

اس کو قتل کر ڈالو۔“ حضرت عمر فاروق بن شیخ نے (اس قول میں) اس کے قتل کو معین کر دیا۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ: ”جس غیر مسلم معاً ہد (ذمی) نے عناد اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا انبیاء، علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم، یا اعلانیہ گستاخی کی، اس نے خود عبد (امان) کو توز دیا، لہذا اس کو قتل کر دو۔“ تو دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہر اس شخص کو قتل کر دینے کا فتویٰ معین طور پر دے دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب و شتم کرے، یا مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان جوانہوں نے مہاجر کو اس عورت کے بارے میں لکھا تھا جس نے حضور ﷺ کی شان میں سب و شتم کیا تھا کہ: ”اگر تم خود پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو میں تم کو اس عورت کے قتل کر دینے کا حکم دیتا، اس لئے کہ انبیاء، علیہم السلام کی (شان میں گستاخی کرنے والے کی) سزا عام سزاوں کی مانند نہیں ہوتی، لہذا جو مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے وہ مرتد ہے، اور جو غیر مسلم معابد (ذمی) اس جرم کا ارتکاب کرے وہ عہد شکن اور محارب ہے (اس کی جان و مال دونوں مبارج ہیں)۔“

مصنف رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ میں فرماتے ہیں: ”زاد المعاو“ میں فتح مکہ کے احکام میں، اور رسول اللہ کے فرماں میں بھی بھی حکم مذکور ہے۔

حافظ موصوف علیہ الرحمۃ ص: ۲۳۳ پر فرماتے ہیں:

”پس معلوم ہوا کہ انبیاء، علیہم السلام کی شان میں سب و شتم اور گستاخی تمام تر کفریات کا سرچشمہ اور تمام گمراہیوں کا منع ہے، جیسا کہ انبیاء، علیہم السلام پر ایمان و تصدیق دین و ایمان کی تمام تر شاخوں کی جڑ، بُنیا دا ور تما متر مسائل ہدایت کا منع ہے۔“

کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گالیوں اور گستاخیوں کے نقل کرنے کا حکم:..... حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شامِ رسول کبھی سب و شتم کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ (خود گالیاں دینے کے بجائے) دوسرے شخص کی دی ہوئی گالیوں کو قتل کرتا ہے، اور یہ مخف ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا بچاؤ بھی کر لیتا ہے، اور سب و شتم کا خوب پروپیگنڈا اور اشاعت بھی کر لیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، یہ دراصل چھپا ہوا کفر ہے، جو چھپا نہیں رہتا، بلکہ اس کی سبقت انسانی اور قلبی زہرا فشانیوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے دل میں گھر کئے ہوئے روگ اور درینہ مرض (کفر و نفاق) کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کے دل و جگہ اور سینہ و شکم سب کو تباہ کر ڈالتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”الصارم المسلط“ میں ص: ۲۲۵ پر فرماتے ہیں

”احادیث رسول اللہ ﷺ کے تمعن سے اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، مثلاً بہر بن

حکیم عن ابیه عن جده والی مشہور و معروف روایت، جس میں مردی ہے کہ اس کا بھائی (جو کافر تھا) حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ”میرے پڑوئی کس جرم کی پاداش میں پکڑے گئے ہیں؟“ (اس گستاخانہ انداز بیان کو دیکھ کر) حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، تو اس پر کہتا ہے: ”لوگ کہتے ہیں تم اوروں کو تو گمراہی و کجراءہی سے منع کرتے ہو، اور خود اس کجراءہی (اور ظلم) کو اختیار کرتے ہو۔“ تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں ایسا کرنا ہوں گا تو اس کا خیازہ خود مجھے بھلکتا پڑے گا، لوگوں کو نہیں۔“ اور صحابہ سے فرمایا کہ: ”اس کے پڑوئیوں کو ربا کرو۔“ ابو داؤد نے بندیح اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو دیکھنے کے باظاً ہر تو یہ شخص لوگوں کی جانب سے اس بہتان کو قتل کرتا ہے، مگر در حقیقت اس کا مقصد خود آپ ﷺ کی توہین کرنا، ان الفاظ سے حضور ﷺ کی ول آزاری کرنا اور ایسا پہنچانا ہے، (نہ کہ کہنے والوں کی بہتان تراشی کی خبر دینا یا تردید کرنا) غرض کسی کو گالیاں دینے کا یہ بھی ایک ڈھنگ ہے (عربی میں اس کو ”تعریض“ کہتے ہیں، یعنی دوسروں پر رکھ کر بات کہنا)۔“

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”مندادحمد“ کی ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، (جو اور پر قتل کئے گئے)، دوسری روایت کے الفاظ یہی ہیں،

”انك تنهى عن الشر وتستخلصي به۔“

ترجمہ: .... آپ ﷺ دوسروں کو تو شر و فساد سے روکتے ہیں اور خود شر و فساد کو اختیار کرتے ہیں، (یعنی ”غی“ کے بجائے ”شر“ کا نظر ہے)۔“

”کنز الاعمال“ میں ج: ۳۶ ص: ۳۶ پر (من عب) بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے، ”الصارم المسلط“ میں ص: ۷۵ پر حافظہ ابن تیمیہ نہیں فرماتے ہیں:

”ہمارے مشائخ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کی شان میں ابطور تعزیض سب و شتم کرنا بھی کفر و ارتداد ہے، اور اس کی سزا بھی قتل ہے (جیسے صراحت سب و شتم رسول کی سزا قتل ہے)۔“

مصنف فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نہیں نے دلائل و برائیں سے اس کو ثابت کیا ہے، اور تعزیض کی متعدد مشائیں بھی بیان کی ہیں، اور ایسے شخص کے ارتداد (قتل) پر انہوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

نیز ص ۵۵۹ پر فرماتے ہیں:

”اس سے قبل ہم امام محمدؐ کی تصریح نقل کر چکے ہیں کہ جو شخص رب العالمین کی شان میں ابطور تعزیض بھی کسی برائی کا ذکر کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر (کے باشد) اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا یا اس کے دین کا، یا رسول کا، یا کتاب کا برائی کے ساتھ مذکورہ کرے گا، خواہ صراحت ہو، خواہ کنایتہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے (کہ اس کو کافر

و مرتد قرار دیا جائے گا) یہی حکم ”تعریض“ کا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول متعدد مقامات پر نقل کیا ہے (ص: ۵۲۷، ۵۳۶، ۵۵۰، ۵۵۳ اور ۵۵۳ پر)، جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہر سب و شتم، خواہ صراحتہ ہو، یا کنایتہ، موجب کفر و قتل ہے، اخ.

اسی مسئلہ سے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”فتح الباری“ میں ج: ۱۲، ص: ۲۸۳ پر فرماتے ہیں:

”خطابی“ کہتے ہیں: اگر کسی شخص نے تعریضاً بھی کوئی گستاخی (اللہ تعالیٰ کی یا اس کے کسی نبی کی شان میں) کی، تو میرے علم میں ایسے شخص کے قتل کے واجب ہونے میں علماء کے اندر مطلق اختلاف نہیں، جبکہ وہ مسلمان ہو۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ”شفاء“ میں فرماتے ہیں:

”ابن عتاب کا قول ہے کہ: قرآن و حدیث کی نصوص واجب قرار دیتی ہیں کہ جو شخص حضور ﷺ کو ذرا بھی اذیت پہنچانے کا، یا ذرا بھی آپ ﷺ کی توہین و تذلیل کاقصد کرے، صراحتہ ہو یا کنایتہ، اس کو قتل کر دینا فرض ہے۔“

اسی ”شفاء“ اور اس کی شرح ”شیم الریاض، للخناجی“ میں ص: ۲۵۹ پر لکھا ہے:

”اگر دوسروں کی طرف سے سب و شتم کرنے والے پر یہ اتزام ثابت ہو جائے کہ:

۱..... یہ گالیاں خود اسی شخص کی ساختہ پرداختہ ہیں، اور (سرما سے بچنے کے لئے اس نے) دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

۲..... یا یہ اس شخص کی عادت ہو کہ وہ بکثرت ایسی گستاخانہ باتیں کہتا خود ہو، اور دعویٰ کرتا ہو کہ: ”میں دوسروں کا قول نقل کرتا ہوں۔“

۳..... یا ان گستاخانہ ہرزہ سرائیوں کے وقت اس کی حالت سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسے یہ با تیں اچھی لگتی ہیں، اور یہ اس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔

۴..... یا وہ اس قسم کی توہین و تذلیل کا دلدادہ و فریفہ ہو، اور اس کو معمولی بات سمجھتا ہو، اور ممنوع نہ جانتا ہو۔

۵..... یا وہ اس جیسی گستاخانہ باتوں کو خاص طور پر یاد کرتا ہو (اور یہ اس کا محبوب مشغله ہو)۔

۶..... یا وہ ایسی باتوں کی تلاش و جستجو میں رہتا ہو اور رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہے ہوئے ”ہجویہ“، اشعار اور سب و شتم کے قصہ عموماً روایت کیا کرتا ہو۔

تو ان تمام صورتوں میں اس نقل کرنے والے کا وہی حکم ہے جو خود ہجو اور سب و شتم کرنے والے کا

ہے کہ اس پر موافقہ کیا جائے گا، اور (جو اس جرم کی سزا ہے، وہ دی جائے گی) اور دوسروں کی طرف منسوب کرنا اس کے لئے مفید نہ ہو گا، اور جلد از جلد اس کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔“

اسی ”شفاء“ اور اس کی شرح میں ج: ص ۳۵۹ پر قاضی عیاض بیہدہ فرماتے ہیں:

فصل! چھٹی صورت (سب و شتم رسول کی) یہ ہے کہ وہ (سب و شتم) کرنے والا ان گستاخانے باتوں کو دوسروں سے نقل کرے اور ان کی جانب منسوب کرے تو اس شخص کے انداز نقل اور گفتگو کے قرآن کو دیکھا جائے گا، اور ان کے اعتبار سے حکم ہو گا (یعنی اگر قرآن سے ثابت ہو کہ دوسروں کا نام لینا محض اپنے بچاؤ کے لئے ہے، یا اس کو خود اس میں مزا آتا ہے، یا یہ اس کا محبوب مشغله ہے، تو اس کو سب و شتم کا مجرم قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، اور اگر قرآن و تحقیق سے ثابت ہو کہ واقعی یہ دوسروں کا بیان ہے، اور یہ شخص محض ناپسندیدگی کی وجہ سے نقل کر رہا ہے تو قتل نہ کیا جائے گا، بلکہ کسی اور مناسب سزا یا تنبیہ پر اکتفاء کیا جائے گا)۔“

اسی شفاء میں لکھا ہے:

”مجمع علیہ امور کو بیان کرنے والے مصنفوں میں سے بعض نے رسول اللہ ﷺ کی بحوث میں کہے ہوئے اشعار کے روایت کرنے، لکھنے، پڑھنے، یا جہاں وہ اشعار میں ان کو بغیر مٹائے چھوڑ دینے کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا جماعت نقل کیا ہے۔“

نیز لکھتے ہیں:

”ابوعبدیہ قاسم بن سلام بیہدہ نے کہا ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ کی بحوث میں کہے ہوئے اشعار کا ایک مضرع بھی پڑھنا یا یاد کرنا کفر ہے۔“ نیز قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بستی کا نام لینے کے بجائے جس کی بحوث میں اشعار کہنے گئے ہیں، اس کا ہم وزن کوئی اسم بطور کنایہ ذکر کیا ہے، (یعنی حضور ﷺ کی ذات گرامی کے علاوہ بھی کسی آپ کے ہم نام شخص کے حق میں کہے ہوئے بھجو یہ اشعار کو اس کا نام لے کر ذکر نہیں کیا، بلکہ نام کی جگہ کوئی اور ہم وزن اسم رکھ لیا ہے)۔“

مرزا قادریانی علیہ ماعلیہ کی حضرت علیہ السلام کی جانب میں کی ہوئی پرفریب تو ہیں وہ لیل اور گستاخیاں... حضرت مصطفیٰ فرماتے ہیں:

”یعنی قادریانی جہاں کہیں اس کی تحریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ عصہ میں آگ بگولہ اور آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اور ان کی ذات گرامی پر طرح طرح سے طعن و تشنج، عیب چینی و عیب جوئی میں اس کا قلم بالکل بے لگام ہو جاتا ہے، اور دل کھول کر ان کو گالیاں دیتا (اور اپنے دل کی

بھڑاس نکالتا ہے) اور ان کی بھجو اور توہین و تذلیل میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، اور پھر پوری طرح دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اپنے بچاؤ کے لئے کوئی بلکا ساکلمہ جو محسوس بھی نہ ہو، کہہ جاتا ہے، مثلاً: ”عیسائیوں کے بیان کے مطابق“، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام توہین و تذلیل میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود عیسائی یہ کہتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے) حالانکہ سلسہ بیان میں اپنی طرف سے مثال یہ کہہ کر کہ: ”حق یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح سے کوئی معجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا، انہیں تو صرف مسخر یہ م آتا تھا“، یا یہ کہ: ”عیسیٰ اکی بدشمتی سے وہاں ایک حوض تھا، جس سے لوگ پانی لاتے تھے، (گویا اس حوض نے ان کے معجزہ کی پول کھول دی)“، اس تمام ہرزہ سرائی کی تصدیق و تائید کر دیتا ہے اور اس پر ”والحق ان عیسیٰ لم یصدر عنہ معجزة“، کہہ کر اپنی مہر تصدیق ثابت کر دیتا ہے کہ میری بھی تحقیق یہی ہے۔ اس دسیسے کاری کے باوجود اس مردوں کے پیروں کہتے ہیں کہ: ”مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے، انہوں نے تو عیسائیوں کی تردید اور ان پر الزام عائد کرنے کے لئے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اور انہیں کی کتابوں سے نقل کیا ہے“، (اور نقل کفر کفر نباشد) حالانکہ دوسرے علمائے حق عیسائیت کی تردید میں بحث کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ: ”عیسائیوں کی تمام آسمانی کتابیں محرف ہیں، اس لئے کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو عصمت نبوت کے منافی اور قطعاً غلط ہیں۔“ اس کے برعکس یہ بے دین بدجنت بحث کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناکامی و نا مرادی سے شروع کرتا ہے، اور خوب بڑھا چڑھا کر اس کی اشاعت اور پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس میں اپنا تمام زور قلم صرف کر دیتا ہے، یہی فریب کاری کا مرض اس کے مردوں پیروں میں سراہیت کر گیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھجو میں مستقل کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور ان کو عیسائیوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں خوب خوب شائع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے نزول کا اشتیاق و انتظار، مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے اور وہ اسی گستاخ، دردیدہ وہمن مردوں کو (خدا سے وجہاں میں رسو اکرے) عیسیٰ مان لیں، حالانکہ علمائے حق اس پر متفق ہیں (جیسا کہ مذکورہ بالا اقتباسات سے واضح ہے) کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی شان میں گستاخ و بے با کی اگرچہ سب و شتم اور توہین و تذلیل کی نسبت سے نہ بھی ہو، تب بھی کفر وارد ہاوے، اور مومن کی شان سے قطعاً بعید ہے۔ **والله يقول الحق وهو يهدى السبيل!**

(اللہ تعالیٰ ہی حق فرماتے ہیں اور وہی را حق پر چلاتے ہیں)



## قصیدہ

از حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ

### داد و بیدار ①

الا يا عباد اللہ قوموا و قوموا

خطو بالمت ما لھن یدا ن

ترجمہ: ..... ”سنوا! اے خدا کے بندوں کھڑے ہو جاؤ اور ان فتنوں کا مقابلہ کرو جو دین پر چھا گئے ہیں، اور عامد مترس سے باہر ہیں۔“ ②

و قد کا د ینقض الھدی و منارہ

وز حزح خیر ما لذاک تدا ن

ترجمہ: ..... ”اور قریب ہے کہ (ان فتنوں کے حملوں سے) قصر ہدایت اور اس کی روشنی کا منارہ منہدم ہو جائے، اور خیر (وصلح) کی بنیادیں بل جائیں، جس کا پھر کوئی تدارک بھی نہ ہو۔“

یسب رسول من اولی العزم فيکم

فَكَا دالسما ③ والارض تنطران

ترجمہ: ..... ایک جلیل القدر نبی (عیسیٰ علیہ السلام) کو تمہارے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں (اور تم اس سے مس نہیں ہوتے) قریب ہے کہ (قہر الہی سے) آسمان و زمین پھٹ پڑیں۔“

وطهره من اهل کفر ولیه

وابقی لنار بعض کفر امانی

ترجمہ: ..... حالانکہ اس نبی کے مولیٰ جل شانہ نے اس کو (ذمتوں اور منکروں کے اتهامات سے) پاک کر دیا ہے، اور صرف ہوا پرستوں کی آرزوؤں کا کفر، جہنم کے لئے چھوڑ دیا ہے (کہ وہ نبی اور مسیح موعود بننے کی ہوں کی بدولت میں جہنم رسید ہوں۔“

وحا رب رب قوم ربهم ونبيه

فقوموا لنصر اللہ اذ هو دان

ترجمہ: ..... اور (تم میں کی ہی) ایک قوم (مرزا یوں) نے اپنے رب اور اس کے نبی سے جنگ

① امام اعصر حضرت مصنف نبیتی اس قصیدے کا نام ”صدع النقاب عن جساسة الفنجاب“ رکھا ہے۔

② لغت میں ”حزح“ لازمی بھی منقول ہے۔ ③ قاموں میں ”سما“ بغیرہ بجزء کو اسم جنس بتایا گیا ہے۔

چھیڑ کھی ہے، پس (اے خدا پرستو!) تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے (صرف تمہارے کھڑے ہونے کی دیر ہے)۔“

**وقد عیل صبری فی انتها ک حدودہ**

**فهل ثم داع مجیب اذانی**

ترجمہ: ..... ”حدود اللہ کی بے حرمتی ہوتے دیکھ کر صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، پس اے قوم (ہے تم) میں کوئی حمایت دین کے لئے دعوت دینے والا، یا میری دعوت پر بلیک کہنے والا؟“

**واذ عز خطب جئت مستصر خابکم**

**فهل ثم غوث یا لقوم یدانی**

ترجمہ: ..... ”جب مصیبت انہا کو پہنچ چکی تب میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، پس اے میری قوم! ہے تم میں کوئی فریادرس جو میرے قریب آئے (اور ساتھ دے)۔“

**لعمزی لقد نبهت من کان نا ئما**

**واسمعت من کانت له اذنان**

ترجمہ: ..... ”قسم ہے زندگی کی بخدا میں سوتے ہوؤں کو جگار ہا ہوں، اور جن کے کان ہیں ان کو یہ ” درد بھری داستان“ سنار ہا ہوں۔“

**ونا دیت قوما فی فریضة ربهم**

**فهل من نصیر لی من اهل زمان**

ترجمہ: ..... ”اور میں نے ایک (بے خبر) قوم کوان کے رب کا (عامد کردہ) فرض یاد دلانے کے لئے پکارا ہے، پس کیا اس زمانہ کے لوگوں میں میرا کوئی مددگار ہے؟“

**دعوا کل امر واستقیمو الما دھی**

**وقد عا د فرض العین عند عیان**

ترجمہ: ..... ”ہر کام چھوڑ دا اور جو مصیبت کا پیار ٹوٹا ہے اس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ، اس لئے کہ اس فتنہ کا مقابلہ ابل بصیرت کے نزدیک فرض یہاں ہو گیا ہے۔“

**فشا نئی شان الانبیاء مکفر**

**امن شک قل هذا لاول ثان**

ترجمہ: ..... ”اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا قطعاً کافر ہے، اور وہ جو اس میں شک کرے وہ اس پہلے کافر کا بھائی دوسرا کافر ہے (یعنی وہ بھی کافر ہے)۔“

**ولیس مدا را فيه تبدیل ملة**

**وتحبط اعمال البذی مجا نی**

ترجمہ: ..... ”اس تکفیر کا مدار تبدیل مذہب کے ارادے پر نہیں ہے، اس لئے کہ (انبیاء علیہم السلام میں سے) ایک کو گالیاں دینے والے کے تمام اعمال و افعال کو اس کفریہ بکواس (گالیاں) باطل کر دیتی ہے۔“

افی ذکرہ عیسیٰ یطیش لسا نہ

ولا یصر المرمى من الخیما ن

ترجمہ: ..... ”کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہی اس کی زبان (بے لگام اور) آپ سے باہر ہو جاتی ہے (اور ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ نشان تیر (هدف) اور اپنے موقع میں تیز نہیں کر سکتا) (اور جادہ بے جا طعن و شنیع کے تیر چلانا اور پھر بر سانا شروع کر دیتا ہے، چاہے ان کا نشانہ خود ہی بن جائے)۔“

واکفر منه من تبا کا ذبا

وکا ن انتهت ما امکنت بمکا ن

ترجمہ: ..... ”اس (شاتم رسول) سے بھی بڑھ کر کافروں جھونٹا ہے جو (خود کو نبی کہتا اور) نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ نبوت اپنے مقام پر پہنچ کر (یعنی خاتم الانبیاء علیہ السلام پر) ختم ہو چکی ہے۔“

ومن ذب عنه او تا ول قوله

یکفر قطعاً ليس فيه توا نی

ترجمہ: ..... ”اور جو کوئی اس (مدعی نبوت) کی طرفداری کرے، یا اس کے قول (دعویٰ) کی کوئی تا دیل کرے، وہ بھی قطعاً کافر ہے، اس (حکم) میں کوئی توقف یا تردید نہیں (کیا جا سکتا)۔“

کانی بكم قد قلتموا لم کفره

فها کم نقولا جلیت لمعا ن

ترجمہ: ..... گویا تم (بزبان حال میرا گریبان پکڑ کر) مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کافر کیوں ہے؟ لو میں تمہارے سامنے ایسے اقوال (دلائل) پیش کرتا ہوں جو آنکھوں والوں کے لئے روشن کی طرح واضح ہیں۔“

فما قو لكم فیمن حمامثل ذ لکم

مسلمة الکذاب اهل هوا ن

ترجمہ: ..... (اگر تم اس کی ایسے ہی حمایت پر تلتے ہوئے ہو) تو تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو رسوائے زمانہ مسلمہ کذاب کے حق میں اسی طرح کی حمایت (اور تا ویلیں) کرے، جیسی کہ اس کے حق میں کرتے ہو۔“

فقا ل له التا ویل او قال لم يكن

نبیا هو المهدی ليس بجا ن

ترجمہ: ..... چناچ کہے کہ مسلمیہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی تاویل (ہو سکتی) ہے۔ یا کہے کہ مسلمیہ نبی تو نہیں، وہ تو مہدی تھا (اس لئے) وہ مجرم اور (دعویٰ نبوت کا مرتكب) نہیں ہے)۔“

وَهُلْ ثُمَّ فِرْقَ يَسْتَطِعُ مَكَا بُرْ

وَحِيثَ اَدْعَى فَلِيَاتْنَا بِبَيَانِ

ترجمہ: ..... ”اور کیا کوئی زبردستی کرنے والا منہ زور ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فرق کا دعویٰ کرے تو ہمارے سامنے ثبوت پیش کرے۔“

وَكَانَ عَلَى اَحَدًا ثَهَ وَجْهَ كَفَرَهُ

تَبَيَّأَ مَشْهُورٌ كُلُّ مَكَانٍ

ترجمہ: ..... ”حالانکہ ہر زمانہ میں مسلمیہ کذاب کی تکفیر کا موجب (متفرق طور پر) اس کا دعویٰ نبوت ہی مشہور و معروف رہا ہے، باوجود یہ مسلمیہ میں اور بہت سی مفتریات بھی موجود تھے۔“

كَذَا فِي اَحَادِيثِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ

تَوَاتِرَ فِيمَا دَانَهُ الثَّقَلَانِ

ترجمہ: ..... نبی ﷺ کی احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے (کہ مسلمیہ کے کفر کا موجب نبوت کا دعویٰ ہے) آپ ﷺ (کی وفات) کے بعد اس تواتر سے بھی یہی ثابت ہے جس کو جن والنس حجت مانتے ہیں۔“

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْقَدْ وَحْوَهُ لِكَفَرَهُ

فَاسِيرُهَا دُعُوا هُ تَلِكَ كَمَا نَبَى

ترجمہ: ..... مسلمیہ کے کفر کے اور اسباب تھے یا نہ تھے، لیکن اب تو تمام (دنیا کے نزدیک) اس کے کفر کی وجہ ”مانی“ کی طرح اس دعویٰ نبوت ہی ہے (یعنی جیسے دنیا مانتی ہے کہ ایران کے مانی کے کفر کا سبب دعویٰ نبوت ہے، ایسے ہی مسلمیہ کذاب کے کفر کا سبب بھی اس کا دعویٰ نبوت ہے)۔“

وَأَوْلَاجَمَاعِ تَحْقِيقٍ عَنْدَنَا

لَفِيهِ بَا كَفَا رَ وَسِيَ عَوَانِي

ترجمہ: ..... ”اور ہماری حقیق کے مطابق امت کا سب سے پہلا جماعت مسلمیہ کذاب کی تکفیر پر اور اس کے (قبیلے کے) قیدیوں (عورتوں اور بچوں) کو قیدی غلام بنانے پر منعقد ہوا ہے۔“

وَكَانَ مَقْرَا بِالنَّبِيِّ وَآذَانِ

لَخَيْرِ الْوَرَى فِي قَوْلِهِ وَآذَانِ

ترجمہ: ..... ”حالانکہ مسلمیہ بھی نبی خیر البشر ﷺ کی نبوت کا معرف تھا، اور آپؐ کے نبی ہونے کا اپنی عام گفتگو میں اقرار اور اذان میں اعلان بھی کرتا تھا (اس کے باوجود اس کو کافر کہا گیا)۔“

وَمَا قَوْلُكُمْ فِي الْعِيسَوِيَةِ أَوْلُوا

رَسُولاً لَا مِيَّنْ خَيْرٍ كَبَانْ

ترجمہ: ..... ”اور پھر ”عیسوی“ فرقہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے، جو یہ تاویل کرتے ہیں کہ خیر الکائنات محمد رسول اللہ تو ضرور ہیں، مگر صرف عربوں کے لئے ہیں (ہمارے اور تمام دنیا کے لئے نہیں ہیں)۔“

وَهُلْ ثُمَّ مَا لَا فِيهِ تَاوِيلٌ مُلْحَدٌ

وَمِنْ حَجَرِ التَّاوِيلِ (مِيَّ لِسانِ

ترجمہ: ..... ”اور کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی عقیدہ باطل ہے جس کی کسی ملحد نے تاویل نہ کی ہو؟ اور تا  
ویل کی زبان درازی کو کون وک سکتا ہے؟ (اور متوجہ کی زبانِ لکون بند کر سکتا ہے)۔“

وَهُلْ فِي ضَرُورِيَاتِ دِينِ تَاؤُلٍ

بِتَحْرِيفِهَا إِلَّا كَفَرْ عِيَانْ

ترجمہ: ..... ”اور کیا ضروریاتِ دین میں ایسی تاویل جو تحریف کے مراد ہو، کھلے ہوئے کفر کی ما  
نند نہیں ہے؟“

وَمِنْ لَمْ يَكُفِرْ مُنْكَرِيهَا فَانْهَ

يَجْرِ لِهِ الْانْكَارِ يَسْتَوِيَانِ

ترجمہ: ..... ”اور (یاد رکھو) کہ جو کوئی ضروریاتِ دین کے منکر کو کافرنہ کہے، وہ اس انکار کو خود اپنے  
سر لیتا ہے، اور بغیر کسی فرق و امتیاز کے خود کافر ہے، (کسی کافر کو کافرنہ کہنا، خود کافر ہے)۔“

وَمَا الدِّينُ إِلَّا بِيَعْتِهِ مَعْتُوَيَةٌ

وَمَا هُوَ كَالْأَنْسَابُ فِي السَّرِيَانِ

ترجمہ: ..... ”دین تو درحقیقت ایک معنوی بیعت ہے (جب تک کوئی اس بیعت پر قائم ہے دین  
میں داخل ہے، اور جہاں اس بیعت کو توڑا دین سے خارج ہو گیا) دین نسب کی طرح ہے کوئی اسلامی علا  
قو نہیں ہے کہ بہر صورت قائم رہے (اور مسلمان کی اولاد مسلمان رہے، چاہے کچھ بھی کرے)؛“

فَانْهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ قَاتِلُهَا ①

وَلَكِنْ بَآيَاتِ مَآلِ مَعَانِي

ترجمہ: ..... ”(اگر یقین نہ آئے تو) آیت: ”فَانْهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ“ پڑھو (ویکھو) حقائق  
و معانی کا مدار آیت الہیہ پر ہے، ج (یعنی جو آیت الہیہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ براہ

راست نبی کو جھوٹا بھی کہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ: اے نبی! وہ تجھ کو تو جھوٹ کی جا نب منسوب نہیں کرتے (یعنی جھوٹا نہیں کہتے) لیکن یہ ظالم، اللہ کی آیات (وادحات) کا انکار کرتے ہیں، (اس لئے کافر اور جہنمی ہیں)۔ واضح ہو کہ یہ شعر اس قرائت پر مبنی ہے جس میں "یکہ بون" آیا ہے، جو "اکدہ نسبہ الی الکذب" سے ماخوذ ہے)؛

### تبانلا یمنتری بسطا لہ کحجام سا باط صریع غوان

ترجمہ: ..... "اس حسین نازمینوں کے دلدادہ قادریانی نے نبوت کا دعویٰ صرف اس لئے کیا ہے کہ (اس کی عشق و محبت کی رنگ رویوں کو دیکھ کر۔

اس کے متعلق بے کاری کو شہنشہ کیا جائے، جیسے سا باط کا حجام (کہ وہ بے کاری کے الزام سے بچنے کے لئے اپنی ماں کی جماعت بنانے میٹھ جایا کرتا تھا کہ اسے کوئی بے کار نہ کہے، یعنی اس قادریانی مرزا نے صرف اپنی بدکاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لئے کہ نبی کو معصوم سمجھا جاتا ہے، کہ لوگ اس کو بھی معصوم سمجھ کر اس کی بدکاریوں سے درگز کریں "بدکار" نہ کہیں جیسے شہربساط کے ایک جام کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو چورا ہے پر اپنی ماں ہی کی جماعت بنانے میٹھ جاتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے کار بیخمار ہتا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، اناڑی ہے)۔"

### ومعجزہ منکوحة فلکیہ

### یصا دفها فی رقیة الكروان

ترجمہ: ..... "چنانچہ اس منکوحة آسمانی کو اپنا مجزہ قرار دیا کہ کسی طرح اس "کروان" کے منتر سے اسے رام کر لے،

(یعنی جس طرح عرب کے لوگ کو خج کو اطراف کری اطرق کری ان النعامة فی القری "کامنتر پڑھ کر آسمانی سے شکار کر لیتے تھے، اسی طرح بواہوں مرزا قادریانی نے محمدی بیگم کو منکوحة آسمانی اور اپنی نبوت کا مجزہ قرار دے کر اپنے دام ہوس میں گرفتار کرنا چاہا، لیکن واحرستا! کہ وہ نیک بھی اور اس کے والدین اس دام فریب میں بھی نہ آئے اور آخر مرزا لعین اس کے وصال کی حرمت دل میں ہی لے کر جہنم رسید ہوا)۔"

### ومنی لہ الشیطان فیها بوحیہ

### رفاء ووصلہ خطبة وتھا نی

ترجمہ: ..... (اودھر) شیطان نے بھی اس کو اپنی شیطانی وجی سے خوب خوب آسمانہ و پیغام،

وَصَلَ وَصَالَ تَهْنِيَّتٍ وَمَبَارِكَ بَادَكَى آرَزَوَوْلَ كَا سِنْرَ باَغْ دَكْهَا يَا تَحَا  
 (یعنی محمدی بیگم سے نکاح کے باب میں بہت سی وصیتیں بھی اس پر نازل ہوئی تھیں، مگر وہ سب  
 وچیں شیطانی تھیں، اس لئے جھوٹی نکلیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لینے کے باوجود نکاح نہ ہو سکا)۔“

يَهُمْ بَا مِرْ الْعِيشِ لَوْ يَسْتَطِيعُهُ

وَقَدْ حَيَلَ بَيْنَ الْعِيرِ وَالْتَّرْوَانِ

ترجمہ:....”اس کا واحد مقصد عیش کو شی اور ہوس رانی تھا، اگر اس کا یہ مقصد پورا ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ جما  
 روشنی کو جفتی سے روک دیا گیا، (یعنی محمدی بیگم نے اس قادیانی مرزا کی بیوی بنے سے انکار کر کے  
 اس کی ہوس رانی کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا)۔“

فَفَضَحَهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ بِحُولِهِ

وَقُوَّتِهِ وَاللَّهُ فِيهِ كَفَا نِي

ترجمہ:....”اور اس تدبیر سے رب العالمین نے اس جھوٹی مدعی نبوت کو اپنی طاقت و قدرت سے  
 خوب خوب رسوائیا، اور اس فرض سے ہمیں سبکدوش کر دیا

(یعنی ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی زحمت سے بچایا، خود اس کی زبان سے اس کی پیش گو  
 یوں سے ہی اسے جھوٹا ثابت کر دیا)۔“

وَكَانَ ادْعَى وَحْيَا سَنَنِ عَدِيدَةَ

فَجَاءَ يَحَا كَمِيْ فَعْلَةَ الظَّرْبَانِ

ترجمہ:....”یہ جھوٹا (اسی طرح) چند سال تک وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرتا رہا اور ایک بد بودار جا  
 نور کی طرح اپنی بدبو (یعنی جھوٹی وحی) سے مسلمانوں کا دماغ پر یثنا کرتا رہا (ظربان ایک بد بودار  
 جانور ہے، بلی کے مشابہ)؛“

وَدَلَّهُ شَيْطَانًا هُ فِي ذَاكَ بَرْهَةَ

وَلَمْ يَدْرِ شَيْطَانًا نَّلَّا يَقِيَانِ

ترجمہ:....اور اس کے دونوں شیطانوں نے عرصہ دراز تک اس فریب اور دھوکہ میں اس کو لٹکائے  
 رکھا کہ یہ وحی ہے، مگر اس بے وقوف کو پتہ نہ تھا کہ اتنی عظیم گمراہی کو پھیلانے کے لئے دو شیطان کافی  
 نہیں ہو سکتے (یہ دونوں شیطان خلیفہ نور الدین اور حکیم احمد حسن امراؤہی، مرزا کی وحیوں کے مصنف  
 ہیں)۔“

وَاحْرَا وَهَذَا بَذْرِيَّتَهِ يَرْبِي

فَهَلَا عَوْرَى اَصْلَ النَّبُوَةِ ذَانِ

ترجمہ: ..... یہ دونوں شیطان خود تو پس پر وہ رہے اور مرزا اور اس کی ذریت کو آگے کر دیا (اور نبوت کا عویی کر دیا)، اگر ہمت تھی تو یہ دونوں خود مدعی نبوت بن کر کیوں سامنے نہ آئے؟"

**وَانْهُمْ لِمَا لَمْ يَمْتَ بِشَرْوَطٍ**

**رَجُوا عَالِيَ الْحَقِّ ادْعَى بِرْهَانٍ**

ترجمہ: ..... اور جب عیسائی پادری "آہتمم" مرزا کی پیش گوئی کے مطابق نہ مرزا تو اس کے متعلق "حق کی جانب رجوع کر لینے" کی بازی لگادی، یعنی کہنے لگا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ آہتمم نے حق کو یعنی میری نبوت کو مان لیا ہے، اسی لئے نہیں مرا ہے)۔"

**وَسَمَاهُ أَيْضًا مَرَةً بِسَقْوَطِهِ**

**لَهَاوِيَةُ هَلْ دَانَ يَجْتَمِعُونَ**

ترجمہ: ..... حالانکہ ایک مرتبہ اس کے جہنم میں گرنے کا نام بھی لے چکا تھا، (اور جہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کر چکا تھا) کیا یہ دونوں متضاد پیش گوئیاں جمع ہو سکتی ہیں؟

(یعنی ایک طرف اس کے کافر اور جہنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے حق کو مان لینے اور اپنی نبوت پر ایمان لے آنے کی وجہ سے موت سے بچنے کی خبر دیتا ہے، بالفاظ دیگر آہتمم ایک پیش گوئی کے مطابق کافر اور جہنمی ہے، اور دوسری پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور ناجی، یہ کھلا ہوا تضاد ہے، اس کے لئے یقیناً ان دونوں میں سے ایک پیش گوئی ضرور جھوٹی ہے، پچ کہا ہے کسی نے کہ: "جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے")۔"

**وَيُوْجَدُ فِي الْوَقْتِ الْمَعْانِي لِلْغُلْيِ**

**إِذَا خَانَهُ اسْتَ لَمْ يَطِقْ لِضَمَانَ**

ترجمہ: ..... اور تو اور فی الوقت کے معنی از خود گھردیتا ہے، اور جب نیچے سے زمین سر کن لگتی ہے، (اور غلطی کھلتی ہے) تو اس کا بارہیں اٹھا سکتا (یعنی جب غلطی پکڑی جاتی ہے تو جواب نہیں دے سکتا)۔"

**يَحْضُرُ بِأَفْوَاهِ الشَّيَاطِينِ حِيقَةً**

**وَيَصْرُفُهُمْ عَنْ صُوبٍ فَهُمْ مُبَانِي**

ترجمہ: ..... "(غرض) شیطانوں یعنی مریدوں کی زبان سے مکروہ فریب (نے معنی الفاظ کی) اگرند اچھا تارہ اور ان کو (لفظوں کی الٹ پھیر میں رکھ کر) حقائق کو سمجھنے کی جانب متوجہ ہونے دیا۔"

**فَعَلَلَ اذْنَابَ لِهِ النَّاسُ إِنْ فِي**

**حَدِيبَيَةِ مَانِ حُوَّهَا يَرِيَانَ**

ترجمہ: ..... "تو اس کے دم چھلے (مرزا بیویوں) نے لوگوں کو اس طرح بربادیا (اور بہ کیا) کہ (انہیں)

حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح دو (متضاد) خواب دکھلانے گئے ہیں، (یعنی مرزا اور اس کی امت، آنکھم کے خواب پورا نہ ہونے پر لوگوں کے اعتراضات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ ﷺ نے بھی حدیبیہ کے سال ۶ھ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ ﷺ مسلمانوں کے ہمراہ باطمینان تمام مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، مگر آپ ﷺ کا وہ خواب پورا نہ ہوا، اور آپ ﷺ اور تمام مسلمان بغیر عمرہ کئے حدیبیہ سے واپس آگئے، لہذا خواب کا پورا نہ ہونا بُوت کے منافی نہیں ہے، حضرت مصنف عجیب اللہ اَللّٰہ اَلْعَظِیْمِ اگلے شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں)۔“

### ارؤیا حکاہا خاتم الرسل مرسلا

#### ولم يك منحا السير يلتisan

ترجمہ: ....”کیا وہ خواب جو فرستادہ الہی خاتم الانبیاء ﷺ نے بیان فرمایا (اور واقعات) کی رفتار اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیا وہ خواب اور واقعی ایک دوسرے سے ملتباش (اور مشتبہ) ہو گئے؟ (یعنی کیا وہ خواب پورا نہیں ہوا، اور اگلے سال ۷ھ میں آپ ﷺ نے تمام مسلمانوں نے باطمینان تمام عمرہ نہیں کیا؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی سال ۶ھ میں عمرہ ہو گا، حالانکہ خواب میں اس کی تصریح نہ تھی اور نہ ہی حضور ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال یہ خواب پورا ہو گا،) مراجعت کیجئے صحیح بخاری رج: ۱، عص: ۳۸۰) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے مذکورہ ذیل آیات سورۃ فتح میں نازل فرمائیں۔“

**لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءُ يا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُ وَسَكُمْ وَ مُقْسِرِينَ لَا تَخَافُونَ.** (فتح: ۲۲)

ترجمہ: .....بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بالکل برحق سچا خواب دکھایا ہے، تم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور امن اور امان کے ساتھ داخل ہو گے (اور عمرہ کرو گے، عمرہ سے فارغ ہو کر) کچھ لوگ اپنے سرمنڈا میں گے، اور کچھ بال کتروں میں گے، اور تھیس کسی کا خوف نہ ہو گا۔“

### وما قد حکاہ الواقدي فلم يرد

#### ترتب سیرا وبداء اوان

ترجمہ: .....او واقدی نے جو (سیرت) میں بیان کیا ہے اس کا مقصد واقعات کی ترتیب یا ابتداء وقت (عمرہ) کو بیان کرنا نہیں ہے۔

### حکی من امور لا ترتتب بینها

#### قد اتفقت في المبين من جريان

ترجمہ: .....واقدی نے تو بلا ترتیب جو امور (واقعات) اس سال پیش آئے تھے ان کو بلا ترتیب شمار

گرا دیا ہے، اور یہ خواب آپ ﷺ نے یقیناً اسی سال ۶ھ میں دیکھا تھا (مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خواب اسی سال سے متعلق تھا، جیسا کہ مذکور بالآیت میں ”ان شاء اللہ“ کا لفظ ہے، لہذا واقدی کے بیان سے یہ استدلال کرنا کہ دیکھو ”رسول اللہ ﷺ کا خواب پورا نہیں ہوا یہ درست نہیں اس لئے کہ واقدی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب اسی سال ۶ھ سے متعلق تھا، مرزا یوسف نے واقدی کے بیان سے استدلال کیا تھا، حضرت مصنف نے ان دو شعروں میں اس کا جواب دیا ہے)۔

وَأَوْضَحَهُ الصَّدِيقُ فِيمَا رَوَى لَنَا

اصحُّ كِتَابٍ فِي الْحَدِيثِ مِثْانِي

ترجمہ: ..... اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں واضح کر دیا، جس کو حدیث کی ”اصحُّ الکتب بعد کتاب اللہ“، یعنی ”صحیح بخاری“ میں ج: اص: ۳۸۰ پر روایت کیا ہے۔

رَجَاءُ وَقْصَدِ لِيسِ اخْبَارِ غَيْبِهِ

عَلَى ظَاهِرِ الْأَسْبَابِ يَعْتَمِدُ مَا نَهَا

ترجمہ: ..... ”اس خواب کا مشا تو در حقیقت ایک امید اور ظاہری اسباب کی بناء پر قصد کا اظہار تھا نہ کہ غیب کی خبر دینا اور پیش گوئی کرنا، (اس کے بر عکس مرزا نے تو بطور تحدی چیلنج کیا تھا کہ آئھم اس سال ضرور مر جائے گا، کیونکہ یہ خواب مجھے دکھایا گیا ہے لہذا اس پیش گوئی کو رسول اللہ ﷺ کے خواب پر قیاس کرنا حماقت ہے، یہ دوسرا جواب ہے۔“

وَمَا ذَابَ فِي الْعُمُرِ الطَّوِيلِ لَهُ فَذَا

هَجَاءُ خِيَارِ الْخُلُقِ غَبْ لِعَانِ

ترجمہ: ..... ”اور اس متنی قادیانی کی زبان و قلم سے عمر دراز میں جو کچھ ظہور میں آیا ہے، وہ یہ ہے یعن طعن کے بعد خدا کی بہترین مخلوق (انبیاء علیہم السلام) کی جھو اور بد گوئی کرنا۔“

تَفْكِهُ فِي عَرْضِ النَّبِيِّنَ كافر

عَتْلُ زَنِيمَ كَانَ حَقُّ مَهَانَ

ترجمہ: ..... ”انبیاء علیہم السلام کی حرمت و عظمت کا ایک بد زبان، بد نسب، رسول نے زمانہ کافر نے خوب خوب مذاق اڑایا ہے۔“

يَلْذَ لَهُ بَسْطُ لِمَطَاعِنِ فِيهِمْ

وَيَجْعَلُ نَقْلاً عَنْ لِسَانِ فَلَانَ

ترجمہ: ..... ”انبیاء علیہم السلام پر طعن و تشنج کرنے میں اسے خوب مزا آتا ہے (او تکفیر سے بچنے کے لئے) ایرے غیرے کا بیان بنادیتا ہے کہ فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں)۔“

يَصُوَّعُ اصطلاحاً هذَا مسيح حِكْمَ

كَمَا سَبَّ امَهٗ هَكُذا أخوان

ترجمہ:..... اصطلاح لغتی است اور خوب گالیاں دے رکھتا ہے کہ (اے عیسائیو!) یہ بے تمہارا میخ! بالکل ایسے جیسے وحقيق بھائی ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دیں

(حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہے، اس لئے گویا جرایک اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائیوں کے بھی ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی ان کو بنی مانتے ہیں، اسی لئے عیسائیوں کے، عیسیٰ، کو گالیاں دینا، قرآن کے "عیسیٰ، کو گالیاں دینے کے مراد فارکفر ہے)۔"

قَدْ رُدَّ فِي الْقُرْآنِ أَنْوَاعُ كَفَرِ هُمْ

فِيَلٌ غَضٌ منْ عِيسَى الْمَسِيحِ بِشَانٍ

ترجمہ:..... حالانکہ قرآن میں تھی عیسائیوں کے ہر قسم کے کفریات کی تردید آتی ہے، لیکن کیا مجال جو اس تردید میں میکی (بدر) کی ذرا بھی کسر شان ہوئی ہو، (معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسر شان کئے بغیر بھی ہر قسم کے کفریات کی تردید کی جاسکتی ہے، اور مرتضیٰ نے قادیان کا یہ صرف "بہانہ" ہے، وہ دراصل ان کو گالیاں دینا اور ان کی توہین و تذلیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ اپنے "عیسیٰ" ہونے کے لئے راہ ہموار کرے)۔"

وَهَذَا كَمْنٌ وَافِي عَدُوا يَسِيهٖ

بِجَمْعِ اشْدَدِ السُّبْ منْ شَنَآنٍ

ترجمہ:..... اور اس کا انداز تو ایسا ہیکہ جیسے کسی کا دشمن سامنے آجائے اور وہ شدت غیظ و غضب کی وجہ سے بر سر عام اسے بے تحاشہ گالیاں دینا شروع کر دے۔"

قَصِيرٌ رُوِيَّا وَقَالَ بَاخْرٌ

إِذْ انْفَتَحَتْ عَيْنِي مِنْ الْخَفْقَانِ

ترجمہ:..... اور (جی بھر کے گالیاں دنے کے بعد) پھر اس کو خواب بتادے اور آخر میں کہہ دے کہ: "پھر اچانک شدت اضطراب سے میری آنکھ کھل کئی" (کہ یہ تو میں خواب کا حال بیان کر رہا تھا)۔"

وَقَدْ يَجْعَلُهُ التَّحْقِيقُ ذَالِكَ عِنْدَهُ

إِذَا مَا خَلَا جُو كَمْثُلْ جَبَانٍ

ترجمہ:..... اور بزویوں کی طرح جب میدان خالی پائے تو اس کو اپنی ذاتی تحقیق بنادے (کہ میرے نزدیک بھی یہی حق ہے کہ عیسیٰ مجھ ایسے اور ایسے تھے)۔"

وينفث في اثناء ذلك كفره

ويعرّب في عيسى بما هو شائى

ترجمہ: ..... "(غرض) اس صورت میں یہ خبیث (عیسا یوں کی تردید کے نام سے) خوب کفریات بکتا ہے، اور (اپنی بھڑاس نکالتا ہے اور) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں؟ معاندانہ عیب جوئی اور بدگوئی کرتا ہے۔"

وكان هنا شئ لتحریف "عهدهم"

فصیره حقا لخطب جنان

ترجمہ: ..... "حالانکہ واقعہ صرف یہ ہے کہ "عہد قدیم" (تورات) اور "عہد جدید" (انجیل) میں تحریف ہو جانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن اس بد باطن نے اپنی خباثت باطنی کی بنابر انہی کو حق قرار دے دیا۔"

وقد اخذوا في مالك بن نويرة

"صاحبکم" للirschafی کا دانی

ترجمہ: ..... "حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے تو مالک بن نويرہ کو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں "صاحبکم" کے عامیانہ کلمہ کو گستاخی قرار دے کر (تو ہیں نبوی کا) مجرم قرار دے دیا تھا اور قریب تھا کہ قتل کر دیں۔"

وقصة دباء رأى القتل عندها

ابو يوسف القاضی ولات اوان

ترجمہ: ..... "اور قاضی ابو یوسف جسٹس نے "کدو کے قصے" میں (گستاخانہ انداز میں) "میں تو پسند نہیں کرتا" کے الفاظ کو نبی علیہ السلام کی تو ہیں قرار دے کر قاتل کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا تھا، لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے (کہ آج ہم شامِ رسول کو قتل کر سکیں)۔"

وقد اعملت حکم الشريعة فيهم

حكومة عدل للامير امان

ترجمہ: ..... "اور شاہ افغانستان امیر امان اللہ خان کی عادلانہ حکومت نے تو شریعت کے اس حکم پر عمل بھی کیا تھا (کہ انہوں نے شامِ رسول مرزائی کو قتل کر دیا)۔"

تحطم في جمع الحطام ونيلها

وبسط المني في حاصلات مجانى

ترجمہ: ..... "اور یہ قادیانی ملعون تو ساری عمر دنیا کا مال وزر جمع اور انداختہ کرنے میں اور، مفت کے چندوں کی رقوں کو بخورنے کی آرزوؤں کو دراز تر کرنے میں سرگردان رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا۔"

وَكُلُّ صَنْيَعٍ أَوْ دَهَاءٍ فِعْنَدَهُ

لَنِيلُ الْمُنْتَى بِأَطْرَادِ الدُّورَانِ

ترجمہ:....."اور جو بھی چالا کی اور مکاری، جوڑ توڑ کر کے اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں (ممکن ہو سکتی ہے) وہ اس لعین کے ہاں موجود تھی۔"

إِهْذَا مَسِيحٌ أَوْ مَشِيلٌ مَسِيقٌ

تَسْرِيْبٌ سَرْبَا لَا مِنَ الْقَطْرَانِ

ترجمہ:....."کیا یہی "مسیح" یا "مشیل مسیح" ہے؟ جس نے قطران (گندھک کے تیل کا) جہنمی لباس پہن رکھا ہے؟"

وَكَانَ عَلَىٰ مَا قَالَ مَاجُوجَ اصْلَهُ

وَصَا رَمْسِيْحًا فَأَعْتَبَ بِقْرَانِ

ترجمہ:....."وہ تو (درحقیقت) اپنے قول کے مطابق یا جو جو مسیح کی نسل میں سے تھا، ترقی کر کے مسیح بن گیا، پس اس (یا جو جو مسیح) کے قرآن (اتصال) سے لوگو! عبرت حاصل کرو۔"

نَعَمْ جَاءَ فِي الدِّجَالِ اطْلَاقَهُ كَذَا

فَقَدْ ادْرَكَتْهُ خَفَةُ السَّرْعَانِ

ترجمہ:....."ہاں ہاں دجال کے حق میں بھی تواحدیت میں "مسیح" کا لفظ آیا ہے، وہ قادریانی مرزا بے شک "مسیح دجال" تھا، کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس نے یہ لقب اپنے لئے اختیار کر لیا

(حضرت عیسیٰ ﷺ کے نام کے ساتھ جو "مسیح" کا لفظ آتا ہے وہ "ماشیح" کا معرب ہے، جس کے معنی عبرانی میں "مبارک" ہیں، اور دجال کے تذکرہ میں جو "مسیح" آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں "ممسوح" یعنی "آئندہ پھوٹی ہو") اسی لئے اردو والے اسے "کانا دجال" کہتے ہیں، اس جاہل کو اس حقیقت کا پتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے "مسیح" کا لقب اختیار کیا اور "مسیح دجال" بن گیا۔"

الْمَ يَهْدِهُ لِلْقَرْآنِ يَحْفَظُهُ وَلَمْ

يَحْجُ لِفَرْضِ صَدِهِ الْحَرْمَانِ

ترجمہ:....."کیا واقعہ نہیں ہے کہ نہ اسے قرآن حفظ کرنے کی توفیق ہوئی، نہ ہی حج فرض ادا کرنے کی (اور یہی دجال کی ممتاز خصوصیات ہیں) حرمنے نے اس کو حج کرنے سے روک دیا۔"

فَيُسْرِقُ فِي الْفَاطِمَيْةِ

وَقَرْمَطَةُ وَحْيٍ اتَاهُ كَدَانِي

ترجمہ:....."اس لعین قادریانی کے پاس جود غلی وحی آتی ہے، اس میں کچھ "باطنیہ" کے الفاظ چرا ہتا

ہے، کچھ ”قراطہ“ کے، یہی ”کدانی“ (قادیانی) وحی کی (حقیقت) ہے۔“

وَتَا بَعْهُ مِنْ فِيهِ نَصْفٌ تَنْصُرٌ

وَمِنْ فِيهِ كَفَرٌ مُّدَعٌ بِمُبَانِيٍّ

ترجمہ: ....”اور اس صحیح دجال کی پیروی صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو پہلے ہی ”نیم نصرانی“ تھے اور جن کی سر شست میں کفر رکھا ہوا تھا۔“

وَكَفَرٌ مِّنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِنَبِيَّةٍ

لَهُ وَهُوَ فِي هَذَا لَا وَلِجَانٌ

ترجمہ: ....”اس ظالم نے ہر اس مسلمان کو کافر قرار دے دیا جو اس کی نبوت کو نہ مانے، اس معاملہ میں یہ دنیا کا پہلا مجرم ہے (آن تک کسی مدعی نبوت نے اپنے نہ مانئے والے مسلمانوں کو کافرنیں کہا تھا)۔“

الا فَاسْتَقِيمُ وَاسْتَهِيمُوا لِدِينِكُمْ

فَمَوْتٌ عَلَيْهِ أَكْبَرُ الْحَيَاةِ

ترجمہ: ....”پس سن لو اے مسلمانو! اب تم صراطِ مستقیم پر پختگی سے قائم ہو جاؤ، اور اپنے دین کی حفاظت کے لئے دیوانہ وار ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس لئے کہ دین پر جان دے دینا ہی سب سے بڑی زندگی ہے۔“

وَعِنْدِ دُعَاءِ الرَّبِّ قَوْمُوا وَشَمِرُوا

حَنَا نَا عَلَيْكُمْ فِيهِ اثْرٌ حَنَا نَا

ترجمہ: ....”اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو اور کمر کس لو! اس دین کی حمایت میں تم پر خدا کی رحمتوں پر حتمیں نازل ہوں۔“

وَكَنْ راجِياً يَظْهَرُ الْحَقُّ وَارْتَقِبْ

لَا وَلَا دَبْغَى فِي السَّهْلِ يَمَانِي

ترجمہ: .... اور حق کے غلبہ کی خدا سے امید و اثق رکھو، اور ان برساتی کیڑوں کی ہلاکت کے لئے کسی سهیل یمانی کا انتظار کرو۔“

وَلِلْحَقِّ صَدْعٌ كَالصَّدْعِ وَصَوْلَةٌ

وَطَعْبٌ وَضَرْبٌ فَوْقَ كُلِّ بَنَانٍ

ترجمہ: .... اور حق و باطل کے پردے صحیح کی طرح چاک کرڈا تا ہے، حق بھی باطل پر یورش کرتا ہے اور اس کے ایک ایک پورے پر ضرب کاری لگاتا ہے۔“

وآخر دعوا نا ان الحمد للذى

لنصرة دين الحق کا ن هدا نی

ترجمہ:....."اور ہماری تو آخری بات یہ ہے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین حق کی  
نصرت کی توفیق عطا فرمائی۔"

وصلی علی ختم النبیین دائمًا

وسلم ما دا م اعتلی القمران

ترجمہ:....."اور خدا خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ حمتیں نازل  
کرے اور سلامیاں، جب تک افق پر چاند سورج چڑھتے رہیں، (آمین)۔"



## تاویل باطل سے علماء حق کی ممانعت

صفات الہمیہ پر بے چوں و چرا اور بغیر کسی تاویل کے ایمان لانا فرض ہے

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" میں ج ۱۳ ص: ۳۲۵ (طبع ثالثی) میں فرماتے ہیں:

"ابوالقاسم لاکائی نے بند متصل امام محمد بن حسن شیبا نی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک کے تمام فقهاء قرآن کریم پر اور شقہ راویوں کی روایت کردہ ان صحیح روایات پر بغیر کسی تشبیہ و تفسیر کے ایمان لانے کوفرض قرار دیتے ہیں جو پورا دگار عالم کی "صفات" کے بیان میں آئی ہیں، جو شخص ان "صفات" میں سے کسی صفت کی بھی کوئی تفسیر یا تاویل کرے اور جنم بن صفویان کا مسلک اختیار کرے وہ اللہ کے اس دین سے خارج ہے، جس پر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین قائم تھے، اور وہ امت مسلمہ کے دائرہ سے نکل گیا، اس لئے کہ اس نے پورا دگار عالم (کی اصلی اور حقیقی صفات چھوڑ کر اس ) کی (خود ساختہ اور) بے معنی صفات ثابت کر دیں۔"

انہمہ احناف کی طرف "جهنمی" ہونے کی نسبت بعض و عناد کا مظاہرہ ہے:

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: (امام محمدؑ کی اس تصریح کے ہوتے ہوئے) اب جو کوئی ہمارے انہمہ احناف (امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ) کو "جهنمی" فرقہ کی جانب منسوب

کرے، یہ اس کی نگاہ بغض و عناد کی کچھ بنی ہے کہ اسے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں (اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی)

اس (بطان تاویل کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر بنیادی نے انہے دین کے اور بھی کچھ آثار و اقوال عقل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مصنف حاشیہ پر ان اقوال کو عقل کرتے ہیں:

۱.....حافظ ابن حجر بنیادی فرماتے ہیں: محدث لاکائی نے اپنی کتاب السنۃ میں حسن بصری عن امہ عن ام سلمۃ بنی العباس کے طریق (سنہ) سے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ بنی العباس نے فرمایا:

"(اللہ تعالیٰ کی صفت عرش پر) استواءً محبول نہیں ہے (سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں) ہاں اس کی کیفیت (اور صورت) کا سمجھنا عقل انسانی کے دائرہ اور اک سے باہر ہے، اور اس کا اقرار کرنا (کہ اللہ تعالیٰ کے لئے استواءً علی العرش ثابت ہے) فرض عین ہے، اور اس کا انکار کفر صریح ہے۔"

۲.....حافظ ابن حجر بنیادی فرماتے ہیں اور ابن الہی حاتم نے امام شافعی بنیادی کے "مناقب" میں ابن یونس بن عبد العالی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی بنیادی کو یہ فرماتے ہوتے سنا کہ:

"اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام، اور صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس شخص نے دلیل قائم ہونے (یعنی معلوم ہونے) کے بعد انکار کیا وہ کافر ہو گیا، ہاں دلیل قائم ہونے اور (معلوم ہونے) سے پہلے اگر کوئی انکار کرے تو اس کو "جهالت" کی بناء پر معدود سمجھا جائے گا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات انسانی فہم و فراست سے نہیں معلوم کئے جاسکتے لہذا ہم (بے چوں و چرا) ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے (اور مانتے) ہیں، مگر تشبیہ کا انکار ضرور کریں گے (اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے۔ مگر ہماری طرح کانوں سے نہیں، وہ دیکھتا ہے، مگر ہماری طرح آنکھوں سے نہیں) جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کرنے کی ہے، اور فرمایا ہے کہ "لیس کمثله شئی" (کہ کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں)۔"

**تاویل باطل کی مضرت اور مسؤول کا فرض:**.....حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ "شفا العلیل" میں ص: ۸۲ پر فرماتے ہیں:

"باطل تاویل اننبیاء علیہم الصلوٰۃ وسلام کی لائی ہوئی "شریعت" کو معطل (بے کار و بے معنی) بنا دینے اور متکلم (صاحب شریعت) پر جھوٹ لگانے کا موجب ہے کہ اس کی مراد یہ ہے (جو م Gould بتلاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے)، اسی لئے تاویل باطل حق کو باطل اور باطل حق بتاؤ انتی ہے، اور متکلم کی جانب اس "چیتائ گوئی" اور "فریب کاری" کو منسوب کرتی ہے، جو اس کے شایان شان

نہیں، (یعنی م Gould کی تاویل کو صحیح مان لینے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ متکلم نے دانتہ اپنی مراد کو چھپانے کی غرض سے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کے ظاہری معنی سے اس کی مراد نہ بھی جاسکے اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں، اسی کا نام تلبیس اور چیستاں گوئی ہے) اسی کے ساتھ ساتھ بغیر کسی علم و یقین کے یہ کہنا کہ متکلم کی مراد یہی ہے (جو م Gould کہتا ہے) صریح بہتان و افتراء ہے، لہذا ہر تاویل کرنے والے کا فرض ہے کہ:

۱..... پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ از روئے لغت و قواعد عربیت اس "معنی" کے مراد لینے کی بھائش ہے (جو M Gould کہتا ہے)۔

۲.... اس کے بعد وہ (حوالے دے کر) یہ ثابت کرے کہ متکلم نے اس لفظ کو اس معنی میں اکثر و بیشتر استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ اس نے اس لفظ کو ایسے طریق پر استعمال کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، تو ہاں اس لفظ کو اسی "معروف الاستعمال" "معنی پر" حمل کیا گیا ہے۔

۳..... نیز M Gould کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹانے کی یا حقیقی معنی کے بجائے معنی مجازی یا استعارہ مراد لینے کی کوئی قوی اور معارضہ سے خالی دلیل قائم کرے، ورنہ اس کا یہ دعوی (تاویل) دعوی بلا دلیل سمجھا جائے گا اور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

**ثبوت و تائید:** حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "فتاویٰ" میں ج: ۲۴ ص: ۷۹ پر تکفیر رواض کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"پھر اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ (رواض) "M Gould" میں، تو ان کی "تاویلیں" ہرگز قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلہ میں تو خوارج اور عین زکوٰۃ کی "تاویلیں" زیادہ معموقول ہیں، چنانچہ خارجی قرآن کریم کے مکمل اتباع کا دعوی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، (اور یہ رواض تو سرے سے قرآن کو ہی ناقص اور ناقابل اعتماد کہتے ہیں) اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا ہے: "خذ من اموالهم صدقة" ، یہ خطاب اور حکم صرف نبی کے لئے تھا، (چنانچہ جب تک نبی نے زکوٰۃ لی، ہم نے نکالی اور دی) ، غیر نبی کو زکوٰۃ دینا ہم پر فرض نہیں ہے (کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور اس کو دیں) ، چنانچہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اور نہ ہی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے (مگر اس تاویل کے باوجود ان کو "مرتد" اور "واجب القتل" قرار دیا گیا)۔"

ج: ۲۴ ص: ۲۸۵ پر فرماتے ہیں:

"تمام صحابہ جنہیں اور ان کے بعد ائمہ، منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے پر متفق تھے، اگرچہ وہ پنجگانہ نماز بھی پڑھتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا کوئی شبہ (تاویل) صحابہ جنہیں کے نزدیک لاائق قبول نہ تھا، اسی لئے وہ مرتد تھے اور منع زکوٰۃ پر ان سے جنگ کی جاتی تھی، اگرچہ وہ نفس زکوٰۃ کے وجوب کے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے فرض ہونے کے قائل تھے۔"

مانعین زکوٰۃ کو "مسلمان باغی" سمجھنا سخت غلطی اور گمراہی ہے: ص: ۲۹۶ پر مزید فرماتے ہیں:

"لیکن جس شخص نے یہ سمجھا کہ ان (مانعین زکوٰۃ) سے جنگ "تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں" کی طرح کی گئی ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی اور وہ حق سے بہت دور چاہی، اس لئے کہ "تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں" کے پاس کم از کم جنگ کرنے کی کوئی لاائق قبول تاویل اور معقول وجہ تو ہوتی ہے جس کی بناء پر وہ بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں، اسی لئے علماء حق کا کہنا ہے کہ امام (خليفہ) کو (جنگ کرنے سے پہلے) ان باغیوں سے خط و کتابت اور نامہ و پیام کرنا چاہیے، اور اگر وہ کسی ظلم و جور کو (اپنی بغاوت کا) سبب بتلا نہیں تو فوراً اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ محض بغاوت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اس کے بر عکس منکرین زکوٰۃ کو بغیر کسی گفت و شنید کے محض زکوٰۃ کی بناء پر مرتد (اور واجب القتل) قرار دیا گیا۔"

بعض مرتبہ تاویل، زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے: حافظ ابن تیمہ رضی اللہ عنہ (بغایۃ المرتاد) میں ص: ۲۹ پر فرماتے ہیں:

"ہمارا مقصد یہاں صرف اس امر پر منحصر کرنا ہے کہ عموماً اس قسم کی تاویلیں قطعی طور پر باطل ہوتی ہیں اور جو شخص بھی ان کو اختیار کرتا یا لاائق قبول قرار دیتا ہے، وہ خود بسا اوقات اسی جیسی یا بلکہ وہی تاویلیں کر کے گمراہی میں بتلا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے (لہذا ان تاویلات کا دروازہ کھولنا یا کھولنے کی اجازت دینا انتہائی خطرناک ہے۔"

چنانچہ اسی "بغایۃ المرتاد" کے ص: ۱۳۵ پر حافظ ابن تیمہ رضی اللہ عنہ نے اس ذیل میں ابن ہود کا تذکرہ کیا ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ: "عیسیٰ علیہ السلام کی روحا نیت اس پر نازل ہو گئی ہے۔"

جو شخص نبوت کو اکتسابی کہتا ہے، وہ زندiq ہے: "زرقانی" میں ج: ۲ نوع ثالث، مقصد سادس ص: ۱۸۸ پر لکھا ہے:

”ابن حبان رض“ کا قول ہے کہ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ نبوت ”اکتسابی“ ہے، (انہ اپنی کوشش و کاوش سے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس لئے) اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو گا یا یہ کہ، نبی، نبی سے افضل ہے، وہ شخص ”زندیق“ ہے، اس کو قتل کر دینا واجب ہے، اس لئے کہ وہ قرآن عظیم اور خاتم النبیین دونوں کی تکذیب کرتا ہے۔“

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ نبوت ”اکتسابی“ ہے، اس کے لئے ضروری ہے ہے کہ وہ نبوت کے ”سلب“ ہو جانے کا بھی قائل ہو، اور بعینہ یہی عقیدہ یہودیوں کا ہے، چنانچہ بلعم بن باعور کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ بلعم (ملعون و مسوخ ہونے سے پہلے) قوم ”مواب“ کا نبی تھا، جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ (میں السطور میں روح المعنی ج ۳، ص ۱۶۲ کی مراجعت کی ہدایت فرماتے ہیں)

فرماتے ہیں: اور یہی پچھا اس مردو متنبی (مرزا قادیانی) کا حال ہے، اس لئے کہ آخر وقت میں اس کا ایمان بھی سلب ہو گیا تھا اور یہ بھی بدترین موت مرا ہے۔

نبوت کو اکتسابی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تردید: شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رض سے ”شرح عقیدہ سفارینی“ میں ص: ۷۵ پر منقول ہے:

ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ایک ”اکتسابی“ کمال ہے (ہر شخص محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے)، چنانچہ مسلمانوں میں زندیقوں کی ایک ایسی جماعت ہوئی ہے جنہوں نے نبی پیغمبر کی کوششیں کی ہیں (حالانکہ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے)۔ حاصل (واقعہ) یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک ”فضل و انعام“ ہے، اور ”خدا وادعیہ اور نعمت ہے“ وہ جس کو یہ شرف بخشنا چاہتا ہے، اسی کو اس سے توازتا ہے اور نبی بنا تا ہے نہ کوئی اپنے علمی کمال سے اس مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے، نہ اپنی محنت اور کوشش و کاوش سے، اور نہ اسی ولایت کی استعداد و قابلیت سے کوئی اس کو پاسکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت و مصلحت کے تحت) اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں، اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرمادیتے ہیں، لہذا جو شخص نبوت کے ”کبھی“ ہونے کا مدعا ہے وہ ”زندیق“ ہے، اس کو قتل کر دینا فرض ہے، اس لئے کہ اس عقیدہ اور قول کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہونا چاہیے (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ص خاتم الانبیاء نہ تھے) اور یہ عقیدہ و قرآن حکیم کی نص ”خاتم النبیین“ کے بھی مخالف ہے اور ”امتحانات“ حدیث کے بھی خلاف ہے کہ ”آپ متعین خاتم النبیین ہیں“۔ اسی لئے ماتن (صاحب عقیدہ سفارینی نے ”الی الاجل“ (ایک مدت تک) کا انصاف فرمایا ہے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے، اس

علیم و حکیم پروردگار نے جس کو اس شرف سے نوازنا چاہا ایک مدت تک نواز اور یہ سلسلہ نوع انسانی کے جداوں حضرت آدم صفحی اللہ سے شروع ہوا اور حبیب اللہ خاتم الانبیاء محمد ﷺ کی بعثت پر ختم ہو گیا۔“

اس عقیدہ کی سزا: .... ”صُبْحُ الْأَعْشَى“ میں ج: ۱۳ ص: ۳۰۵ پر لکھا ہے:

”یہ دونوں عقیدے ان عقائد باطلہ میں سے ہیں، جن پر ان کی تکفیر کی گئی ہے، ایک یہ کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری اور باقی رہنے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی خبر دے دی ہے، دوسرے یہ کہ نبوت اکتسابی ہے، کوشش و کاوش سے حصل کی جاسکتی ہے، صلاح سندی نے ”لامبیۃ الجم“ کی شرح میں نقل کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہبہ نے عمارت یعنی نام شاعر کو صرف اس لئے قتل کیا تھا کہ وہ اس جماعت کا علمبردار تھا جو دولت فاطمیین کے زوال اور خاتمه کے بعد دوبارہ اس کے احیاء کے لئے میدان میں آئی تھی، جس کی تفصیل اس سے پہلے ”مقالہ ثانیہ“ ”مما لک مصر کی حکومتوں“ کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے، اور اس جرم کے ثبوت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمارت کے قصیدہ کے مذکور ذیل شعر پیش کئے تھے:

وَكَانَ مِبْدَا هَذَا الدِّينُ مِنْ رَجُلٍ

سَعَىٰ فَأَصْبَحَ يَدِهِ عَنِ سِيدِ الْأَمْمَـ

ترجمہ: .... ”اس دین کی ابتداء ایک ایسے شخص (محمد ﷺ) سے ہوئی جو اپنی ذاتی کوششوں اور کاوشوں سے سید الامم کہلانے لگا۔“

دیکھئے اس شعر میں عمارت نے کس بے باکی سے حضور ﷺ کی نبوت کو اکتسابی کہا ہے، استغفار اللہ۔

## تکفیر کی دلیل ظنی بھی ہو سکتی ہے

یعنی جن دلائل کی بناء پر کسی شخص کو کافر کہا جائے، ان کا قطعی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ظنی دلیل بھی کافی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حالت جہاد میں کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شک ہو تو ظن غالب سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح تکفیر کے مسئلہ میں بھی ظن سے فیصلہ کیا جائے گا۔

امام غزالی ہبہ نے ”الفرق“ میں ص: ۱۶۷ پر فرماتے ہیں:

”یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا علم ہر مقام پر قطعی دلیل سے ہونا ضروری ہے، بلکہ تکفیر (کسی کو کافر کہنا) بھی ایک حکم شرعی ہے، جس پر اس شخص کے مال کے مباح اور قتل کے روایتے (کا حکم دنیا میں) اور مخدمنی التاریخ ہونے کا حکم (آخرت میں) مرتب ہوتا ہے، لہذا اس حکم کا مأخذ اور ثبوت بھی باقی تمام ادکام شرعیہ کے مانند ہو گا، جو کبھی قطعی اور یقینی دلائل پر مبنی ہوتے

ہیں اور کبھی دلائل ظنی یعنی ظن غالب پر اور کبھی اس میں شک اور تردید بھی ہوتا ہے، لہذا تکفیر میں جہاں شک و تردید ہوگا، وہاں کافر کہنے یا نہ کہنے میں توقف کرنا بہتر ہے (بہر حال ظنی دلائل تکفیر کا حکم لگانے کے لئے یقیناً کافی ہیں، ان کے موجود ہوتے "توقف" نہیں کیا جائے گا)۔

**تکفیر کا حکم قیاس پر بھی منی ہو سکتا ہے:** امام غزالی عہدہ اسی "الفرق" میں ص ۲۳ پر فرماتے ہیں: "الیوقت میں بھی اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے اور امام کردی کی "وجیز" سے نقل کیا ہے (کہ قیاس کی بناء پر تکفیر کی جاسکتی ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر بھی مثلاً "رقیت" (غلامی) اور "حریت" (آزادی) کی مانند ایک حکم شرعی ہے، (یعنی جس طرح ہم کسی شخص کے غلام یا آزاد ہونے کا فیصلہ قیاس سے کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی شخص کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ بھی قیاس سے کر سکتے ہیں) اس کے لئے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں اس کی جان و مال مباح اور آخرت میں اس کے لئے ابدی جہنم ہے (اور یہ ایک حکم شرعی ہے) اس کو ذریعہ علم بھی شرعی ہونا چاہیے (ویگرا حکما مشرعیہ کی طرح یہ بھی) یا نص سے ثابت ہو کایا (نص قطعی نہ ہونے کی صورت میں) کسی اور نص قطعی پر قیاس کیا جائے گا، "الیوقت" میں (کردی کی طرح) خطابی سے بھی یہی منقول ہے۔"

**جس تاویل سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، اگر چہ اس کی گنجائش بھی ہوتی بھی**

**م Wool کی تکفیر کی جائے گی:** امام موصوف سے "الفرق" میں ص ۱۶ پر فرماتے ہیں: "باقي جس تاویل سے: زین کو ضرر پہنچو وہ محل اجتہاد اور محتاج غور و فکر ہے، اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافر کہا جائے اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافرنہ کہا جائے، (یعنی اگر غور و فکر سے یہ ثابت ہو کہ اس سے یقیناً دین کو نقصان پہنچتا ہے تو تکفیر کی جائے گی ورنہ نہیں، گویا مدار تکفیر دین کو نقصان پہنچنے پر ہے، تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے)۔"

**کبھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ بھی محل تردداً اور محتاج غور و فکر بن جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا:** "الفرق" میں ص ۲۶ پر فرماتے ہیں:

"پھر کچھ بعید نہیں کہ بعض مسائل میں تاویل اس قدر بعید (از فهم و قیاس) ہو کہ اس کے تاویل یا تکذیب ہونے میں شک اور تردید واقع ہو جائے اور غور و فکر کی ضرورت پیش آئے، ایسی صورت میں بھی گمان غالب اور مقتضائے اجتہاد سے فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ (

تکفیر کا) مسئلہ اجتہادی ہے۔“

ایک ہی بات کبھی موجب کفر ہوتی ہے، کبھی نہیں: حضرت مصنف قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں: بعض اوقات ایک ہی کلمہ ایک حالت میں موجب کفر ہوتا ہے، اور ایک حالت میں موجب کفر نہیں ہوتا، اسی طرح ایک شخص کے لئے موجب کفر ہوتا ہے اور ایک کے لئے نہیں، مثلاً: ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء：“

شیخ (رسول اللہ ﷺ کو پسند فرماتے تھے)، یہ حدیث سن کر ایک شخص (بطور تاسف) کہے ”لا احباب الدباء“۔ (مجھے کہدا چھا نہیں لگتا)، اور اس کا مقصد اپنی محرومی اور کم نصیبی کا اظہار ہو، یا صرف واقعہ کا اظہار، تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہی حدیث سن کر (بطور کراہت و استحقاق) گستاخی اور بے باکی کے انداز میں جیسے ایک برابر کا آدمی دوسرے برابر کے آدمی کے مقابلہ پر کہتا ہے، یہی کلمہ بلند آواز اور گستاخانہ لب ولہجہ میں کہے:

”انا لا احباب الدباء“۔ (میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا)، تو یہی کلمہ موجب کفر ہے۔ اور (توبہ نہ کرے تو) یہ شخص کافر ہے، فتاویٰ کی بہت سی جزئیات اسی اصول پر مبنی ہیں۔  
مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مأخذوں کی مراجعت کیجئے:  
۱: ..... ”تحفہ اشاعریہ“ مقدمہ ثانیہ، باب التولی والتبیری۔

۲: ..... علماء کلام و عقائد کی مسئلہ خلق قرآن میں متکلم اور غیر متکلم کے فرق کی بحث۔

۳: ..... علماء کلام و عقائد کی حرام لغیرہ کو حلال سمجھ لینے میں عالم اور جاہل کے فرق کی بحث۔

ان تمام مأخذوں کی بحث و تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ اختلاف حالات کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ”شرح شفاء“ میں ج: ص: ۳۸۳ پر مذکور ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”بغایۃ المرتاد“ میں ص: ۶۲ پر یہی تحقیق بیان کی ہے ”نواہب“ نوع ثالث۔ مقصود سادس کی مراجعت کیجئے۔

## تفصیل

تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں: حضرت مصنف قدس اللہ سرہ ایک اہم نکتہ پر متنبہ فرماتے ہیں:

یاد رکھو! مسئلہ تکفیر پر بحث کرنے والے اکثر علماء نے کسی امر متواتر کے انکار یا تاویل کو تکذیب شارع (شارع علیہ السلام کو جھلانے) کا موجب اور مستلزم قرار دیا ہے، اور یہ (تکذیب) یقیناً کفر ہے،

العیاذ بالله! لیکن مذکورہ ذیل مراجع سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر کا مدار تکذیب پر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ”امر متواتر کا ا Zukar، شارع میہ کی عملاً اور اعتقاداً اطاعت قبول نہ کرنے اور شریعت کو رد کرنے کے مترادف (اور مستقلًا موجب کفر) ہے، اگر شارع میہ کو جھوٹا نہ بھی کہے تو بھی یہ کھلا ہوا کفر ہے، جیسا کہ جموی نے اور ابن عابدین نے ”رد المحتار“ میں (ص: ۳۹۲) پر اور طحطاوی نے کفر کی تعریف کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ (مسئلہ تکفیر میں) تکذیب شارع کا مطلب شارع میہ کی اطاعت و انقیاد کو قبول نہ کرنا ہے، نہ کذب کی طرف منسوب کرنا، علامہ نقۃ الزانی نے بھی ”تلویح“ میں یہی بیان فرمایا ہے۔

**کفر کی ایک نئی قسم، محض خواہش نفس اور سرکشی کی بنا پر انکار کرنا:** حافظ ابن تیمیہ ”الصارم المسلول“ میں ص: ۵۲۳ پر فرماتے ہیں:

”کبھی انکار و تکذیب (عدم قبول) ان تمام امور کے لیے علم کے بعد جن پر ایمان لانا ضروری ہے، محض سرکشی و سرتالی یا انسانی اغراض کے اتباع پر نہیں ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں کفر ہے، اس لئے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ سب کچھ جانتا ہے جن کی خبر دی گئی ہے، اور وہ میں ان تمام امور کی تصدیق بھی کرتا ہے، جن کی مومنین تصدیق کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ (احکام شرعیہ) اس کی اغراض و خواہشات کے موافق نہیں ہیں، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور ان سے ناخوش اور ناراض ہے اور کہتا ہے کہ: ”میں تو ان کو نہیں مانتا اور نہ میں ان کا پاپند ہوں، بلکہ میں تو اس حق کو قبر و غصب کی نظر سے دیکھتا ہوں اور نفرت کرتا ہوں۔“ پس یہ کفر کی ایک نئی قسم ہے (کہ دل میں ایمان ہے اور زبان پر کفر) جو پہلی قسم سے مختلف ہے، اور اصول دین کے اعتبار سے اس کا کفر ہونا قطعی طور ہر معلوم ہے، قرآن اس قسم کے معاندین و متكبرین کی تکفیر سے بھرا پڑا ہے، بلکہ ایسے کافروں کی سزا اور کافروں سے زیادہ سخت ہے۔“

”ما انزل الله“ کے اقرار کے باوجود انسان کافر ہو جاتا ہے:

حافظ ابن تیمیہ ”الصارم المسلول“ میں ص: ۱۴۵ پر فرماتے ہیں:

”امام ابو یعقوب ابراہیم بن اسحاق حلظی نے جوان را ہو یہ کے نام سے مشہور اور امام شافعی و امام احمد رضی کے امام ہیں فرمایا ہے کہ: ”مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول کو سب و شتم کیا، یا ہا انزل الله (یعنی دین) کی کسی بھی چیز کو رد کیا، یا کسی بھی نبی کے قتل کا مرتكب ہوا، وہ قطعاً کافر ہے، اگرچہ ”ما انزل الله“ (دین و شریعت) کا

اقرار بھی کرتا ہو۔“

مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے: حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الایمان“ میں ص: ۸۳ پر امام حبیل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں: کہ جو شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج (وغیرہ تمام اركان دین) کا اقرار تو کرتا ہے، مگر مرتبے دم تک ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا (نہ صرف یہ) بلکہ ساری عمر قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک صراحتہ انکار نہ کرے، جبکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ: ”ارکان دین کو عملنا ترک کرنے کے باوجود میں موسم ہوں، اس لئے کہ میں ان تمام فرائض اور استقبال قبلہ کا اقرار کرتا ہوں“ (یعنی اس کا عقیدہ یہ ہو کہ موسم ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے)۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں: میں نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ حکم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور علماء اسلام کے (فیصلے کے) خلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ“

ترجمہ: ..... اور ان (کفار) کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صدق دل سے صرف اللہ کی عبادت کریں (مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لئے جیسی ہے)۔“

اس کے بعد امام حبیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ احمد بن حبیل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا کہ جو شخص اس کا قاتل ہو (کہ ایمان کے لئے صرف اقرار کافی ہے، عمل ضروری نہیں) وہ کافر ہے، اس لئے کہ اللہ کے حکم اور رسول کی شریعت کو اس نے رد کر دیا۔“

مصنف فرماتے ہیں: خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی ”شرح شفاء“ میں ج: ۳۸۳ پر بھی یہی مذکور ہے۔

تاویل کلام شارع علیہ السلام کی تنقیص کے مرادف ہے: مصنف علیہ الرحمیہ فرماتے ہیں: (”ما جاء بالشارع“ میں مودول کا) تاویل کرنا درحقیقت صاحب شریعت کی تحقیق (ویہاں) میں غلطی نکالنے کے مرادف ہے، اور یہ کہ شارع علیہ السلام کی تحقیق سطحی (اور غلط) ہے، درحقیقت حق وہ ہے جو مودول کی (خود اس کی) تحقیق ہے۔

یہ (زعم) بالاشک و شبہ کھلا ہوا کفر ہے، اس لئے کہ جس شخص کا زعم یہ ہو کہ میں شریعت کے حقائق (اور اس کے اساسی اصول و اغراض کو صاحب شریعت سے زیادہ سمجھتا ہوں، وہ یقیناً کافر ہے، اگرچہ شارع کی تکذیب (اعا ذنا اللہ منه) اس کے خیال میں بھی نہ ہوں۔

پس کسی بھی امر متواتر میں تاویل، جب تک کوئی قطعی اور یقینی دلیل اس کی صحت پر موجود نہ ہو، اس وقت تک العیاذ باللہ! صاحب شریعت کی تجھیل و تحقیق کے مراد فہمے، اور (گویا) جو خلل اور نقص (پناہ خدا!) شارع سے رہ گیا ہے، اس کی اصلاح کے ہم معنی ہے، صرف اس عقیدہ کی بناء پر ہی مودل کی تغیر کی جاسکتی ہے، کسی اور دلیل کی مطلق ضرورت نہیں ہے، یہ زعم بذات خود کفر ہے۔

اس لئے کہ وہ امر جس کی تاویل کی جا رہی ہے، اگر "متباہات" یا "صفات الہیہ" میں سے ہے (جن کی حقیقت اور مراودوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں چانتا) تو ظاہر ہے کہ صاحب شریعت کی تعبیر سے زیادہ جامع اور بہتر تعبیر کسی کی نہیں ہو سکتی (اس لئے شارع علیہ اصل صاحب وحی والہام اور علم الاولین والا خرین کے مالک ہیں، بڑے سے بڑا صاحب کشف والہام ولی بھی نبی ﷺ کے مقام علم تک نہیں پہنچ سکتا)، اور اگر وہ امر "متباہات" میں سے نہیں ہے، تب بھی صاحب شریعت کی بیان کردہ مراود کو غلط کہنا کسی صورت میں بھی قابل برداشت اور درست نہیں ہو سکتا) اس لئے کہ شریعت کی مراود کو صاحب شریعت سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟) ہاں صرف ایک صورت ہے کہ کسی ایسے امر متباہ کی مراود (جس کے بیان سے صاحب شریعت نے سکوت فرمایا ہے) بطور احتمال بیان کی جائے (تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے) مگر یہ بھی خطرہ سے خالی نہیں، (اس لئے کہ اگر بیان مراود کی گنجائش ہوتی تو شارع سکوت نہ فرماتے) اس لئے اس کی مراود کو اللہ کے پرورد گئی میں ہی عافیت ہے، باقی رہے وہ متواتر امور جن کی مراود بالکل واضح (اور بطور تو اتر شارع سے منقول) ہے ان کو ظاہری معنی سے ہنا کر کوئی اور مراود بیان کرنا تو قطعاً کفر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

فَإِنْهُمْ لَا يَكْذِبُونَ كُلُّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحُدُونَ . " (آل عمران ۳۳)

ترجمہ: ...." بے شک اے نبی! وہ اکفار تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔"

مصنف علیہ رحمیہ فرماتے ہیں: یہ (مسئلہ تغیر پر ہماری کوشش و کاوش ہے) باقی اللہ اور اس کا رسول اس سے زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا علم ہی زیادہ کامل اور محکم ہے، مناسب ہے کہ ہم اس بحث کا خاتمہ، خاتم المحمد ہیں، شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سره کے بیان پر کریں، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ان کے فطری تفقہ سے اور مشکوٰۃ نبوت سے نکلا ہوا ایک نور ہے۔



## خاتمه

شیخ المشائخ خاتمة المحمد شیخ

### حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ کی تحقیق ائمۃ

مسئلہ تکفیر میں ایک تضاد اور اس کی تحقیق: حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ "فتاویٰ عزیزیہ" میں ج: اص: ۴۲ پر فرماتے ہیں:

تضاد: مسئلہ: ..... علامہ تفتازانی بیہقی "شرح عقائد" میں فرماتے ہیں:  
"علمائے اہل کلام کے ان دو اقوال کو جمع کرنا بہت دشوار ہے:  
۱: ..... اہل قبلہ میں سے کسی کو کافرنہ کہا جائے۔

۲: ..... جو شخص قرآن کے مخلوق ہونے کا قابل ہو یا (آخرت میں بھی) اللہ تعالیٰ کی رؤیت (دیدار) کو محال کہتا ہو، یا شیخین (ابو بکر و عمر) بیہقی کو سب و شتم کرتا یا ان پر لعنت بھیجتا ہو (اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو) اس کو ضرور کافر کہا جائے۔"

علامہ شمس الدین خیامی کی تحقیق: محقق شمس الدین خیامی "حاشیہ شرح عقائد" میں فرماتے ہیں:  
"علماء اہل سنت کا یہ اصول کہ "صاحب قبلہ کو کافرنہ کہا جائے"۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اجتہادی مسائل کے انکار پر (کسی اہل قبلہ کو) کافرنہ کہا جائے، اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرے اس کی تکفیر میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ہے، (ایسا شخص متفق طور پر کافر ہے) علاوہ ازیں یہ اصول (کہ اہل قبلہ کافرنہ کہا جائے) صرف امام ابو الحسن اشعری اور ان کے بعض تبعین کا قول ہے، باقی تمام اشاعرہ شیخ اشعری سے اس اصول میں متفق نہیں، اور یہی وہ تمام اشاعرہ ہیں جو معتزلہ اور شیعہ کو ان کے بعض عقائد (جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے) کی بنیاد پر کافر کہتے ہیں۔ لہذا ان ہر دو اقوال کو جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی لئے کہ قول اول کے قائلین خود آپس میں متفق نہیں۔"

حضرت شاہ صاحب کا اس تحقیق پر اعتراض: حضرت شاہ عبدالعزیز بیہقی فرماتے ہیں:  
"اس میں کوئی خفا نہیں کہ علامہ خیامی کا جواب اول ایک "عام" اصول اور مسلمہ ضابطہ میں بغیر کسی دلیل کے "تحصیص" کرنے اور "مطلق" کو "مقید" بنانے کے مراد ہے، اور وہ راجواب اس پر

مبنی ہے کہ دونوں قولوں کے قائلین الگ الگ ہیں، حالانکہ (واقعہ نہیں ہے، بلکہ) جو لوگ اس اصول کے قائل ہیں وہی عقیدہ خلق قرآن پر، سب و شتم پر، عالم کو قدیم مانتے ہیں پر، علم جزئیات اے انکار پر بھی عکیف کرتے ہیں (لہذا اتفاہ موجود ہے، اور جمع و تطبیق کی ضرورت باقی ہے)۔“

**میر سید شریف کی تحقیق:** میر سید شریف ”شرح مواقف“ میں فرماتے ہیں:

”یاد رکھو! اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا، یہ شیخ ابو الحسن اشعریؑ اور فقہاء کی تحقیق ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن ہم جب گمراہ فرقوں کے عقائد کی چھان بین کرتے ہیں، تو ان میں بہت سے ایسے عقائد ملتے ہیں جو قطعاً موجب کفر ہیں۔ مثلا:-

۱... اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کے وجود، یا کسی انسان میں اس کے ”حلول“ سے متعلق عقائد۔

۲... یا محمد ﷺ کی نبوت کے انکار یا آپ ﷺ کی توبین و ذم سے متعلق عقائد و اقوال۔

۳... یا محرمات شرعیہ کو حلال اور فرائض شرعیہ کو ساقط قرار دینا۔

( لہذا ہم شیخ اشعری اور فقہاء کے اس اصول سے اتفاق نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی مسلمان فرقہ موجب کفر عقائد و اعمال و اقوال کو اختیار کرے گا تو ہم اس کو ضرور کافر کہیں گے، اگرچہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو)۔“

**حضرت شاہ جہانیہ کی تحقیق:** حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

”(اہل قبلہ سے ہر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا مراد نہیں بلکہ) تحقیق یہ ہے کہ اس مذکورہ بالامشہور معروف مقولہ میں ”اہل قبلہ“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں گو یا قبلہ دین سے کنایہ ہے مراد دین کو ماننے والے لوگ) نہ کہ وہ شخص جو صرف قبلہ میں طرف منکر کے نماز پڑھتا ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

”لِيْسَ الْبَرُّ أَنْ تَوَلُّوْ وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكُنَ الْبَرُّ مِنْ أَنْ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ....الخ

ترجمہ..... نیکی اور دین داری صرف یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب منہ پھیراو، بلکہ نیک اور دین دار وہ شخص ہے جو اللہ (گلی ذات و صفات) پر یوم آخر (یعنی حیات بعد الموت اور جزاۓ اعمال) پر ایمان رکھتا ہو..... الخ۔“

**ضروریات دین:** لہذا جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، وہ اہل قبلہ (اور مسلمان) رہتا ہی نہیں، اس لئے کہ تحقیقین کے نزدیک ضروریات دین صرف تین (فتنم کے امور) ہیں:

۱..... کتاب اللہ کی آیات کو مدلول (مصدق) بشرطیکہ وہ ایسی صریح نصوص ہو جن میں کوئی تاویل ممکن نہیں، مثلاً ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت (یعنی ان سے نکاح حرام ہونا)، شراب اور جوئے کی حرمت، یا اللہ تعالیٰ کے لئے علم، قدرت، ارادہ، اور کلام وغیرہ صفات کو ثابت کرنا (یعنی مانتا)، یا مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین (سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ) سے اللہ تعالیٰ، کے راضی ہونے کا عقیدہ اور یہ کہ ان کی تحریر و توثیق (کسی صورت میں بھی) جائز نہیں۔

۲..... لفظی اور معنوی متوالہ احادیث خواہ اعتقادیات سے متعلق ہوں، خواہ اعمال و احکام سے، وہ احکام خواہ فرض ہوں، خواہ نفل ہوں، مثلاً اہل بیت رسول اللہ ﷺ سے محبت کا فرض ہونا، خواہ وہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات ہوں، خواہ صاحبزادیاں، جموعہ، جماعت، اذان اور عیدین (وغیرہ شعائر دین) کو مانتا۔

۳..... وہ امور جن پر قطعی طور سے امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے مثلاً، صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت (کے برحق ہونے) کا عقیدہ اور اس کے علاوہ امت کے باقی اجتماعی عقائد و احکام۔

جو شخص ان امور کو نہیں مانتا، اس کا ایمان معتبر نہیں..... فرماتے ہیں: اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص اس قسم کے عقائد اور احکام کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان کتاب اللہ اور انہیا، پر بھی معتبر نہیں، اس لئے کہ (مثلاً) قطعی اجماع کو غلط کہنا پوری امت کو گمراہ کرنے کے متراffد ہے اور (درج ذیل) قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کا انکار ہے:

(۱) "كنتم خير امة اخرجت لناس" (آل عمران: ۱۰)

ترجمہ: ...تم تو وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

(۲) وَمَن يشاقق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُوْمِنِينَ . (النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: ..... جو کوئی ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مُمنین کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا۔

(۳) لَا تجتمع امتی علىِ الضلاله .

ترجمہ: ..... (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) کہ میری امت گمراہی پر جمیع اور متفق نہیں ہو گی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث از روئے معنی متوالہ ہے۔ لہذا اس قسم کے امور کا منکر اہل قبلہ مسلمان ہے ہی نہیں۔

**ضروریاتِ دین کی تعریف:** ... چنانچہ بعض علمانے ضروریاتِ دین کی تعریف یہ کی ہے وہ عقائد اور احکام جن کے دین ہونے کا علم مسلم اور غیر مسلم سب کو یکساں ہو۔“

اس تعریف کے متعلق حضرت مصنفؒ کی رائے: مصنفؒ فرماتے ہیں: ہماری نظر سے جو کتابیں گزری ہیں ان میں تو ”ضروریاتِ دین“ کی تعریف یہ کی گئی ہے: ”وہ عقائد اور احکام جن کا علم ہر خاص و عام (علم و جاہل) کو یکساں ہو۔“

**شیخ ابوالحسن اشعریؒ کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحبؒ کی رائے:** حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں: مختصری کہ شیخ ابوالحسن اشعریؒ اور فقہاء کا یہ قول: ”لا فکر ابداً من أهل القبلة۔“ ایک محمل (اور محتاج تفصیل) کلام ہے، یا اپنے عموم پر بے شک باقی ہیں لیکن اہل قبلہ اور غیر اہل قبلہ کی تعین و تمیز نہایت اہم تفصیل کو چاہتی ہے کہ اہل قبلہ کون ہے اور کون نہیں؟ (جس کا حاصل اور تحقیق وہی ہے جو اپنے گزر چکی ہے)

اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر جائز نہیں: فرماتے ہیں: ہاں بعض فقہاء نے جو ایسے اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر کی ہے، جو ایک گرددہ کے نزدیک مشہور و معروف ہیں، ایک گروہ کے نزدیک نہیں مثلاً کسم میں رنگے ہوئے (گیروے رنگ کے) کپڑے پہننے کی حرمت وغیرہ یہ تکفیر نہایت رکیک ہے اور یہ طریقہ غلط مسلک ہے۔

**ایک اور نظریہ:** بعض فقہاء نے اصول اور فروع میں فرق کیا ہے، چنانچہ اصولی عقائد اور احکام کے منکرین کو کافر کہتے ہیں اور فروعی عقائد اور احکام کے منکرین کو کافر نہیں کہتے۔

**اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحبؒ کی رائے:** شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں: ”اگر ان حضرات کی مرا نفس اعمال ہیں (یعنی جو شخص اصولی عقائد اور اعمال کا انکار کرے وہ اہل قبلہ نہیں ہے) تو نھیک ہے، ہم اس نظریہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ان کی مرا اوان اعمال کے فرض یا سنت وغیرہ ہونے کا اعتقاد ہے، (یعنی نفس اعمال کا انکار نہ کرے، مگر ان کے فرض یا سنت ہونے کا انکار کرے) تو ہم اس اصول اور فروع کے فرق کو نہیں مانتے، اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص مثلاً زکوٰۃ کے فرض ہونے، عہد کو پورا کرنے کے واجب ہونے، پنجگانہ نمازوں کے فرض اور اذان کے مسنون ہونے کا منکر ہو وہ یقیناً کافر ہے۔ ابتدائے اسلام میں مانعین زکوٰۃ سے باتفاق صحابہؓ شیعہؓ جنگ کرنا اس کا واضح ثبوت ہے (کہ جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی بھی فرض کی فرضیت

کا انکار کرے) اگرچہ اصل عمل کا انکار نہ بھی کرے وہ کافر ہے)۔“

**کفر تاویلی:** فرماتے ہیں:

”ہاں بعض احکام میں کفر تاویلی معتبر ہوتا ہے (یعنی موول کسی تاویل کی بناء پر انکار کرتا ہے اس لئے اس کو کافر نہیں کہا جاتا) لیکن ایسے واضح اور روشن امور میں تاویل نہیں سنی جاتی، جیسا کہ ما نعین زکوٰۃ کی تاویل نہیں سنی گئی جو قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں: ”ان صلوٰۃ تک سکن لهم۔“ (بے شک آپ ﷺ کی نماز (دعا) ان کے لئے سکون کا موجب ہے)۔ (یعنی ما نعین زکوٰۃ کہتے تھے جس طرح آپ ﷺ کی نماز (دعا) کا موجب سکون ہونا، آپ کے ساتھ مخصوص تھا، اسی طرح: (خذ من اموالهم صدقۃ تطہرہم) کا حکم (آپ ﷺ ان کے مال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) لیجئے، یہ صدقہ ان کے اموال کو پاک کر دے گا)۔ کا حکم بھی آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا، اسی طرح فرقہ ”حروریہ“ یعنی خوارج کی تاویل نہیں سنی گئی جو ”ان الحکم الا لله۔“ (حکم صرف اللہ کیلئے ہی ہے) کی بناء پر ”تحکیم“ کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ (اور ان تمام صحابہ کرام ﷺ کو کافر کہتے تھے جنہوں نے حکم کی تجویز کو قبول کیا)۔

**کن امور پر تکفیر نہ کرنی چاہئے:** فرماتے ہیں:

”باقی قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ، یا اللہ کی رویت کا انکار (محال سمجھ کر)، یا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بطور کلی تسلیم کر لینے کے بعد ہر ہر جزئی کے تفصیلی علم کا انکار، ایسے نظری اور استدلالی امور پر کسی کو کافر کہنے کا اقدام نہ کرنا چاہیے، اس لئے کہ ان امور کے مخالفین قرآن و حدیث کی کسی صریح اور قطعی نص کا انکار نہیں کرتے (یعنی یہ امور ایسی واضح اور قطعی نصوص سے ثابت نہیں جن میں فی نفس تاویل کی گنجائش نہ ہو اور جس حد تک نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں)۔“

**ایک اعتراض اور اس کا جواب کفر اور ایمان میں تقابل عدم و ملکہ ہے:** حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”اگر یہ کہا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اہل قبلہ سے وہی لوگ مراد ہیں جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور اہل قبلہ کا الفاظ اس پر کیونکر دلالت کرتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اور ایمان ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور ان میں تقابل ”عدم و ملکہ“ کا ہے، اس لئے کہ ”کفر“ کے معنی ہیں عدم ایمان، اور جن دو چیزوں میں ”عدم و ملکہ“ کا تقابل ہوتا ہے ان کے درمیان مصدقہ کے اعتبار سے واسطہ (یعنی تیری صورت) نہیں ہوتا، اگرچہ فی نفس الامر واسطہ

ممکن ہو۔ مثلاً نا بینا اور بینا، کہ نا بینا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بینا ہونا چاہئے مگر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مخلوق کو بینا ہونا چاہئے وہ دو حال سے باہر نہیں، بینا ہو گایا نا بینا، یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ بینا ہو اور نہ بینا، بلکہ تیسری حالت ہو، اسی طرح اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کو وہ شرعی مفہوم جو قرآن و حدیث اور تفسیر و عقائد مذکور کلام کی کتابوں میں معتبر ہے، وہ یہی ہے کہ نبی ﷺ کی ان تمام امور دینیہ میں تصدیق کرنا جس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ آپ ﷺ (بھیت رسول) ان کو لے کر آئے ہیں، اور ایسے شخص کا تصدیق کرنا جو اس تصدیق کا اہل ہو (یہ قید اس لئے کہ یہ تینوں عقل و خرد اور علم و معرفت سے عاری اور نا اہل ہیں، اسی لئے نہ یہ ایمان کے مکلف (اہل) ہیں اور نہ ان کا ایمان معتبر ہے)

یہ تو ”ایمان“ کی تعریف ہوئی، اور ”کفر“ کے معنی ہیں کہ جو شخص اس تصدیق کا اہل ہو وہ ان امور شرعیہ میں رسول اللہ ﷺ کی تصدیق نہ کرے، جن کو وہ یقینی طور پر جان سکتا ہے کہ آپ ﷺ ان کو لے کر دنیا میں آئے ہیں۔

فرماتے ہیں:

”کفر کی یہ تعریف بعیند وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے اور منکر کافر ہے (لہذا کسی بھی امر ضروری کے منکر کو مسلمان اور اہل قبلہ نہیں کہا جا سکتا)۔“

### کفر کی چار قسمیں: فرماتے ہیں:

”ہاں اس تصدیق نہ کرنے کے چار مرتبے (اور صورتیں) ہیں:

۱..... ”کفر جہل“ (جهالت پر مبنی کفر) یعنی رسول اللہ ﷺ کے ان امور میں، جن کو لے کر آپ ﷺ کا دنیا میں آتا یقینی اور قطعی ہے ہتھیزیب اور (انکار) کرنا، اس علم و یقین کے ساتھ کہ آپ ﷺ (اس منکر کے زعم کے مطابق) اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ابو جہل اور اس کے ہمنواؤں کا کفر اسی قسم کا ہے۔

۲..... ”کفر جحد و عناد“ (عناد اور جحود) (جان بوجھ کرنے مانے) (پرمی کفر) یعنی یہ جانتے ہوئے کہ آپ ﷺ اپنے دعوؤں میں بلکل سچے ہیں، پھر محض ضد اور عناد کی وجہ سے آپ ﷺ کو جھوٹا کہنا، یہ اہل کتاب (یہود یونصاری) کا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم .“ (آل عمران: ۲۰)

ترجمہ: ..... ”جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ آپ ﷺ کو ایسے ہی (نبی برحق) پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں)۔“

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں

”وجحدو بھا واستیقنتها انفسهم ظلماً و علواً۔“ (انعام ۱۷)

ترجمہ: ..... (ان اہل کتاب نے) محض بہت بھرپور تکمیل کی ہے، پر آپ سے یقین کی نبوت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے نفوس کو آپ سے یقین کی نبوت کا یقین کامل ہے۔“

فرماتے ہیں:

ابیس لعین کا کفر بھی اسی قسم کا ہے۔

۳:..... ”کفر شک“ (وہ کفر جو شک تردد پر مبنی ہو)

جیسا کہ اکثر منافقین کا کفر ہے (کہ ان کو آپ سے یقین کے نبی ہونے میں تردید ہے)

۴:..... ((کفر تاویل،) وہ کفر جو کسی تاویل پر مبنی ہو) یعنی نبی سے یقین کے کلام وہ مراد بتانا جو آپ سے یقین کی مراد نہیں (جیسے اللہ تعالیٰ سے واطیعو اللہ میں مرکز اطاعت مراد یہاں آپ سے یقین کے کلام کو ”تقویہ“ یا مصلحت کی رعایت پر محمول کرنا (جیسے شیعہ اور روا فض ان احادیث کی تاویل کر کرتے ہیں جو افضلیت شیخین سے متعلق ہیں)۔“

نتیجہ بحث: فرماتے ہیں:

”چونکہ (نماز میں) قبلہ کی جانب رخ کرنا ایمان (اور مومنین) کی خصوصیات میں سے ہیں، خواہ از روئے عقیدہ ((خاصہ شاملہ،) کہے خواہ از روئے عمل ”خاصہ غیر شاملہ“ اس لئے ملائے اپنے اقوال میں اہل ایمان کو اہل قبلہ کے لفظ سے تعییر کیا ہے، جیسا کہ حدیث مندرجہ ذیل میں ”مصلی“ (نمازی) کنایہ مسلمان سے ہے۔ ”نهیت عن قتل المصلیین“ (مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے)، اس حدیث میں ”مصلیین“ سے یقیناً مومنین مراد ہیں۔

علاوه از یہ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل نص صریح بتاتی ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو نبی سے یقین کی ان تمام امور میں تصدیق کرنے والے ہیں جن کو آپ سے یقین کا (بھیثت پیغمبر) لے کر آنا یقینی طور پر معلوم ہے۔

”وَصَدَّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرَ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ،“ (ابقرۃ ۲۷)

ترجمہ: ”اور اللہ کی راہ (دین) سے لوگوں کو رہ کرنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کفر ہے۔“

معنف نہیں فرماتے ہیں: کفر کی یہ چار قسمیں جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں ”معالم التنزیل“، وغیرہ کی تباہی میں بھی آیت کریمہ: ”أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَاءٌ عَلَيْهِمْ

النَّجْ، کے ذیل میں مذکور ہیں، نیز ”نہایہ“ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک استفقاء اور اس کا جواب، ”رکیک تاویلات“ کرنے والے کا حکم: ”فتاویٰ عزیزی“ میں ج: اص: ۶۱۵ پر فرماتے ہیں:

**سوال:** زید حدیث شریف کے معنی میں ایسی رکیک اور بے صرہ پاتا تاویلات کرتا ہے جن سے حدیث کا انکار لازم آ جاتا ہے، فقہی احکام کی رو سے زید پر کیا گناہ لازم آتا ہے؟ بیان فرمائیں!

**جواب:** قرآن و حدیث کی تفسیر اور معنی بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے علم صرف دخواں و غفت و اشتقاق، معانی و بیان اور علم فقه، اصول فقه، عقائد و کلام، نیز احادیث و آثار، تاریخ و سیرت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان علوم کو حاصل کئے بغیر قرآن و حدیث کے معنی بیان کرنے کی جرأت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہر صاحب مذهب قرآن و حدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت پر) استدلال کرتا ہے اور اپنے منافقین کے شہادت (واعترافات) کا جواب، یعنی کے لئے تاویل پر مجبور ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اپنے مذهب کے موافق تاویل کو حق سمجھتا ہے (کہ جو مطلب قرآن و حدیث کا میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے) اور اپنے مذهب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے (ایسی صورت میں) حق و باطل کی معرفت کا معیار ”صحابہ رض“ نے آنحضرت ﷺ سے بالمشافہ تعلیم کے وقت حالی اور مقابی قرآن کی مدد سے جو کچھ سمجھا، اور حضور ﷺ نے اس کی صراحت تغطیہ نہیں فرمائی، وہی حق ہے اور واجب القبول۔

لہذا یہ رکیک تاویلات کرنے والا اگر پہلے فرقی سے ہے (یعنی علوم ضروری کی تعلیم سے کوڑا اور نداونی و اقتہاب ہے) تو اس کے حق میں تو (احادیث میں) شدید وعید آئی ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”من فسر القرآن برایہ فلیتبوء مقعدہ من النار“

(اتحاف: ج: اص: ۲۵۲ مطبوعہ دارالفنون، دہلی) ترمذی: ج: ۲، پس: ۱۱۹، ابواب اثیریہ)

ترجمہ: ”جسم شخص نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس کو چاہنے کے وہ اپنا شکرانہ جہنم کو بنائے“ اس معاملہ (بیان مراد) میں قرآن و حدیث کا حکم ایک ہے، اس لئے کہ انہی دو دین کی بندیاد قائم ہے، علاوہ ازیں عربی زبان میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی، ظاہر بھی ہے اور مowell بھی، ناخ بھی اور منسوخ بھی (تو ایک جاہل انسان کس طرح ان میں سے کسی ایک کو متعین کر سکتا ہے؟ اور اس کا فیصلہ اور سمجھ کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ -

اور اگر یہ تاویل کرنے والا دوسرے فریق میں سے ہے (یعنی علوم مذکورہ کا عالم ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعینہ کے بیان کردہ معنی اور مراد کے خلاف کوئی اور معنی و مراد بتاتا ہے) تو یہ شخص "مبتدع" ہے لہذا اس کی بدعت (تاویل) پر غور کرنا پڑے گا، اگر قطعی دلائل یعنی متواتر نصوص اور قطعی اجماع کے خلاف تاویل کرتا ہے تو اس کو کافر سمجھنا چاہئے اور اگر ظنی یعنی قریب بے یقین دلائل کا خلاف کرتا ہے، مثلاً حدیث مشہور اور اجماع عرفی کا مخالف ہے تو اس کو فاسق اور گمراہ کہا جا سکتا ہے کافرنیس، اور اگر اختلاف کرنے والا ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہے تو اس کے اختلاف کو "اختلاف امتی رحمة" کے قبیل سے سمجھنا چاہئے۔

لیکن ان تینوں مرتبوں اور فریقوں میں فرق و امتیاز کرنے کے لئے بہت بڑے وسیع علم کی ضرورت ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ رکیک تاویلات کرنے والا شخص زید جاہلوں اور نادانوں کے فریق میں سے ہے، لہذا اس کو "امر بالمعروف اور نہی عن الممنوع" کے سلسلہ میں جوز جزو و عید اور جنہی ہونے کا اتحاق احادیث میں وارد ہوا ہے اس سے آگاہ کر کے اس برے کام سے باز رکھنا چاہئے، اور عوام الناس کو خت تاکید کر دینی چاہئے کہ اس شخص سے گفتگو نہ کریں اور نہ اس کی بات نہیں۔ اور اگر یہ دوسرے فرقے (مبتدع) میں سے ہے اور اس کا مذہب معلوم ہے، مثلاً وہ رافضی، خارجی، یا معتزلی ہے، یا فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتا ہے تو عامۃ المسلمین پر اس کے مذہب و مسلک کی حقیقت کو ظاہر کر دینا چاہئے (تاکہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی بات نہ نہیں) اور اگر وہ اپنے گمراہ عقائد کو مسلک اہل حق کے لباس میں پیش کرتا ہے اور چھپاتا ہے تو اس کی تاویلات و توجیہات وہمارے پاس لکھ کر بھیج دیں، تاکہ ہم اس کا حکم لکھ کر روانہ کر دیں۔

والسلام!



## مسجدوں سے محدود کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت

**حدیث سے ثبوت** مصنف علیہ ارجمند فرماتے ہیں کہ تفسیر "روز المعانی" وغیرہ میں آیت کریمہ: "سُنْعَدَبِّهِمْ مَرْتَبَنِ" کی تفسیر کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مذکور ہے، ابن الہی خاتم نبیوں نے اور طبرانی نبیوں نے اوسط میں اور ان کے ملاد و دوسرے محدثین نے اس کی تخریج کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اسی اثنامیں آپ ﷺ نے فرمایا: "اے فلاں تو کھڑا ہو تو منافق ہے، ابھی مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو کھڑا ہو، تو بھی منافق ہے، ابھی مسجد سے نکل جا۔" غرض آپ ﷺ نے ایک ایک منافق کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا اور علی الاعلان رسول فرمایا: "ا

ابن مردویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"اس روز حضور ﷺ نے منبر پر کھڑے کھڑے ۳۶ منافقوں کو نام بنام کھڑا کر کے مسجد سے

نکال دیا۔ ①

تفسیر "ابن کثیر" میں بھی یہ روایت مذکور ہے، ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے "سیرت" میں ان منافقوں کا نام بنام اس طرح ذکر کیا ہے کہ تمام مجرم الگ اور ممتاز ہو گئے اور نام گنانے کے بعد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ "یہ منافق مسجد نبوی میں ہمیشہ آیا کرتے اور مسلمانوں کی باتیں سن کرتے تھے (اور مجرمی کرتے تھے) نیز مسلمانوں کا اور ان کے دین کا (آپس میں) مذاق اڑایا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن اس گروہ کے کچھ آدمی مسجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ ﷺ نے دیکھای لوگ سر سے سر ملاٹے چکے چکے باتیں کر رہے ہیں، اس پر حضور ﷺ نے ان کو مسجد سے نکال دیئے کا حکم دیا، چنانچہ بڑی تھی ساتھ یہ لوگ مسجد سے نکال دیئے گئے۔

مصنف علیہ ارجمند فرماتے ہیں: یہی نہیں بلکہ اس شخص (ذوالخویصرہ) کے لئے تو نماز کی حالت میں قتل کردیئے کا حکم دینا بھی ثابت ہے، جس کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا تھا: "یہ اور اس کے ساتھی قرآن تو

① حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ دھرت کعب رضی اللہ عنہ صدیث میں یہ بھی تحریک ہے۔ وہ (من فتحین) اس کے ساتھ ممتاز ہو گئے (گاہ سرخ پیشائی کی طرح نکوئی نہیں) اسی پر تفسیر کی "صحیح بخاری" میں ہے ۶۲۲ پر "نحو و مثوب" میں اسی طرز تحریک ہے۔ حذیفہ بن عبید اللہ کی روایت میں بھی موجود ہے، وہ یعنی "صحیح بخاری" (ع ۲۸۳۹۔ ۲۸۴۰) (بہذا حدیث میں ولی کا نہیں یہ بحتم)

پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے حلقوم سے آگے نہیں بڑھتا، یہ لوگ دین سے غیر محسوس طریق پر نکل جائیں گے۔” (مگر وہ شخصاتفاق سے کہیں غائب ہو گیا، اس لئے فتح گیا) امام احمد بن حنبل نے ”مسند احمد“، ج: ۳، ص: ۱۵ پر اس روایت کی تخریج کی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی ”فتح الباری“ میں ج: ۱۲، ص: ۲۶۵ پر فرماتے ہیں۔

”اس روایت کی سند بہت عمدہ ہے، اور جابر بن الشاذ کی روایت اس کی مowitzہ ہے، جس کی تخریج ابو یعلی نے اپنی مسند میں کی ہے، اس کے راوی بھی سب شفہ میں۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: بلکہ ”کنز العمال“، ج: ۵، ص: ۲۹۸ اور ”مستدرک حاکم“، ج: ۳، ص: ۲۵ میں ابن بی سرخ وغیرہ کو تو مسجد حرام میں بھی قتل کر دینے کا حکم وارد ہے۔ یہ ابن بی السرخ مردود کہا کرتا تھا کہ: ”اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس وجہ آتی ہے تو میرے پاس بھی ضرور وجہ آتی ہے۔“ ①

**قرآن سے ثبوت:** مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ②: قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد

① حضرت مصنف رحمہ اللہ میں اسطور میں (سطروں کے درمیان) لکھتے ہیں ”شرح مواہب“ (الدیوب) گے اندر باب ”فتح مسجد“ کے ذیل میں بھی (یہ واقعہ) اسی طرح بیان کیا ہے، اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے ”قیوی این تیمیہ“ کی پوچھی جدید میں صفحہ ۲۴۹ پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پچھہ لکھا ہے۔

② نیز حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں (قادیانیوں) میں سے ایک محدث سے مجھے سابقہ پڑا، اس نے کہا ”ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے اور قرآن میں آیا ہے ”ومن اظلم ممن معن مساجد اللہ۔ اخ“ (اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں (میں داخل ہونے سے مسلمانوں) کو روکے (اور منع کرے)۔“ میں نے اس کے جواب میں کہا ”ہمارا بھی قرآن پر ایمان ہے اور قرآن میں آیا ہے ”ومن اظلم ممن الفری علی اللہ کربلا او قال اوحى الی ولم يوح اليه شيء“ (اور اس سے بڑھ کر ظالم (کافر) کون ہے جو اللہ پر بہتان لگائے (کہ اللہ نے مجھے نبی با کر بھیجا ہے) یا یہ کہے (عوی کرے) میرے پاس وہی بھی گئی ہے اس لئے اس کے پاس مطلق کوئی وجہ نہیں بھیجی گئی تو آیت سن کو وہ کافر بہوت ہو گراہی گیا، جیسے اسے سانپ سوکھا گیا۔ یہ یوپی کے مشہور شہر میرٹھ کا واقع ہے، وہاں مسلمانوں نے قادیانیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کہ تم مسلمان نہیں کافر ہو، تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مرزا جیوں نے مسلمانوں کے خلاف عدالت میں دعویی دائر کر دیا، حاکم عدالت ایک عیسائی چل تھا، اس نے کہا ”میں فریضیں کے حلاط کے بیانات سننا چاہتا ہوں۔“ چنانچہ مرزا جیوں کے بڑے بڑے جغاڑی مناظر جمع ہو گئے اور عدالت میں مناظر ہٹلے پا یا۔

مسلمانوں نے حضرت شاہ صاحب تو رحمہ مرتضیہ کو دیوبند سے بلایا، آپ معااملہ کی نزاکت محسوس کر کے مقررہ تاریخ پر یہ رسم تشریف لے آئے، مرزا جیوں کی طرف سے مشہور و معروف پرانا گھاگھر مرزا جی مظاہر تھا، اس نے عدالت کے کمرے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ حذف و رہنمایا۔ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے مقابلہ میں مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، یا اقدام قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسی آیت پڑھی اور ممتازت و وقار کے ساتھ حکم ہے ہوئے اور اس کے جواب میں رد و رد بالا وسری آیت پڑھ دی کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لئے کہ تم مرزا غلام احمد کو صاحب وحی والہام نبی مانتے ہو، اس لئے اس آیت کریمہ کی وسیع سے مرزا بھی کافر اور تم بھی کافر ہو، لہذا مسلمان تم کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنے میں بالکل حق، بجانب ہیں، اس لئے ”قرآن“ کریمہ آیت کریمہ ”الْيَوْمَ يَعْمَلُ مَساجِدُ اللَّهِ مِنْ أَمْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ“ میں مسجد میں داخل ہونے کے حق کو ممنون کے انہ، محمد و دو تھیں کردا ہے، مسلمان قرآن کے اسی صریح حکم پر عمل کر رہے ہیں، اس لئے بحکم قرآن تم مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ تقریباً اور انتداب میں اس کی مشتمل منظرہ کی ایسی سی گھم بھولی کہ جواب میں ایک انتظام کے بغیر جو اے بغل میں دا بکری جادو وہ جانچے مقہمہ میں خارج آرہی اور مرزا جی اس واقعہ کے بعد ایسے ذیلیں خوار ہوئے کہ: جوں کسی کے سامنے خود کو مرزا جی کی جنگی کی جدائی نہیں ہوئی۔

فرماتے ہیں:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ  
أُولَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدَ اللَّهِ  
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّى الزَّكُوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ  
فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ﴿١٨﴾ (سورۃ التوبہ: ۱۷، ۱۸)

ترجمہ: ..... ”مشرکوں کو اپنے خلاف کفر کی شہادت دینے ہوئے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی  
مسجدوں کو آباد کریں ..... اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جو اللہ اور یوم قیامت  
پر ایمان رکھتے ہیں ..... الحج۔“

فرماتے ہیں: اور اگر بالفرض یہ کوئی مسجد تعمیر کرتے بھی تو وہ شرعاً مسجد نہ ہوتی (جیسے مسجد ”ضرار“  
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھاوی گئی اس لئے کہ وہ مسجد نہ تھی)

جو مستحق تکفیر ہے اس کا حکم مرتد کا سا ہے: ..... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”تنویر  
الابصار“ میں ”ذمیوں کی وصیتوں“ کے ذیل میں فرماتے ہیں:  
”گمراہ فرقہ کا کوئی آدمی اگر اپنی گمراہی کی بنابر تکفیر کا مستحق نہیں ہے تو وصیت کے بارے میں اس  
کا حکم مسلمان کا سا ہے، اور اگر تکفیر کا مستحق ہے تو اس کا حکم مرتد کا سا ہے (کہ اس کا کوئی تصرف معبر  
نہیں ہوتا)۔“



## خلاصہ کتاب

تصنیف رسالہ لہذا کا مقصد: ..... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ رسالہ مذکورہ ذیل احکام  
شرعیہ کو ثابت کرنے کیلئے لکھا گیا ہے:

ا: ..... ضروریات دین (دین کے قطعی اور یقینی عقائد و احکام) میں کوئی تصرف، تاویل اور ان کی  
جو مراد اب تک امت نے سمجھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد، بتانا، اور ان کی جو عملی صورت تو اتر سے  
ثابت ہے، اس سے نکال دینا، سب کفر کا موجب ہے، اس لئے کہ وہ لفظی یا معنوی متواتر نص جس  
کے معنی اور مراد کھلی ہوئی اور واضح ہو (جس طرح کے الفاظ اور معنی متواتر ہوتے ہیں، ایسے ہی) اس کی

مراد بھی متواتر ہوتی ہے، لہذا اس مراد میں کوئی بھی تاویل کرنا (اور مراد کو بدلتا) شریعت کے ایک یقینی امر کو رد کرنے کے مراد ف اور کھلا ہوا کفر ہے) اگرچہ منوول (براہ راست) صاحب شریعت کی تکذیب یا اس کا ارادہ بھی نہ کرے۔

۲:..... اور یہ کہ اس شخص کا حکم یہ ہے کہ (یہ کافر ہو گیا) اس سے توبہ کرائی جائے (اگر تو بہ نہ کرے تو کفر کا حکم لگا دیا جائے، اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے)۔

ایک زعم باطل کی تردید: بعض علماء کا خیال ہے کہ (محض توبہ کے لئے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حد تک سمجھانا ضروری ہے کہ) اس کے دل میں یقین ذال دیا جائے اور کلی طور پر اس کو مطیع کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر وہ راو عناد اختیار کرے تب کفر کا حکم لگایا جائے ورنہ نہیں۔

مصطفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ خیال قطعاً باطل ہے، اس لئے کہ اس نظریہ کے مطابق تودین کی کوئی محکم اور غیر متبدل حقیقت ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ دین محس انسانی رائے اور خیال کے تابع ہو کر رہ جاتا ہے اور نظر و فکر ہی دین کا مدار ہن جاتے ہیں (گویا جس زمانہ کے اوپر اپنی رائے اور قیاس کے مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے بس وہی دین ہو گا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ "ضروریات دین" کا علیٰ حال ہا برحق ہونا ایک طے شدہ حقیقت اور افہام و تفہیم سے پالا تر ہے (کسی کے باور کرنے نہ کرنے پر قطعاً موقوف نہیں) جوان پر (بے چوں و چرا) ایمان لے آئے اور ان کو حق مان لے وہ اللہ کے دین کا تبع اور منہوم ہے، اور جوان کا انکار کرے اور نہ مانے (خواہ کسی بھی وجہ سے نہ مانے) وہ کافر ہے، خواہ کفر کا قصد کرے یا نہ کرے، (جیسا کہ آیت کریمہ: الراسخون فی العلم یقولون ... اخ، اس پر دال ہے کہ "سمجھ میں آنے نہ آنے" پر ایمان کا مدار نہیں ہے) صرف اجتہادی (اور اختلافی) مسائل میں رائے و قیاس (اور نظر و فکر) پر مدار ہوتا ہے (کہ جرالائق اجتہاد عالم دین اپنی سمجھ اور رائے کے مطابق نصوص شرعی کی جو مراد اور معنی متعین کرتا ہے، اسی کو مانتا ہے اور اختیار کرتا ہے)

اور "ضروریات دین" کے باب میں توجیے حلق اشیاء کے منکر "عنادیہ" اور "عندیہ" کہلاتے ہیں اور ان میں شک اور تردود کرنے والے "لا ادریہ" اور "شاک" کہلاتے ہیں، ایسے ہی "ضروریات دین" کے منکریں "معاندیں" اور "ملحیں" کہلاتے ہیں، اور ان میں شک و تردود کرنے والے "مترد دین" اور "منافقین" کہلاتے ہیں، اور سب کافر ہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ، جہل عذر نہیں ہے: ..... فرماتے ہیں: اور جن علماء نے کلمہ کفر سے ناواقفیت (کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے) کو عذر قرار دیا ہے، ان کی مراد ضروریات

دین کے علاوہ دوسرے امور شرعیہ ہیں (مثلاً مسائل اختلافیہ یا نظریہ کہ ان میں ناواقفیت کی صورت میں منکر کو کافرنیس کہا جاسکتا) جیسا کہ "امر ثالث" کے ذیل میں ہم "فتح الباری" کی عبارتوں کے فوائد کے سلسلہ میں اس پر منتبہ کر چکے ہیں، اسی طرح "الاشابہ والنظائر" اور اس کے حاشیہ کی نقول کے ذیل میں بھی اس کی تصریح گز رچکی ہے، ان تصریحات، کے علاوہ "خلاصة الفتاوى" میں فرماتے ہیں:

"وجوه کفر میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے اپنے قصد و اختیار اور مرضی سے (کسی کے دباؤ یا جر سے نہیں کہتا) تو جمہور علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہے اور ناواقفیت کی بنا پر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا صرف بعض علماء اس کے مخالف ہیں (اور وہ اس شخص کو "معذور" سمجھتے ہیں اور کافرنیس کہتے ہیں)"

"مجمع الانہر" میں "البحر الرائق" پر استدرائک (تنقید) کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"لیکن "درر" میں تصریح کی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہنے والا اگر اپنے اختیار اور مرضی سے کہتا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو (کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے) یا اس بات کو نہ جانتا ہو (کہ یہ کلمہ کفر ہے) اور ناواقفیت کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ صاحب "درر" نے اس قول کو "محیط" کے باب "الکرحة" اور باب "الاتحسان" کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اور یہ اختلاف (کہ ناواقفیت عذر ہے یا نہیں؟) ضروریات دین کے علاوہ دیگر امور (اجتہاد یہ) میں ہے، ضروریات دین میں تو کلمہ کفر کہنے والے کا حکم صرف یہ ہے کہ (وہ کافر ہے) اس سے توبہ کرائی جائے (اگر توبہ کر لے تو فہماونہ کافر قرار دے دیا جائے) باقی یہ (کلمہ کفر کہنے والی اگر) عورت ہو تو اس سے صرف توبہ کرائی جائے گی۔"

**مرتد مرد و عورت کا حکم:** ... حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں فرماتے ہیں:

"معاذ بن جبل رض کی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو یہیں (کا حاکم بن کر) بھیجا تو فرمایا: جو مرد اسلام سے پھر جائے (اول) اس کو اسلام لانے کی دعوت دینا، اگر وہ باز آجائے (اور از سر نو مسلمان ہو جائے) تو فہماونہ اس کی گردان مار دو، اسی طرح جو عورت اسلام سے پھر جائے اس کو بھی اسلام لانے کی دعوت دو، اگر اسلام لے آئے تو فہماونہ اس کو بھی قتل کر دو۔"

حافظ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند "حسن" (اچھی) ہے۔

حافظ جمال الدین زیلیعی نے بھی اس حدیث کو تخریج ہدایہ (النصب المرایہ) میں مسئلہ ثانیہ کے تحت ”مججم طبرانی“ کے حوالے سے نقل کیا ہے، مگر اس میں (مرتد عورت سے) صرف توبہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں ہے)۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرتد عورت کے بارے میں احناف کامہ ہب یہی ہے (کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے) الایہ کہ مذکورۃ الصدر حدیث (جس میں مرتد عورت کے قتل کا حکم ہے) کا مصدق، سب و شتم کرنے والی عورت کو قرار دیا جائے، اس لئے کہ ”در مختار“ باب ”جزیہ“ کے آخر میں امام محمد سے سب و شتم کرنے والی عورت کو قتل کر دینے کی صریح روایت موجود ہے، (الہذا معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو اسی پر محمول کیا جائے) صاحب ”در مختار“ بحوالہ ”ذخیرہ“، نقل کرتے ہیں کہ امام محمد نے سب و شتم کرنے والی عورت کے قتل کر دینے پر عمر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے استدلال کیا ہے (اسی حدیث میں آتا ہے) کہ عمر بن عصما، بنت مروان کے متعلق سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (گالیاں دیتی اور) ایذ اپنچھاتی ہے تو ایک دن رات کو (موقع پا کر) اسے قتل کر دیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رحمۃ اللہ علیہ کی (غیرت ایمانی کی) تعریف فرمائی۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ: اس روایت اور استدلال کو یاد رکھنا چاہئے (بہت کار آمد ہے) زیلیعی کی طرح ”کنز“، میں ج: ۳ ص: ۹۱ پر یہی مذکور ہے، چنانچہ مصنف ”کنز“، ج: ۳ ص: ۹۱ پر اشافی شرق کے حوالے سے قابوس بن مخارق کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو دو مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ: ”یہ زندیق ہو گئے ہیں۔“ الی آخرہ، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ: ”جو دو آدمی زندیق ہو گئے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو فہا اور شانہیں قتل کر دو۔“ حافظ زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”تخریج“، میں باب ”مسکوت المکاتب او بجزہ“ کے ذیل میں مذکورہ بالا روایت کی تخریج کی ہے، مگر اس میں صرف توبہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ (تمام مذکورہ بالا روایات کو سامنے رکھ کر) فرماتے ہیں: انسان کی قدرت میں تو یہی ہے (کہ توبہ کرالے، ایمان دل میں ذال دینا اور مطمئن کر دینا تو خدا کا کام ہے، الہذا مذکورہ علماء کا نظریہ ”تکمیل صدر“، صحیح نہیں، کیونکہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے)

دللوں میں ایمان ڈالنا اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف توبہ کرانے کے مامور ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح بخاری“، ج: اص: ۱۸ کتاب الحلم میں ابو موسی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جس ہدایت (دین) اور علم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجی ہے، وہ اس موسلا دھا بارش کی مانند ہے جو کسی خطہ زمین پر بر سی تو جو عمدہ اور صاف ستحی (زمینیں تھیں انہوں نے تو پانی کو اچھی طرح جزب کر لیا اور ان میں خوب گھاس چارے وغیرہ کی پیداوار ہوئی، اور کچھ سنگا خ زمینیں تھیں، انہوں نے پانی اپنے اندر رک لیا (اور اُڑھتے تاب حوش و غیرہ پانی سے بھر گئے) اور لوگوں نے خود بھی پیا، مویشیوں کو بھی پلائیا اور رکھتے ہوئے ان سے سیراب آیا، اور پانچھ چیل میدان تھے (نہ انہوں نے خود پانی جذب کیا کہ رو تبدیل گی ہوتی اور نہ ہی ان میں پانی نہ سہر سکا کہ مخلوق اس سے سیراب ہوتی)۔“ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھی اور فہم و فراست حاصل کر لی اور میری آورده تعلیمات نے اس کو نقع پہنچایا، چنانچہ اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھایا، اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم دین کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جو میں لے کر آیا ہوں۔“

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دیکھئے! اس حدیث میں، دین و ایمان یا کفر و خذلان کا مدار قبول کرنے یا نہ کرنے پر رکھا ہے، جو اپنی اپنی فطرت کے مطابق انسانوں کا اپنا اختیاری فعل ہے، نہ کہ دلوں میں ایسا ایمان و یقین پیدا کر دینے پر کہ جس کے بعد بس جو دوعنا د کا مرتبہ ہی رہ جائے، اسی لئے بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے بعد بھی اعراض و انکار کرنے سبھی ہدیت دھرمی اور ضد (جو دوعنا د) ہے، خواہ منکر کا قصد دعا د ہو یا نہ ہو، (یعنی دعوت تبلیغ حق کے بعد اعراض و انکار کرنا ہی جو دوعنا د ہے)۔

مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کا یہ شعر اسی حدیث کی تمثیل پر مبنی ہے:

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لالہ روید و در شورہ بوم و خس

ترجمہ: ..... وہ بارش جس کی طبیعی لطافت اور خوبی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اسی بارش سے باغ در باغ میں لالہ و گل اگتے ہیں اور شور و بخراز میں میں خارز اور جھاڑیاں۔

(جیسے یہ زمینوں کی سرست کافرق ہے، ایسا ہی فرق کافرا اور مسیحیوں کی فطرت میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے: یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، میں اسی فرق کو واضح فرمایا ہے)

شیخ ابن ہمام ”تحریر الاصول“ میں منکر رسالت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”شہوت شہوت کے متواتر دلائل کے بعد رسالت کا انکار کرنے والے سے کسی مناظرہ کی خروجت نہیں، بلکہ تو بہ شہ کرے تو ہم اس تقول کردینے کا حکم دے: میں گے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مختصر یہ ہے کہ تبلیغ حق سے زیادہ ہم پر اور کچھ لازم نہیں، جیسا کہ کافروں سے جہاد کے وقت صرف اسلام کی دعوت کافی ہے۔

## توبہ کس سے کرائی جائے؟ اور کس سے نہیں؟

### حضرت علیؑ کا فیصلہ

فرماتے ہیں: اور یہ مسئلہ تو تمام ائمہ دین سے متفقہ طور پر منقول ہے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ "الصارم المسلول" میں فرماتے ہیں:

"اس مسئلہ کے ثبوت کے لئے (کہ مرتد سے توبہ کے لئے کہنا بھی ضروری نہیں) ابو اور لیں کی مذکورہ ذیل روایت کافی ہے:

ابو اور لیں خواںی کہتے ہیں کہ حضرت ملیؓ کے سامنے چند ایسے زندیق لوگ پیش کئے گئے جو اسلام سے پھر گئے تھے، حضرت علیؓ نے ان سے دریافت کیا (کہ کیا واقعی تم لوگ دین سے پھر گئے ہو؟) انہوں نے (ارتکاب جرم سے) صاف انکار کر دیا، تب (استغاثہ کی جانب سے) ان کے خلاف شفہ اور عادل گواہ پیش کئے گئے، حضرت علیؓ نے (ان گواہوں کی شہادت کی بنابر) ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان سے توبہ نہیں کرائی (اس لئے کہ وہ پہلے ہی جھوٹا انکار کر چکے تھے، ایسے ہی جھوٹی توبہ بھی کر لیتے) ابو اور لیں خواںی کہتے ہیں۔ کہ ایک نصرانی کو بھی پیش کیا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا اور پھر اسلام سے پھر گیا تھا، حضرت علیؓ نے اس سے بھی دریافت کیا (کہ کیا تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) اس نے جو جرم (مرتد اور) اس سے سرزد ہوا تھا، اس کا اقرار کر لیا، تو آپ نے اسے توبہ کے لئے کہا، (اس نے توبہ کر لی) تو اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت علیؓ سے سوال کیا گیا کہ: یہ کیا بات ہے؟ آپؓ نے اس نصرانی سے توبہ کرائی اور ان زندیقوں سے توبہ نہیں کرائی، حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ: اس نصرانی نے تو اپنے جرم کا اقرار کر لیا (اس لئے میں نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی کہ یہ سچا ہے) اور ان لوگوں نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، بلکہ صاف انکار کر دیا (اور جھوٹ بولا) یہاں تک کہ ان کے خلاف عادل گواہ پیش ہوئے (اور ان کی شہادت سے ان کا جرم اور جھوٹ ثابت ہو گیا) اسی لئے میں نے ان سے توبہ نہیں کرائی (کہ یہ جدت شرعیہ سے جھوٹے ثابت ہو چکے، ان کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں)۔

امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو ابو اور لیں خواںیؓ سے روایت کیا ہے اور انہیں ابو اور لیں خواںیؓ سے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو نصرانی ہو گیا تھا، حضرت علیؓ نے اس سے نصرانیت سے توبہ کرنے کے لئے فرمایا، اس نے توبہ

کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت علیؓ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک رہب پیش کیا گیا جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے حالانکہ وہ زندقی اور بے دین تھے اور ان کے زندقیں ہوئے پر واد فاتحہ ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اس جرم (زندق) کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہمارا دین تو صرف اسلام ہی ہے (مگر یہ جھوٹ تھا)، حضرت علیؓ نے ان کو قتل کر دیا (اور ان سے توبہ کے لئے نہیں کہا) اس کے بعد حضرت علیؓ نے فرمایا: آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس نصرانی سے توبہ کے لئے کیوں کہا؟ (اور زندقوں سے کیوں نہیں کہا؟) میں نے اس نصرانی سے توبہ کے لئے اس لئے کہا کہ اس نے اپنادین صاف ظاہر کر دیا (اور جھوٹ نہیں بولا) اس کے برعکس یہ زندقی جنے خلاف عادل واد فاتحہ ہو چکے تھے (اور ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا پھر انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا) (اور ارتکاب جرم سے صاف انکار کر دیا) اس لئے میں نے ”بینہ“ (شرمنی گواہ) فاتحہ ہو جانے کے باوجود انکار جرم کرنے پر ان کو قتل کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حضرت علیؓ کا یہ فیصلہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جو زندق اپنے زندقہ کو چھپائے گا اور ارتکاب جرم سے انکار کرے گا اور اس کے خلاف گواہ فاتحہ ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس سے توبہ کے لئے بھی نہیں گہا جائے گا (اس لئے کہ وہ شرعاً مردود القول ہو چکا، اس کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں)۔

**ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب:** مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اگر وہی جاہل معتقد ہے کہ کسی منکر کو مسکت دلائل سے عاجز کئے بغیر قتل کردیں اعدال پروردگار کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: اگر ایسا ہے تو مسکت دلائل سے عاجز آرہ دینے کے بعد بھی قتل کرنا اعدال کے منافی ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس کو ہدایت اور قبول حق کی توفیق یعنی بغیر قتل کرنے بھی اعدال پروردگار کے منافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی وسو سے ہیں ان سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے اور ”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“ پڑھنا چاہئے۔

اس رسالہ کی تایف کا مقصد تذکورہ بالا ہی تھا، مگر اس مسئلہ ”تاویل“ پر بحث کے وہ ران چھا اور بھی مفید نقول اور حوالے بیان ہو گئے ہیں، جو اہم ترین فوائد سے خالی نہیں، مثل مشہور ہی ہے: ”بات سے بات نکل آتی ہے۔“ اسی لئے اور بھی مناسب و متعلقہ امور بیان کر دیجئے گئے ہیں جو ان شاء اللہ ناظرین کے کام آئیں گے۔

**آخری تنبیہ:** ..... فرماتے ہیں: بہر حال سن لیجئے! جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا اور اس کے کفر سے چشم پوشی کرنا بھی دین کے خلاف ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے (مسلمان کو مسلمان کہئے اور کافر کو کافر) اس زمانہ میں عام طور پر لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں (ایک طرف اچھے بھلے مسلمان کو کافر بنانے میں مصروف ہیں دوسری طرف کھلے ہوئے کافروں کو مسلمان کہنے اور ان کو سینہ سے لگانے میں منہمک ہیں) بے شک چ کہا ہے جس نے کہا ہے : ”جاہل یا حاد افراط پر جا چڑھتا ہے یا حاد تفریط میں گر پڑتا ہے۔“



## خاتمه


حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ حاشیہ میں فرماتے ہیں:

”یہ مضمون ختم اور رسالہ تمام ہوا، اس رسالہ کی تحریر سے مقصد صرف اہل علم سے منواف  
کے حق میں حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی دعواتِ صالح حاصل کرنا ہے اور بس۔

میں ہوں احتقر محمد انور شاہ، ابنِ معظم شاہ، ابنِ الشاہ عبدالکبیر، ابنِ الشاہ عبدالحق، ابنِ  
الشاہ محمد اکبر، ابنِ الشاہ حیدر، ابنِ الشاہ محمد عارف، ابنِ الشاہ علی، ابنِ الشیخ عبداللہ، ابنِ الشیخ  
مسعود الزوری الکشمیری۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائیں۔“

شیخ زوری کے فرزند جلیل کے قلمی مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

”ان کے والد بزرگوار بغداد سے تحریر کر کے ہندستان آئے، اول ملتان ٹھہرے،  
اس کے بعد لاہور منتقل ہو گئے، اور لاہور سے کشمیر آ کر آباد ہو گئے، واللہ اعلم!“  
۱۳۲۳ھ کے صرف چند ہفتوں میں اس رسالہ کی تالیف و ترتیب سے فراغت ہوئی۔



## فهرست كتب حواله

### “اكفار الملحدين”

مع اسماء مصنفین و سنین وفات

#### ـ

- البحر الرائق: علامہ ابن نجیم (١٩٧٠ھ)
- بدائع الصنائع: ابو بکر الکاسانی (١٥٨٤ھ)
- بدائع الفوائد: علامہ ابن قیم (١٧٥١ھ)
- بزاریه: حافظ الدین محمد بن محمد المعروف با بن البراز الکردی الحنفی (١٧٢٤ھ)
- بغية المرتاد: حافظ ابن تیمیہ (١٧٢٨ھ)
- البنایة: علامہ عینی (١٨٥٥ھ)

#### ـ

- تاریخ ابن عساکر: علامہ ابن عساکر (١٥٧١ھ)
- التحریر: الشیخ ابن الہمام (١٨٦١ھ)
- تحفة الباری: شیخ الاسلام زکریا الانصاری (١٩٢٥ھ)
- تحفة المحتاج لشرح المنهاج: علامہ ابن حجر یشمی (١٩٢٣ھ)
- الترغیب والترہیب: الحافظ المند ری (١٩٥٢ھ)
- التصريح بما تواتر فی نزول المسیح: للمؤلف رحمہ اللہ (١٣٥٢ھ)
- التفرقة بین الایمان والزنادقة: علامہ غزالی (١٨٣٠ھ)

#### الف

- الاتحاف: علامہ زیدی (١٢٠٥ھ)
- الاتقان: علامہ سیوطی (١٩١١ھ)
- احکام القرآن: قاضی ابو بکر بن عربی (١٥٣٣ھ یا ١٥٣٦ھ)
- الاحکام: علامہ آمدی (١٦١٣ھ)
- احکام القرآن: قاضی ابو بکر جصاص (١٣٧٠ھ)
- ازالة الخفاء: شاه ولی اللہ دہلوی (١٧١١ھ)
- الاسماء والصفات: علامہ ابو بکر بن حنفی (١٧٥٨ھ)
- الاشباء والنظائر: علامہ ابن نجیم (١٩٧٠ھ)
- الاصل: امام محمد (١٨٩٦ھ)
- اصول بزدوى: فخر الاسلام البرز دوى (١٣٨٢ھ)
- الاعلام: ابن حجر یشمی (١٩٢٣ھ)
- اقامة الدليل: الحافظ ابن تیمیہ (١٧٢٨ھ)
- الاقتصاد: علامہ غزالی (١٥٠٥ھ)
- الام: امام شافعی (١٢٠٣ھ)
- ایشار الحق: الحکیم محمد بن ابراہیم الوزیر الیمنی (١٣٥٢ھ)

ح

حاشية عبد الحكيم على الخالي: عبد الحكيم  
سيالكوئي (تقریباً ١٤٠٤هـ)

خ

الخانية: قاضی خان (ویکھنے فتاویٰ قاضی خان)  
(١٤١٢هـ)

خرزانة المفتیین: حسین احمد محمد السعائی الحنفی  
(فرغ من التصنیف ١٤٣٧هـ)  
الخصائص: امام نسائی (١٤٣٠هـ)

خلاصة الفتاویٰ: شیخ طاہر بن احمد بن  
عبد الرشید بخاری (١٤٥٢هـ)

خلق افعال العباد: امام بخاری (١٤٣٥هـ)  
الخیریۃ (فتاویٰ الخیریۃ): علامہ خیر الدین الرملی  
(١٤٠٨هـ)

د

دائرة المعارف: فرید وجدی

الدرر (درر الحکام فی شرع غدر  
الحاکام): المولی محمد بن فراموز الشیر بموی خر  
والحنفی (١٤٨٥هـ)

الدر المختار شرح تنویر الابصار: علاء  
الدین محمد بن علی الحنفی (١٤٠٨هـ)

الدر المتنقی: محمد بن علی الملقب بعلاء الدین  
الحنفی (١٤٠٨هـ)

(٥٥٥هـ)

تفیر ابن کثیر: الحافظ ابن کثیر (١٤٢٣هـ)

تفسیر النساپوری: اسمائل بن احمد نیشاپوری  
الضریر (١٤٣٠هـ)

التقریر: ابن امیر الحاج (١٤٨٢هـ)

التلخیص الحبیر: الحافظ ابن حجر العسقلانی  
(١٤٨٥هـ)

تلخیص المستدرک: علامہ ذہبی (١٤٣٨هـ)

التلویح: الفتازانی (١٤٩١هـ)

التمهید (فی بیان التوحید): ابو شکور محمد بن  
عبدالسید الکشی السالمی الحنفیتنویر الابصار: متن الدر المختار: السيد محمد  
بن خلیل الطرا بلسی المعروف بالقاوچی (١٤٨٥هـ)

تهذیب الآثار: علامہ طبری (١٤٣٠هـ)

تهذیب التهذیب: علامہ ابن حجر العسقلانی (١٤٨٥هـ)

التوضیح: علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود  
الجموی (١٤٢٧هـ)ج

الجامع الصحيح: امام ابو عیسیٰ ترمذی (١٤٢٥هـ)

جامع الفصولین: الشیخ بدرا الدین محمود بن  
اسمائل الشیر با بن قاضی سماوة الحنفی (١٤٨٢هـ)

الجمع والفرق: احمد بن محمد الحنفی الحموی (١٤٠٩هـ)

جوهرة التوحید: ابراہیم الملقانی (١٤٠٣هـ)

العربي (١٤٣٦ـ١٤٣٥هـ)

شرح جوهرة التوحيد: شيخ عبدالاسلام الجبورى  
(١٤٠٦هـ)

شرح جمع الجوامع: تقي الدين السكاكى  
(١٤٣٦هـ)

شرح السير الكبير: علامه سر حسنى (١٤٨٣هـ)  
(١٤٩٠هـ)

شرح الشفاء: ملا على قارئ (١٤١٥هـ)

شرح الصحيح المسلم: علامه أبى (١٤٢٢هـ)

شرح الصحيح المسلم: علامه نووى (١٤٩٦هـ)  
(١٤٩٧هـ)

شرح العقائد النسفى: علامه تقى زانى (١٤٩١هـ)

شرح العقيدة الطحاوية: محمود بن احمد بن  
مسعود الكوفي القونوى (١٤٠٠هـ)

شفاء العليل: حافظ ابن قيم (١٤٣٤هـ)

شرح الفرانص: علامه عبد الرحمن بن بشرى (١٤٣٣هـ)

شرح الفقه الاكابر: علامه عثى القرائى (١٤١٣هـ)

شرح الكنز: علامه زيلعى (١٤٣٢هـ)

شرح معانى الآثار: ابو جعفر الطحاوى (١٤٣١هـ)

شرح منية المصلى: اشیخ ابراهيم الحنفى  
(١٤٩٥هـ)

شرح المواقف: علامه جرجانى (١٤٨٦هـ)

المواہب اللدئیه: احمد بن محمد بن بکر الخطيب  
القططانى (١٤٩٢هـ)

شرح المواہب اللدئیه: علامه زرقانى

ر

رد المختار على الدر المختار: علام محمد امين  
ابن عابدين شامي (١٤٣٢هـ)

الرسالة التسعينية: حافظ ابن تيمية (١٤٣٧هـ)

الرسائل: علام ابن عابدين شامي (١٤٣٢هـ)

روح المعانى: علام محمود آلوسى (١٤٠٠هـ)

رياض المرتاض: علام شوكافى (١٤٥٠هـ)

الرياض (رياض النصرة في فضائل العشرة)

مجد الدين احمد بن عبد الله امجد الطبرى (١٤٩٦هـ)

ز

زاد المعانى: حافظ ابن قيم (١٤٣٤هـ)

س

سنن ابى داؤد: سليمان بن اشعث البختانى  
(١٤٣٦هـ)

سنن نسائي: علامه ابو عبد الرحمن نسائي (١٤٣٠هـ)

السير الكبير: امام محمد (١٤٨٩هـ)

سيرة ابن اسحاق: (١٤١هـ)

ش

شرح الاشباه: علامه حموى (١٤٠٩هـ)

شرح التحرير: محقق ابن امير حان (١٤٨٩هـ)

شرح الترمذى: القاضى ابو بكر ابن

علامه تقي (١٩٥٤)

(١٩٤٤)

غ

غاية التحقيق شرح اصول الحسامي: شيخ  
عبد العزيز البخاري (١٣٠٤)  
غنية الطالبين: اشیخ عبد القادر جيلاني (١٩٦٤)

ف

الفتاوى: حافظ ابن تيمية (١٢٦٥)  
فتاوى: اشیخ تقى الدين بن سعى (١٤٥٦)  
الفتاوى العزيزية: الشاھ عبد العزيز الدبلونی (١٢٣٩)

فتاوى قاضى خان: الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى الخنافى (١١٢١)

الفتاوى الهندية: جماعة من العلماء في عهد  
السلطان او رسم زریب مامیہ

فتح البارى شرح صحيح البخارى: حافظ  
ابن حجر مسعودي (١٩٥٢)

فتح البيان: أبو بكر سعد الدين حسن خان القنوجي (١٣٠٤)

فتح القدیر: علام قاضى الشوھدة (١٤٥٠)  
فتح القدیر: اشیخ ابن الہمام (١٩٦١)  
فتح المغیث: علام سخاوى (١٩٥٢)

الفتوحات: اشیخ الکبراء بن العربي محمود بن علی (١٩٣٩)

ص

الصارم المسلول: حافظ ابن تيمية (١٤٢٨)  
صبح الاعشى: ابوالعباس احمد الفلقشندي (١٩٨١)

الصحيح للبخارى: امام بخاري (١٢٥٠)

الصحيح المسلم: امام مسلم بن الحجاج القشيري (١٢٩١)

الصلات والبشر: مجد الدين الفير وزة باوى صاحب القاموس (١٢٨١)

الصواعق المحرقة: علامه ابن حجر المکي البیشی (١٩٤٣)

ط

طبقات الحنفية: علامه آنفوچ (١٩٩٠)

الطحاوى (١٢٣٣)

ع

العتيبة محمد بن احمد بن عبد العزيز لعتمي (١٤٢٨)

عقيدة السفاريني وشرحه: علامه بخاري (١٤١١)

عمدة الاحکام: تقى الدين ابن دقيق العيد (١٤٠٢)

عمدة القارى شرح صحيح البخارى:

الجزء الثاني الحنفي (١٤٢٨هـ)  
**المحيط**: بربان الدين محمود بن تاج الدين  
 الصدر الشهيد البخاري الحنفي (٥٣٢هـ)  
**المختصر**: علام جمال الدين عثمان بن عمر ابن حاجب (٦٣٢هـ)  
**مختصر مشكل الآثار**: علام طحاوی (٣٢١هـ)  
**المدخل**: علامة نعیم (٣٥٨هـ)  
**المسايرة**: الشیخ ابن الہمام (٨٦١هـ)  
**المستدرک**: الحافظ ابو عبد اللہ الحاکم (٣٠٥هـ)  
**المستصفى**: علامة غزالی (٥٠٥هـ)  
**مسند الامام احمد**: امام احمد بن حنبل (٢٣١هـ)  
**المسوى على المؤطرا**: شاه ولی اللہ الدہلوی (١٤٧٦هـ)  
**معالم التنزيل**: علامہ بغوي (٥١٦هـ)  
**المعتصر مختصر مشكل الآثار**: جمال الدين يوسف بن موسی المسلط الحنفی (٨٠٣هـ)  
**المفہوم**: الامام احمد بن عمر بن ابراهیم القرطبی (١٥٦هـ)  
**المقاصد و شرحه**: علامہ تقی القازانی (٧٩١هـ)  
**مکتوبات امام زبانی**: مجدد الف ثانی الشیخ احمد السرہندي الحنفی (١٠٣٨هـ)  
**منتخب کنز العمل**: الشیخ علی المتقی (٩٧٥هـ)  
**المنتقی فی الاحکام**: الحافظ عبد السلام (جدا بن تیمیہ)  
**منحة الحال علی البحر الرائق**: علامہ ابن

**الفرق بین الفرق**: الاستاذ ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر البغدادی (٣٦٩هـ)  
**فصل المقال**: علامہ ابن رشد الحفید (٥٩٥هـ)  
**فقہ الاکبر**: الامام ابو حنیفہ (١٥٠هـ)  
**فواتح الرحمة**: عبدالعلی محمد بن نظام الدين بحر العلوم (١٢٢٥هـ)

## ق

**القواعد والعواصم**: محمد بن ابراهیم الوزیر الیمانی (٨٣٠هـ)

## ک

**كتاب الایمان**: الحافظ ابن تیمیہ (٧٢٨هـ)  
**كتاب الخروج**: قاضی ابو یوسف (١٨٢هـ)  
**كتاب العلو**: علامی ذہبی (٧٢٨هـ)  
**كتاب الفصل**: علامہ ابن حزم (٢٥٩هـ)  
**كشف الاسرار شرح البرزدی**: شیخ عبد العزیز البخاری (٢٠٥هـ)  
**الکلیات**: قاضی ابوالبقاء ایوب بن موسی الحسینی الکفوی الحنفی (١٠٩٣هـ)  
**کنز العمل**: علی المتقی (٩٧٥هـ)

## م

**مجمع الانہر شرح ملتقی الابحر**: الشیخ عبد الرحمن بن محمد المدعو شیخ زادہ (١٠٢٨هـ)  
**مجمع الانہر**: الشیخ محمد بن علی بن محمد المهدی

|   |  |
|---|--|
| الفرهاروئي (١٢٣٩هـ تقريراً)   | عبد بن شامي (١٢٥٢هـ)   |
| النيلاء: علامه ذهبي (٧٨٥هـ)   | منهج السنة النبوية: حافظ ابن تيمية (٧٢٨٥هـ)  |
| نيسم الرياض شرح الشفاء: علامه خفاجي (١٠٦٩هـ)  | المنهاج: علامه نووي (٦٥٦هـ ياء٧٦٥هـ)   |
| نهاية: علامه المبارك بن محمد ابن الاشیر الشيباني<br>الجزري ابوالسعادات محمد الدين (٦٠٦هـ) | الموافق: علامه عضد الدين الرازي (٧٥٦هـ)<br>موضع القرآن: شاه عبد القادر الدلبوبي (١٢٣٠هـ)         |
| <b>ي</b>  | <b>الموهاب اللدنيه: احمد بن محمد بن ابي بكر الخطيب القسطلاني (٩٣٣هـ)</b>                         |
| اليوقيت: ابوالموهاب عبد الوهاب بن احمد اشعراني (٥٦٣هـ)                                    | المؤطا: امام مالك (١٧٩هـ)<br>الميزان: علامه شعرائي (٩٧٣هـ)<br>ميزان الاعتدال: علامه ذهبي (٧٨٥هـ) |



## ن

نبراس شرح عقائد: شيخ عبدالعزيز

# تمت بالضرير

# حاذیب کی پر اثر دنیا

زیر نظرِ کتاب میں مخدوب کیا چیز ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے  
اور مجازیب کے لاقم اور پھر مجازیب کے کچھ حیرت انگیز واقعات  
کا ذکر ہے تاکہ پڑھنے کے لیے روحانی فخریہ کا سلامان بھی وجہتے

تلہنیف **محمد روح اللہ شنبندی غفوری**

**مکتبہ عمر فاروق**

# مثالی فکران گیز واقعت اول طرف

آپ کا ہمدرد، ہمارا آپ کو زلانے اور ہنسانے والے مختلف وہ بچپ اور حیرت و فکران گیز  
معلومات و افعالات بحق آموز قصہ اور علمی الطائف کا منتحب محبوبہ

شیریط  
حضرت مولانا فضل الرحمن بشیر صاحب  
لستاد حدیث جامعہ غازیہ کراچی

**مولانا عبد الرحمن راشد**

**مکتبہ عمر فاروق**

علم کے طالبوں میں سائل شعیویٰ سے دچکی پیدا کرنے والی سلامی پہلیوں کا ایک خوب صورت ہے جو

# اسلامی پہلیوں

تألیف: مولانا روح اللہ نقشبندی غفوری

تقریب

فیصلہ حضرت مولانا فاضل علی الطیف صاحب کتاب چوپی دائرۃ الرحمہم  
شیخ الحدیث و نبیر حضرت مولانا علاء الدین حسن دائرۃ الرحمہم  
قاؤنٹی دارالعلوم دیوبند

مکتبہ عمر فاروق  
4/491 شاہ فیصل کالونی کراچی  
Tel: 021-4594144 Cell: 0334-3432345

# خلافتِ راشد و قدم بہ قدم

عبداللہ فارانی

- بچوں کا اسلام کامیاب ترین سلسلہ ■ مرسول عزیز شہزاد صفت ناول نگار عبد اللہ فارانی کا قلمی شاہکار
- صحابہ کی نسبت، ایمان کا میعاد اور حسنورہ سلسلہ سے نسبت کی دلیل
- خلائقِ اشیاء کے دچکپ واقعات انوکھے آئین جو مسلمان کے لیے بتریں نہیں

مکتبہ عمر فاروق  
4/491 شاہ فیصل کالونی کراچی  
Tel: 021-4594144 Cell: 0334-3432345